

صحبتے با اولیاء

ملفوظات

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ
کے مجلسی ملفوظات و ارشادات جن
سے اصلاح نفس، احسان، فکر آخرت
اور ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کرنے
کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔

مرتبہ

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری

سید مبینی آرٹھ منزل
پاکستان چوک کربھی

صُحُفُ الْبَيِّنَاتِ

ملفوظات

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ رحمہ اللہ سے

(حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس ملفوظات وارشادات جن سے اصلاح نفس، فکر، آخرت، ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور تصوف، احسان کے رُوز و آداب لے لیتے ہیں)

مترجم:

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری

ناشر:
ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی
ناشران و ماجر ان کتب
ادب منزل پاکستان چوک کراچی

(مطبوعہ ایجوکیشنل پریس کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

بفضلہ تعالیٰ یکم جنوری ۱۹۴۳ء میں ایک بار پھر مکہ مکرمہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تو میں وہاں اپنے

دیرینہ کرم فرما مولانا محمد احمد قادری صاحب سے ملنے کے لئے رابطہ عالم الاسلامی کے دفتر گیا۔ اتفاق سے وہاں مولانا تقی الدین ندوی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ دورانِ گفتگو مصروف نے اظہار فرمایا کہ اپنی کتب صحیحہ با اولیاء یعنی ملفوظات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدنیضہم جو مجلس معارف ترکیسر، سورت (گجرات، ہندوستان) سے طبع ہو چکی ہے، پاکستان کے لئے پاکستان سے بھی شائع کرنا چاہتے ہیں، میں نے اسے نعمت غیر مترقبہ جانا اور اس سلسلہ میں اپنے ادارہ ایچ ایم سید گنگوٹی کی خدمات پیش کر دیں۔ بحمد اللہ اس ادارہ کا بنیادی مقصد ہی کتب کی اشاعت ہی رہا ہے۔ اور میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی بعض دیگر تصانیف کی اشاعت کا بھی مشرف حاصل ہے مولانا تقی الدین صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اظہار پسندی فرمایا اور اپنی کتاب کا ایک تصحیح شدہ نسخہ مرحمت فرمایا چنانچہ آپ کی اجازت کے بعد ہم اس بابرکت کتاب کی اشاعت کے لئے قدم اٹھا رہے ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث مدنیضہم کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ اس دور کے اکابر اسلام میں نمایاں شخصیت رکھتے ہیں۔ اپنی عفت باخیر و برکت میں یادگار سلف اور آیات اللہ ہیں علم و عمل میں متقدمین کا بہتر نمونہ ہیں۔ آپ کی ذات بلیغ فیوض ہے کہ جو ہر دو وطن یعنی شریعت اور طریقت میں فیض رسانی فرما رہی ہے۔ آپ کی دینی خدمات کی مقبولیت کی یہ دلیل کیا کہ ہے کہ جو ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا کر ان سے دین کی مزید خدمت ہی جا رہی ہے۔ فجزاہ اللہ عنہما خیر الجزاء۔

میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی تصانیف کی طباعت و اشاعت کی توفیق بخشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مولانا تقی الدین ندوی مدظلہ کا بھی ممنون ہوں کہ جنہوں نے میرے ادارے کو اس سلسلہ میں خرید و خدمت سرانجام دینے کا موقع عطا فرمایا۔ جزاہ اللہ خیراً فی الدین والدنیا والاخرہ۔ اللہ پاک ان ملفوظات کو بھی مشرف قبولیت عطا فرمائے، اور نافع بنائے۔ آمین

بندہ عاجز و محتاج دعا

(حاجی) محمد زکی عفی عنہ

کراچی

۱۹۴۳ء

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	مدینہ منورہ میں تین دن کے بجائے ایک	۹	مقدمہ
۴۰	چاند قیام کی غیبی صورت		از مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ
	روضہ پاک پر درخواست اور واپسی	۱۷	عرض حال
۴۰	کی غیبی صورت	۲۱	حضرت شیخ الحدیث کے معمولات نظام الاوقات
۴۲	ایک استفتاء		از مولانا ابوالحسن علی ندوی
۴۲	جمل حسیر کا مطلب		پہلی مجلس
۴۲	حضرت سہارنپوریؒ کی نماز	۳۱	ماہ مبارک کے مشاغل میں انہماک استغراق
	حضرت رائے پوریؒ کے ۴۵ھ کے	۳۱	پنجاب کے ایک پیر صاحب کا قصہ
۴۲	سفر حج کا ایک قصہ	۳۳	حضرت اقدس کا ماہ مبارک میں تلاوت
	حجاج کے مادی سوغات لانے پر	۳۳	کا معمول۔
۴۳	اظہار ناپسندیدگی		حکیم طیب کا مقولہ کیا رمضان مجاز
	قدوائی صاحب سابق سفیر ہند	۳۴	کی طرح آتے ہیں؟
۴۴	برائے حجاز کا مکتوب		دوسری مجلس
۴۶	تیسری مجلس	۳۶	حضرت اقدس کا پہلا سفر حج
۴۶	حضرت رائے پوریؒ کا ایک مجاہدہ	۳۶	حضرت سہارنپوریؒ کے بارے میں
۴۷	پہچا جان کا مجاہدہ	۳۸	مولانا محب الدین صاحب کا ارشاد
۴۸	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا مجاہدہ	۳۸	مولانا محب الدین صاحب کا ایک کشف
۴۸	تقویٰ کسے کہتے ہیں	۳۸	مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کا پُر خط سفر
۵۰	ایک دیہاتی مبلغ کا قصہ	۳۹	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	بغیر واقفیت کے مسائل میں رائے زنی	۵۱	ایک بزرگ کا مجاہدہ
۷۲	مگر اکن ہے۔	۵۲	صوفی عبدالرب کا قصہ
۷۳	حوادث پر صبر جمیل	۵۴	مہمانوں کی برکت سے حق تعالیٰ کھلاتا ہے
۷۴	نماز میں لقمہ کا لطیفہ	۵۵	چوتھی مجلس
۷۵	بچے سجادہ رنگین کن الح کا مطلب		جو بزرگوں کی ابتداء کو دیکھے وہ کامیاب
۷۵	عملیات و تقویٰات	۵۵	اور جو انتہا کو دیکھے وہ ناکام
۷۷	ساتویں مجلس	۵۶	شاہ عبدالرحیم صاحب بہار پوری معروف
	حضرت بہار پوری سے بیعت اور	۵۶	میاں صاحب کا قصہ
۷۷	ذکر میں انہماک	۵۷	اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا راستہ آسان ہے
۷۹	اوقات کی قدر و قیمت	۵۸	حق تعالیٰ کی رضا جوئی و اخلاص کی برکت
۸۰	آٹھویں مجلس	۶۰	ہر نیکی صدقہ ہے۔
	حضرت مدنی و حضرت راپوری کے	۶۱	تصویر کیلئے؟
	اخلاق	۶۶	پانچویں مجلس
۸۰	۱۱ منٹ میں ۱۲ آدمیوں کا کھانا پکانا	۶۶	ایک ضروری تشبیہ
۸۴	نویں مجلس	۶۶	مدارس کی سرپرستی سے ڈرتے رہنا چاہیے
	رمضان المبارک میں قلتِ طعام سے		مدارس کے معاملات میں ہمارے اکابر
۸۴	ضعف نہیں پیدا ہوتا۔	۶۷	کی احتیاط و توجرع
۸۵	محبت کی تنقید بری نہیں معلوم ہوتی	۶۹	مدارس میں اسباب تعیش کی مخالفت
۸۶	اسٹرائنگ سے نفرت	۷۰	سادگی
	جو اللہ کے سامنے جھک جائے اس کے	۷۱	چھٹی مجلس
۸۸	سامنے ساری مخلوقات جھک جاتی	۷۱	ہر چیز میں میری تقلید نہ کرو
	ہے۔	۷۲	کتبوں کی رائے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۰۶	سوہوئیں مجلس	۹۰	دسویں مجلس
۱۰۶	مجاہدہ	۹۰	تفقید اگر اخلاص پر مبنی ہو تو محمود ہے
۱۰۶	مہانوں کا اکرام	۹۲	گیارہویں مجلس
۱۰۶	اپنے شام کا کھانا چھوڑنے کا قصہ	۹۲	سکوت کی مجلس
۱۰۸	رمضان کا ادبار	۹۲	اللہ کے احسانات کا شکر
۱۰۸	کاندھلہ کے انظار و سحری کا طریقہ	۹۳	بارہویں مجلس
۱۰۸	اوقات کی پابندی		دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہو اور
۱۰۹	اصل چیز مرید کی طلب ہے	۹۳	اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ سے کرو۔
۱۱۰	با وضو سبق کا پڑھنا		صرف چار احادیث انسان کے دین کے
	حضرت سہارنپوریؒ کے سامنے پان	۹۳	لئے کافی ہیں۔
۱۱۱	کھانے سے احتراز	۹۸	تیرہویں مجلس
۱۱۴	طلباء کا اجتماع	۹۸	ہر موقع پر احتیاط پیش نظر رہے۔
۱۱۲	ستر ہوس مجلس	۱۰۱	چودھویں مجلس
	اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہی غفلت سے		اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
۱۱۲	یا جائے اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔	۱۰۱	ارشادات میں دین و دنیا کی بھلائی ہے
۱۱۳	نسبت کے اقسام اربعہ	۱۰۳	بیعت کی حقیقت
۱۱۹	کبھی شگرد و آساد سے بڑھ سکتا ہے	۱۰۳	اجازت کی ذمہ داری
۱۲۰	ایک مبلغ کا خواب	۱۰۳	رمضان میں حضرت مدنیؒ سے مکاتبت
۱۲۱	اکٹھارہویں مجلس	۱۰۶	بندرہویں مجلس
۱۲۱	ہر تنقید تہل قبول نہیں	۱۰۶	دوستی و دشمنی میں راہ اعتدال
۱۲۱	تھانہ جہون حاضری اور وہاں قرآن	۱۰۶	"تعمیر حیات" کا مضمون
۱۲۲	سننے کی فرمائش۔		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	فضائل درود کی ایک حکایت پر ایک	۱۲۲	مدینہ پاک میں تجوید شروع کرنے کا قصہ
۱۳۵	اہم تنبیہ	۱۲۴	انیسویں مجلس
۱۳۶	بالیسیوں مجلس		خانقاہوں کی بربادی پر اظہارِ افسوس
	ذاکرین و مجاہدین کے لئے "الکمال و	۱۲۴	اور مدارس میں اسٹرائنگ کا سبب
۱۳۶	ارشاد" کا مطالعہ ضروری ہے۔		امسال اور گذشتہ سال کے رمضان
۱۳۷	یہاں با مقصد آنے سے خوشی ہوتی ہے	۱۲۵	میں موازنہ
۱۳۷	بوریا نشینی کو ترجیح	۱۲۶	تنہائی کا رونا
۱۳۸	یکسوئی کا رمضان		مرد مومن موت کا خندہ پیشانی سے
۱۳۹	دارِ جدید کی مسجد میں اعتراف کا آغاز	۱۲۷	استقبال کرتا ہے۔
	شیطان کبھی اہم کام سے ہٹا کر غیر اہم	۱۲۸	بلیسوں مجلس
۱۴۰	کام میں مشغول کر دیتا ہے۔	۱۲۸	کار خود گن کار بگنڈرا زگفتار
۱۴۱	تیسویں مجلس		طویل لباس کو شیخیت سے خاص
۱۴۱	دعا کے درجات	۱۲۹	مناسبت ہے۔
۱۴۲	کیمیاء کا قصہ		اپنے شیخ کے حکم سے سرتابی حرام
۱۴۲	چوبیسویں مجلس	۱۳۰	نصیبی کا سبب ہے۔
۱۴۲	علی گڑھ کے ڈاکٹروں کی آمد		حضرت تھانویؒ کا بڑے حضرت
۱۴۵	ایک تنبیہ	۱۳۰	راپوری کے بارے میں ارشاد
۱۴۵	کام انہماک سے ہوتا ہے	۱۳۱	اکیسویں مجلس
	یہاں کا ماحول اپنے مقام		ذوق و شوق ہو تو ہر منزل آسان
۱۴۶	پرستارم کرو۔	۱۳۲	ہو جاتی ہے۔
۱۴۷	ایک آدمی میں تین اشخاص	۱۳۲	سماع و عرس وغیرہ کی حقیقت
۱۴۸	اوقات کے تعین	۱۳۵	بے تحقیق حکم لگانا ناجائز ہے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۶۳	خطائے بزرگان گرفتار خطا است کا مطلب جو دنیا سے بے تعلق رہتا ہے اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔	۱۴۹	پچیسویں مجلس
۱۶۴	تیسویں مجلس	۱۴۹	اپنی جھنجھانہ کی جائیداد سے بے تعلق کا اظہار
۱۶۵	عید کی نماز کا اعلان	۱۵۰	چھبیسویں مجلس
۱۶۵	مرتبہ حقیقی حق تعالیٰ ہے شیخ صرف وسیلہ ہے	۱۵۰	لاچ بقدر ضرورت و بر محل اچھی چیز ہے
۱۶۶	اخلاص و خوشامد سے مانگنے کی لذت	۱۵۰	ورنہ بُری
۱۶۶	روپے کا نشہ	۱۵۱	موسمی پھل اپنے موسم میں نقصان دہ نہیں
۱۶۸	اکابر کے طریقت کو لازم پکڑو	۱۵۲	موت کا مراقبہ
۱۶۸	ضمیمہ	۱۵۳	ستائیسویں مجلس
۱۶۸	تبلیغی جماعت اور مدارس	۱۵۳	اسباب کا اختیار کرنا توکل کے ثنائی نہیں
۱۶۹	مشاجرات صحابہ کرامؓ تکوینی طور پر مکمل ہیں	۱۵۴	کاروبار زندگی میں مشغول رہ کر بھی آدمی ولی بن سکتا ہے۔
۱۶۹	کے لئے پیش آئے۔	۱۵۴	ذکر اگر آداب سے کیا جائے تو روز اہل دور ہو جائیں گے۔
۱۷۱	علماء کا اختلاف اچھی چیز ہے اور مخالفت بُری	۱۵۵	اٹھائیسویں مجلس
۱۷۳	آپس کے اختلافات میں راہ اعتدال	۱۵۶	سہارنپور کی دین داری
۱۷۵	ہمارے اکابر کی طبائع میں تضاد تھا مگر اس کے باوجود ایک تھے۔	۱۵۶	حضرت گنگوہیؒ کا نماز عید کیلئے تشریف لیجانا
۱۷۵	اللہ والوں سے ڈرتے رہنا چاہیے	۱۵۷	حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی
۱۷۷	اکابر کے حالات معلوم کرنے کا اشتیاق	۱۵۷	بھوپالی کی سہارنپور تشریف آوری
۱۷۷	ہر گئے راز نگ دبوئے دیگر است	۱۶۰	حضرت مولانا منظر آسن گیلانی سے ملاقات
۱۷۷	بڑوں سے امتساب اس وقت اچھا	۱۶۲	انستیسویں مجلس
۱۷۸	معلوم ہوتا ہے جب آدمی کوئی ذلی کمال	۱۶۲	ہمارے یہاں کے اثرات کو باقی رکھنے کی صورت
		۱۶۲	میں خواہشمند کو اجازت نہیں دیتا۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۹۸	ہمارے اکابر کے یہاں اخفا ہے	۱۷۸	پریشانی کا سبب کوئی مصیبت ہوتی ہے
	اکابر کی دُعا کے ساتھ حرکت کی	۱۷۹	اکثر مصائب کا سبب زبان درازیاں ہیں
۱۹۸	ضرورت ہے۔	۱۷۹	"آج بھی ہو جو براہِ تیم کا ایماں پیدا"
۱۹۹	ایک تاجہ کا کارنامہ	۱۸۲	ٹائم ٹیل کا قصہ
۱۹۹	اصل علاج رُوحِ کلہ ہے		انسان کے مقدر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ
۲۰۱	دُنیا مسافر خانہ ہے	۱۸۳	مل کر رہتا ہے
۲۰۱	ایک غیبی مدر	۱۸۶	تقدیر و تدبیر کی لڑائی
۲۰۲	عادت کو عبادت کا درجہ نہ دیا جائے		منجانب اللہ سفرِ حج کے انتظامات اور
۲۰۳	سماز کے اوقات کے اسرار	۱۸۸	مدرسہ کی تنخواہ نہ لینے کا واقعہ
۲۰۵	فکرِ آخرت	۱۹۱	روزِی انسان کو تلاش کرتی ہے
۲۰۶	حضرت ذی اللہ صاحب کے والد صاحب کا واقعہ		مولانا محمد لویف صاحب کے استغناء
۲۰۶	آداب کی رعایت	۱۹۲	کا ایک قصہ
۲۰۷	طالب کے لئے بیعت مفید ورنہ غیر مفید	۱۹۳	کرنل اقبال کا قصہ
۲۰۸	علماء و مدین سے خصوصی خطاب	۱۹۴	دادا اور قابلیت شرط نیست
۲۰۹	۱۳۹۱ھ کا رمضان المبارک	۱۹۵	ماثور و عاؤل کی تاثیر
۲۱۰	قابل رشک موت	۱۹۵	ایک خصوصی سوال
۲۱۰	تبلیغی جماعت کی ضرورت	۱۹۶	سند سے زیادہ استعداد مطلوب ہے
۲۱۳	بیعت کا طریقہ	۱۹۶	ایک شب میں ختم قرآن
۲۱۴	ختم خواجگان	۱۹۷	حفظ قرآن
۲۱۴	طالب صادق کی کامیابی یقینی ہے		اپنے مشخ کے لئے ایصالِ ثواب کی
۲۱۶	خاتمہ	۱۹۷	خصوصی تاکید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

از

حضرت مولانا سید العباس علی ندوی مدظلہ العالی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

رمضان المبارک جس طرح قرآن کی سانگہ، رحمتوں اور برکات و تجلیات کا مہینہ ہے طاعات و عبادات کی بہار کا زمانہ ہے اور روحانیت کا جشن عام ہے، اسی طرح عارفین عشاق اور عالی ہمت خاصان خدا کی دلی مُراد برآنے کا موسم اور ان کا محبوب ترین مہینہ ہے جس کے لئے وہ سال بھسرون گنتے رہتے ہیں۔ اولیاء و متقدمین کا ذکر نہیں بعض قریب العہد بزرگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی آینولے رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا تھا، رمضان المبارک آتے ہی ان میں ایک نیا جوش و ولولہ اور ایک نئی نشاط و امنگ پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ کبھی زبان حال سے یوں گویا ہوتے تھے:

هَذَا الَّذِي كَانَتْ الْاَيَّامُ تَنْتَظِرُهُ ۖ فليوف الله اقوام بمانذروا

اور کبھی کیف و سرور میں آگریوں گنگلنے لگتے تھے:

پلاساتیا وہ مئے دل فرورز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز

رمضان المبارک کے آتے ہی دینی و روحانی مرکزوں اور خانقاہوں کی فضا بدل جاتی تھی۔ ان لوگوں کے علاوہ جو وہاں مستقل طور پر قیام پذیر ہوتے تھے۔ شیخ و مرشد سے بیعت و عقیدت کا تعلق رکھنے والے دور دور سے اس طرح کھنچ کھنچ کر آجاتے تھے، جیسے آہن پارے مقناطیس کی طرف اور پروانے شمع کی طرف آجاتے ہیں۔ یہ رُوہانی مرکز تملوات اور نوافل و عبادات سے اس طرح معمور ہو جاتے کہ گویا دن میں اس کے سوا کوئی کام اور رمضان کے بعد پھر کوئی رمضان آینا نہیں ہر شخص دوسرے شخص سے بڑھ جہلنے کی کوشش کرتا اور رمضان کے ہر دن کو صرف رمضان ہی کہتے اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتا ہے اور خواجہ میر درد کے اس شعر کی سچی تصویر اور عملی تصویر بن جاتا۔

ساقیا یاں لگ رہا ہے چل چلاؤ! جس قدر بس چل سکے ساغر چلے

جو خدا کا بندہ تھوڑی سی دیر کے لئے اس ماحول میں آجاتا وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا۔ افسردہ طبیعتوں میں نئی گرمی، بلکہ سرگرمی، پست ہمتوں میں عالمی ہمتی اور اولوالعزمی بلکہ مردہ دلوں میں زندگی اور بلند پروازی پیدا ہو جاتی۔ کلی کا ایک کرنٹ تھا، جو دلوں سے دلوں کی طرف پہنچ جاتا اور مردہ جسموں میں ایک کلی سی پسند آکر دیتا، جو شخص اس روحانی و ملکوتی فضا کو دیکھتا اس کا قلب شہادت دیتا، کہ جب تک خدا طلبی کا یہ ہنگامہ برپا ہے اور دین و روحانیت کی شمع کے پروانے کا ہجوم ہے اور ہر قسم کے دنیوی اغراض اور نفس پرستی و دنیا طلبی سے بالاتر ہو کر خدا کو راضی کرنے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لئے اتنے آدمی کسی جگہ جمع ہیں۔ دنیا تباہ نہ ہوگی اور زندگی کی اس بساط کو تر کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جائیگا

اس وقت وہ بے اختیار خواجہ حافظ کے الفاظ میں اس طرح گویا ہو جاتا تھا۔

از صد سخن پیرم یک نکت مرا یاد است عالم نشو ویران تا یکدہ آباد است

افسوس ہے کہ آٹھویں صدی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کی خانقاہ غیاث پور (دہلی) اور تیرھویں صدی میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی کی خانقاہ مظہریہ واقع چتلی قبر (دہلی) کے رمضان المبارک کا آنکھوں دیکھا حال کسی مورخ نے نہیں لکھا۔ اور وہاں ذکر و تملوات کی سرگرمی، شب بیداری اور وہاں کا نظام الاوقات کسی کتاب میں تفصیل سے

نہیں ملتا، لیکن فوائد العواد، سید الاولیاء اور دارالمعارف میں اس کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جو شخص ان خانقاہوں کے شب و روز اور ان مشائخ کے ذوق و شوق اور ساز و سوز سے واقف ہے، وہ ان نقطوں سے پوری تحسیر اور ان نامکمل خطوط سے پوری تصویر تیار کر سکتا ہے کہ بیچ قیاس کن زگلستان من بہار مرا

لیکن جن خانقاہوں اور روحانی مرکزوں کے حصے میں ان خانقاہوں کی وراثت اور جن علماء و مشائخ کے حصے میں ان بزرگان سلف اور مشائخ پیشین کی نیابت و خلافت آئی۔ انہوں نے ان مناظر کو تازہ اور زندہ کر دیا۔ اور تاریخ نے ان کے عہد میں اپنے آپ کو دہرا دیا۔

وہ لوگ تو خال خال ہوں گے، جنہوں نے گنگوہ میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے زمانہ میں رمضان کی بہار دیکھی ہے، لیکن وہ لوگ بکثرت موجود ہیں۔ جنہوں نے گنگوہ کے دور کے بعد شیخ وقت حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب راپوری کے دور میں راپور میں اور حکیم آتات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے دور میں تھانہ بھون میں رمضان کی بہار دیکھی اور جس وقت وہ اس زمانہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے۔

ہمارے علم میں اس اخیر دور میں جس نے اسلاف کی اس سنت و رسمت کو زندہ کیا اور اس کو نئی آب و تاب بخشی وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ کی ذات بابرگات تھی، انہوں نے اپنے مخصوص طالبین و مخلصین کی درخواست پر کسی ایک جگہ قیام کر کے رمضان المبارک کے گزارنے کا معمول بنالیا، اور اطراف و اکناف بلکہ ملک کے دور دراز گوشوں سے منتخبین اور اراکات مندر پروانہ وار جمع ہونے لگے، حضرت نے ایک عرصہ تک سلہٹ میں رمضان المبارک گزارا۔ پھر کئی سال بانسکندی (بجگال) میں رمضان گزارا، ایک دو سال اپنے وطن مالوف الہم دادپورہ متصل ٹانڈہ ضلع فیض آباد خاص اپنے دولت خانے پر رمضان المبارک گزارا، ان سب مقامات پر سینکڑوں کی تعداد میں مریدین و خدام اور اس ماہ مبارک کے قدر و ارجح ہوتے ہوئے آپ کے مہمان ہوتے، آپ ہی ان مقامات پر تشریف لے جاتے۔ لوگ ذکر و شغل، تلاوت و

عبادات میں پوری سرگرمی و عالی ہمتی سے مشغول رہتے، خدام کو بڑی کیفیات و ترقیات محسوس ہوتیں، اور وہ عرصے تک مزے لے کر ان پر کیف و پر سرور ساعتوں کا ذکر کرتے رہے اگر اللہ کو منظور ہوتا اور مولانا کی زندگی و فاکرتی تو غالباً اللہ داد پورہ میں یہ مبارک سلسلہ جاری رہتا، اور خدا جانے کتنے بندگانِ خدا اپنی مراد کو پہنچتے، اور تربیت و تکمیل کے مدارج سے گزرتے، لیکن مولانا کی وفات (یوم جمعہ ۱۳ مارچ ۱۹۳۷ء) نے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا اور لوگ کفرافسوس ملتے رہ گئے۔

مرشدنا حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رانی پوری کے یہاں بھی رمضان کا غیر معمولی اہتمام تھا، تقسیم سے پہلے پنجاب کے اہل تعلق جن میں ایک بڑی تعداد علماء اہل مدارس اور صاحبِ اجازت مشائخ کی ہوتی تھی، شعبان کی آخری تاریخوں میں رمضان گزارنے کے لئے رانی پورہ آجاتے۔ اور پھر پوری یکسوئی و انہماک کے ساتھ دنیا و مافیہا سے بیخبر ہو کر دنیا سے الگ تھلگ اس گاؤں میں جس کو شہر کے ملانے والی کوئی پختہ سڑک بھی نہیں اور نہ کوئی ریلوے اسٹیشن قریب ہے، اس مبارک مہینہ کو وصول کرنے میں مشغول ہو جاتے اور عید کی نماز پڑھ کر ہی یہاں سے تشریف لے جاتے، اس زمانے میں رانی پور کی خانقاہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور شیخ و طالبین کا کیا حال ہوتا تھا، اس کا کچھ اندازہ راقم کی کتاب سوانح حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رانی پوری سے ہو سکتا ہے۔

رانی پور کے علاوہ بہٹ ہاؤس (سہارنپور) صوفی عبدالحمید صاحب کی کوٹھی واقع جیل روڈ، (لاہور) گھوڑا گلی (کوہ مری پاکستان) اور خالصہ جی کالج (لاہور) میں بھی اس دھوم کے ساتھ رمضان گزارے کہ کئی کئی سو خدام اور اہل تعلق کا مجمع تھا، اور ذکر و تلاوت اور مجاہدہ کا زور و شور،

اس سنت کا تسلسل و استمرار بلکہ اس کی ترقی و توسیع اس شخصیت کے حصے میں آئی جس کے ہاتھوں سے اپنے اسلاف و شیوخ اور اساتذہ و مریدوں کے بہت سے کارناموں کی حفاظت، بہت سی تصنیفات کی اشاعت اور بہت سی ناتمام چیزوں کی تکمیل

مقتدر ہو چکی تھی۔

ہمارے محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نے مخلصین طالبین کے، بجوم کی وجہ سے (جو خصوصیت کے ساتھ ماپنور، کھٹانہ بھون کے خالی ہو جانے اور مولانا مدنی کی وفات کی وجہ سے تربیت و سرپرستی کے محتاج، اور کیسوی کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے کے مشتاق تھے) ۱۳۸۵ھ سے سہارنپور میں اراطلبہ جدید مدرسہ مظاہر علوم کی وسیع مسجد میں پورے ہینے کے اعتکاف کا معمول اختیار کیا، اور طالبین و اہل تعلق نے پروانہ دار اس جگہ کا رخ کیا، مقیمین اور معتکفین کی تعداد بھی تدریجاً بڑھتی چلی گئی۔

راقم السطور کو ۱۳۸۵ھ اور ۱۳۹۰ھ میں چند چند دنوں کے لئے سہارنپور حاضر ہوئے اور چند دن ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، آتے جاتے رہنے والوں کے علاوہ کئی سو کی تعداد میں صرف معتکفین تھے، تین سو ساٹھ تین سو کا اوسط عموماً رہتا تھا، ہندوستان پاکستان کے علاوہ سرین شریفین، ترکی و جنوبی افریقہ اور انگلستان سے بھی اہل تعلق رہنے گزارنے اور حضرت کی صحبت بابرکات سے استفادہ کرنے کے لئے سفر کر کے آتے ہیں اور یہ سب شیخ ہما کے ہاں ہوتے ہیں۔ ان مختلف الاوطان، مختلف المزاج اور مختلف حیثیتوں اور معیاروں کے مہانوں کی میزبانی اور ان کی خدمت بڑا نازک و دشوار کام ہے۔ خاص طور پر سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں طبیعتوں کی نزاکت

۱۳۸۹ھ کا رمضان حضرت شیخ کا مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں گزارا، اسے ناچیز کو بھی نصف رمضان انہی دنوں مکہ مکرمہ گزارنے کے سعادت حاصل ہوئے، اس کے معمولات و نظام الاوقات کا تذکرہ آجے بیتے کے میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اور بڑھ جاتی ہے لیکن حضرت کے مخصوص خدام جن میں مولانا نصیر الدین صاحب، مولانا منور حسین صاحب مولانا کفایت اللہ صاحب پالنپوری اور بعض دوسرے حضرات قابل داد و مستحق شکر و دعا ہیں، وہ پوری بیدار مغزی و مستعدی و جفاکشی کے ساتھ ان مہانوں کی خدمت ناز برداری کی حد تک انجام دیتے ہیں، اس کے کسی قدر تفصیلی حالات "سوانح یوسفی" کے اس حصے میں دیکھے جاسکتے ہیں جو شیخ کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ تعداد بھی روزانہ روزوں ہے، اور اثرات و برکات بھی روزانہ روزوں ہیں اس سال جب کہ یہ سطور قلم بند کرائی جا رہی ہیں معتکفین کی تعداد قریباً تین سو تھی لے

ان مبارک آیام میں افطار و طعام و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اس سال سے پہلے پہلے معمول تھا کہ سب مقیمین و معتکفین شیخ کے قسریب آجاتے اور شیخ بلا کسی اہتمام و تصحیح اور ترتیب کے حاضرین کی تربیت و اصلاح اور افادہ تعلیم کے لئے کچھ ارشاد فرماتے، اس میں بزرگوں کے حالات و واقعات بھی ہوتے جن سے سُننے والوں کی

لے یہ تعداد مرتبہ معتکفین کی ہے ورنہ عام مہانوں کی تعداد اخییر عشرہ میں قریباً پانچ سو تھیں۔
(۲۷ تقی الدین ندوی)

لے رمضان المبارک کا نظام الاوقات، عام طور پر صبح صادق سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے سے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کر سحر کھاتے ہیں اور اس کے بعد نوافل یا تلاوت وغیرہ میں سب لوگ صبح صادق تک مشغول رہتے ہیں۔ نماز اول وقت میں ہوتی ہے، نماز کے بعد ۱۰، ۱۱ بجے تک سب لوگ آرام کرتے ہیں، رات کا عالم معلوم ہوتا ہے۔ دن بچے سے ساڑھے دس بجے تک کسی کا بیان یا موعظہ سنیڈ شیخ عبدالقادر سیلابی؟ مسجد کے سخن میں سنائی جاتی ہے، اس کے بعد ظہر تک تلاوت وغیرہ کا معمول ہے۔ نماز ظہر کے بعد ختم خواجگان اور دعا ہوتی ہے ظہر سے عصر تک ذکر کبھی ہوتی ہے۔ نماز عصر کے بعد کوئی کتاب یا موعظہ پڑھاؤ سلوک و اکمال الشیم سنائی جاتی ہے۔ جو غروب سے پندرہ^{۱۵} بیس منٹ پہلے بند (بقیہ اگلے صفحے پر)

ہمت بلند اور عزم پختہ ہو، کچھ تعویذ و سلوک کے نکات بھی، بعض علمی تحقیقات بھی، اور اپنی زندگی کے سبقت آموز اور عبرت انگیز واقعات بھی، اور کبھی کوتاہیوں اور بعض بے عنوانیوں پر محاسبہ بھی، غرض کہ تقضائے حال کے مطابق جو کچھ خدا دل میں ڈالتا ہے وہ بے تکلف فرمادیتے اور ہم لوگ ہمہ تن گوش ہو کر سنتے۔ اور بہت سے لوگ اس کو حرز جان بنا لیتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ان کے قلمبند کرنے میں کوئی اہتمام نہ تھا۔ لیکن ہے بعض احباب اپنے اپنے طور پر، بعد میں خاص خاص چیزوں کو نوٹ فرمالیئے ہوں، یہ افادیت و ملفوظات چونکہ خدا کے ایک مخلص

کردی جانتے تھے اور حاضرینہ دعائیں مشغول ہو جاتے تھے، انفرادی اور مغرب کے نماز اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کھانا اور چائے ہوتے تھے، اس کے بعد سب لوگ حضرت اقدس مدنیہ رحمہم کے مستکف کے قریب جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ملفوظات اکثر اسی مجلس میں بیان فرماتے تھے۔ البتہ اس سال اس مجلس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہؒ کے کتابے "نہتہ صوفیہ" وغیرہ سنائی گئی، اور اذان کے قریب حضرت اقدس بیعت فرماتے ہیں، بیعت کے وقت کا عجیب منظر ہوتا ہے جس کے تفصیل آئندہ آ رہی ہے اور عشاء کی نماز و تراویح و وتر میں قریباً ڈیڑھ گھنٹہ مرز ہوتا ہے۔ اور ہر عشرہ میں ایک نعمت کا معمول ہے اور دو عشروں میں مولوی سلیمان قزاقی سلمہ کا تراویح پڑھنا معمول رہا ہے۔ بہتے صاف دروازے پڑھتے ہیں، البتہ ایک عشرہ میں ہر سال مختلف لوگوں نے قرآن سنایا۔ وتر کے بعد نعمت سورہ البقرہ دعا کا معمول ہے اور ایک دو مرتبہ بعض لوگوں نے حفظ کی نیت سے حضرت اقدس کو قرآن سنایا۔ ایسے موقع پر پیر الین شریف کے بعد دعا افسانہ میں ہوتی ہے، اس کے بعد ایک مختصر مجلس ہوتی ہے جس میں فضائل رمضان و فضائل دُرد و سنائی جاتی ہے۔ کبھی مرز فضائل دُرد کے دُرد سنایاتے پر اکتفا کیا گیا۔ اس کے بعد سب حضرت لافل و قلاتی وغیرہ معمولات میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض باہمت حضرات شب بیدار رہتے ہیں۔ عام طور پر ۱۲ بجے شب کے بعد لوگ سونے کے تیاری کرتے ہیں۔

بندے کی زبان سے نکلے ہیں اور ایک بابرکت زمانہ اور ایک پُر سکینت ماحول میں ادا ہوئے ہیں۔ اس لئے اس کی برکت المضاعف اور ان کی برکت دو چندان بلکہ سو چندان ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہو کر بڑی مسرت ہوئی کہ عزیز گرامی مولوی تقی الدین صاحب ندوی مظاہری سلم نے (۵۶-۸۸-۸۹ ص) ان کے قلم بند و محفوظ کرنے کا اہتمام کیا، وہ حضرت شیخ کے تلمیذ خاص بھی ہیں اور مرید یا اختصاص بھی، پھر صاحب تصنیف و صاحب درس ہیں۔ اس لئے انھوں نے جو کچھ لکھا وہ حفظ و احتیاط کے ساتھ، اور جو مضمون ادا کیا انہم و توفیق کے ساتھ اور ملفوظات پر جا بجا نظر ڈال کر اس کی تصدیق و توثیق بھی ہوئی۔ اس لئے پوری اُمید ہے کہ مطالب صحیح طور پر ادا ہوئے ہیں، اور جو کچھ اس مجموعے میں آیا ہے وہ قابل اعتبار و لائق اشاعت ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو اچھی تادیر جاری رکھے، اور اہل ذوق کو جسمانی حاضری اور اپنے کانوں سے سننے کی سعادت نصیب فرمائے، لیکن جن لوگوں کو اس کا موقع نہیں وہ اس مجموعے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ماحول و فضا کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو بغیر دیکھے سمجھ میں نہیں آسکتی کہ شنیدہ کے بودمانند دیدہ، اللہ تعالیٰ مرتب کو جزائے خیر اور قارئین کو استفادہ اور انتفاع کی توفیق عطا فرمائے۔

فقط والسلام

ابوالحسن علی المحسنی الندوی

ہمان فائدہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور
۱۲ شوال ۱۳۹۱ھ یوم چہار شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ حال

— از مرتب —

ناچیز مرتب ملفوظات حضرت اقدس مدنیو منہم کی تقریروں و ملفوظات کا ضخیم حصہ قلم بند کئے ہوئے تھا، اپنی طالب علمی کے زمانے میں بگاری شریف کے سبق میں اکثر موقع کی مناسبت سے حضرت اقدس قلم بھی سنا یا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کو بھی میں نے قلم بند کر لیا تھا، اس کے بعد سال بیا کئی بار حاضری کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے، اس حاضری میں کبھی سننے کا موقع ملتا رہا نیز ۱۳۸۴ھ کے سفر حج میں ناکارہ حضرت اقدس مدنیو منہم کے ہم سفر رہا تھا، مگر افسوس کے اس زمانے کی چیزیں قلم بند نہ کر سکا، جس کا اب یہ تجدد قلم ہے، البتہ ۱۳۸۶ھ سے ۱۳۸۸ھ تک ۱۳۹۱-۹۰ھ کے رمضان المبارک میں پورے چھ ماہ حاضری کی سعادت حاصل رہی۔ اور ملفوظات کے قلم بند کرنے کا اہتمام رہا، اس سال ماہ مبارک میں حضرت اقدس کے کئی خاص خدام بالخصوص محترم مولانا منور حسین صاحب مدظلہ مولانا جمیل احمد صاحب حیدر آبادی، مولانا سجاد صاحب اور عزیز گرامی مولانا عبد الرحیم متالا سلم نے ان کو اہتمام سے قلم بند کرنے اور مرتب کرنے کی تائید فرمائی، مگر اس اندیشہ کی بنا پر کہ حضرت اقدس سے اشاعت کی اجازت و شمار ہے۔ میں نے ان کی ترتیب و انتخاب کے کام کو بوخرد کر دیا، اس کے بعد میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظلہ و حضرت مولانا محمد منظور نعمانی

صاحب زبانی اور خط و کتابت میں اس کا ذکر کیا تو ان دونوں بزرگ نے بالخصوص محترم مولانا
 معین اللہ صاحب ندوی نے ان کو مرتب کرنے کی تاکید فرمائی، اس لئے ان ملفوظات کے گلدستہ
 کو مرتب کر کے ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نے ان کی ترتیب میں اپنی تحریر و حافظہ پر اعتماد
 کیا ہے اور اس کی کوشش کی ہے کہ حضرت اقدس کے الفاظ و جملے تک میں حتی الامکان تبدیلی نہ ہو سکے
 اگرچہ حضرت اقدس جس رقت انجمنہ انداز میں بیان فرماتے ہیں اسکی تصویر کشی سے یہ بے بصناعت
 قاصر ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ سوا سزا پوری میں تحریر فرماتے ہیں۔
 "کامل الاحوال بزرگوں کی باطنی کیفیت کا اندازہ عامی کیا جا سکتے ہیں، ان حضرات کا

اصول و مسلک یہ ہے کہ:

عشق عھیان است گستور نیست

لیکن پھر بھی پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے تو دو چار قطرے ٹپک پڑتے ہیں۔ ڈبڈبائی ہوتی
 آنکھیں ضبط کر لے اور اخفائے حال کی کوشش اس حقیقت کی غازی کرتی ہے۔ جس سے سینہ معمور اور دل معمور
 ہے، کسی حقیقت شناس نے عرصہ ہوا کہا تھا:

خوشتر آن باشد کہ ستر دلبران گفتہ آید در حدیث دیگران

حضرت اقدس جس وقت اپنے اکابر و مشائخ کے حالات بیان فرماتے ہیں اور جس وقت بیعت کے
 الفاظ اور فرماتے ہیں تو ساری مجلس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ زبان حال گویا اس حقیقت کی ترجمانی
 کرتی ہے۔ پھر پرش جرات دل کو چلائے عشق سامان صد ہزار مگداں کئے ہوئے

حضرت کے درک حدیث میں جن لوگوں کو جنتی کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے
 ہیں کہ بخاری شریف میں جہاں مرضی الوفاات کی حدیث آئی تھی، اس وقت مجلس کا جو حال ہوتا تھا وہ ناقابل
 بیان ہے، تھوڑی دیر کے لئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج ہی یہ نسخہ ارحال پیش آیا ہے، اسی طرح

مسلمات حدیث میں حضرت اس حدیث الفیٰ احبب یا معاذ کو پڑھتے ہیں تو سارے مجمع پر گریہ طاری ہو جاتا
 الہی درد و غم کی سرزمین کا حال کیسا ہوتا محبت گہاں کا چشم تر سے میچہ نہ برساتی

اہل اللہ کے ملفوظات میں جو زندگی و بے ساختگی پائی جاتی ہے، وہ عام تحسیریات و تصنیفات میں نہیں ملتی، ان میں مختلف ذوق مختلف المزاج لوگوں کے حالات کی رعایت ہوتی ہے، ہر شخص اپنے حسب حال اپنے درد کا درماں پاسکتا ہے، پھر حضرت اقدس حکایات و اکابر کے حالات مجمع کی مناسبت سے بیان فرما کر ان ایسے نتائج نکالتے ہیں کہ جن سے سامعین کے قلوب پر غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔

ان ملفوظات کا بیشتر حصہ ماہ مبارک کی مجالس میں بیان فرماتا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں حضرت اقدس کی خدمت میں ماہ مبارک گزارنے والوں کا اتنا بڑا مجمع آتا ہے کہ حرمین شریفین کے سوا اور جہاں پر نظر دیکھنے کے لئے نہیں ملے گا، ہندو پاک کے علاوہ حرمین شریفین، ترکی و افریقہ، امریکہ و سٹامبول کے لوگ آ کر ماہ مبارک میں موجود ہوتے، عام طور پر مدارس عربیہ کے اساتذہ و طلبہ کی تعطیلات بھی انہیں ایام میں ہوتی ہیں اس لئے اکثر وغالب تعداد اس مجمع میں انھیں کی ہوتی ہے، ان ملفوظات کے مخاطب اولین علماء و طلبہ مکہ عتبات ہے۔ عہد حاضر میں ہمارا دینی طبقہ بالخصوص مدارس عربیہ جس دینی و روحانی و علمی تنزل و انحطاط کا شکار ہے اس کے اصلاح کی محنت کو بہت ہی فکر ہے، ملفوظات کے قارئین پڑھنے کے بعد اس کا بخوبی اندازہ کر سکیں گے ۱۹۶۵ء کے بعد ماہ مبارک گزارنے کا سلسلہ مجمع کی کثرت کی بنا پر مدرسہ مظاہر علوم کے دارالطلبہ جدید کی مسجد میں شروع کیا گیا۔ ہر سال اس مجمع میں امانت ہونا چلا جا رہا ہے، سنہ ۱۹۶۷ء کے رمضان میں مستقل مقیمین کی تعداد قریباً چھ سو تک پہنچ گئی تھی، یہ سب حضرات حضرت اقدس مدنیہ صہم کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا نعیم الدین صاحب ناظم طعام اور ان کے رفقاء کے کارکو جو حضرت کی جانب سے ان سب مہانوں کے کھانے اور سحری و افطار کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح مولانا کفایت اللہ صاحب پانپوری اور ان کے رفقاء نے دونوں وقت کی چائے کا انتظام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ حق تعالیٰ اس چشمہ فیض کو تازہ قائم و دائم رکھتے، آمین

یہ ناچیس سزا ہے جس نے قربی حضرت مولانا سید الرحمن علی ندوی مدظلہ کا دل سے ممنون ہے کہ انہوں نے ان ملفوظات کو اپنی مجالس میں سنا اور اس پر ایک قیمتی مقدمہ تحریر فرمایا۔

مزید اطمینان کے لئے اس ناچیس سزا نے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی مدظلہ (مفتی اعظم

دارالعلوم دیوبند) سے اس مسودہ کے ساعت کی درخواست کی، انھوں نے ازارہ شفقت و عنایت اس کے اکثر حصے کی ساعت کی اور بعض مقامات پر تصحیح فرمائی، جس پر یہ ناچیز نے ہمدردی سے۔

اسی طرح اس کے نشر و اشاعت کے سلسلے میں میرے کرم فرما جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب ڈیوانی نائب مہتمم دارالعلوم فلاح دارین کی وساطت سے محترم حاجی محمد چوہان ساؤتھا افریقیہ کے تعاون نے سہولت پیدا کر دی، حتیٰ تعلقے ان تمام حضرات کو دنیا و آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ناچیز مرتب اور قارئین کو ان محفوظات اور صاحب محفوظات کی برکات سے مالا مال فرمائے۔

اب یہ مفید و دلآویز مجموعہ ناظرین کی خدمت میں عرفی کے الفاظ میں اس معذرت کے ساتھ

پیش ہے۔

امید بہت کہ بیگانہ عسرفی را

بدوستی سخنہائے آشنا بخشید

فقط والسلام

تقی الدین ندوی مظاہری

فلاح دارین ترکیسر سورت (گجرات)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شیخ کے معمولات و نظامِ اوقات

(ماخوذ از سوانح یوسفی)

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

شیخ کی زندگی اپنے علمی اہمک، خدمتِ خلق، بیکسولی اور شدید مصروفیات کے اعتبار سے اس بیسویں صدی میں ان علمائے سلف کی تندہ یادگار ہے۔ جن کا ایک ایک لمحہ عبادت، خدمت اور علم کی نشر و اشاعت کے لئے وقف تھا اور جن کے کارنامے دیکھ کر ان کے اوقات کی برکت، ان کی جفاکشی، بلند تہمتی اور ان کی جامعیت کے سامنے آدمی تعوییر حیرت من کر رہ جاتا ہے اور ان کی روحانیت تائید الہی کے سوا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔

فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد کچھ گھر میں تشریف لے آتے ہیں، اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ چلنے نوش فرماتے ہیں، جن کی تعداد پچاس ساٹھ سے شاید کبھی کم ہوتی ہو، بعض دنوں میں اس سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لئے ناشتہ کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن اس وقت شیخ کا معمول صرف چائے پینے کا ہے۔ اگر کوئی ایسا عزیز اور اہم ہمان ہوتا ہے جو کھوڑے وقت کے لئے سہارن پورا آیا ہوتا ہے یا اس سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہوں گی تو تخلیہ کر لیا جاتا ہے اور کچھ دیر وہیں تشریف رکھتے ہیں پھر بلاخانے پر اپنے علمی و تصنیفی معاملات پورا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں۔ جاڑے، گرمی، درسات و حوادثِ تحریکات اور کسی بڑے سے بڑے معزز ہمان کی آمد کے موقع پر بھی اس میں کتر فرق واقع ہوتا ہے۔ لیکن

مرتب فرمایا کہ حضرت را پور کی آیا ایسے اہلک و مشائخ کی تشریف آوری کے موقع پر میں نے اپنا یہ معمول ترک کر دینا چاہا تو سر میں درد ہو گیا۔ اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لئے گیا، اور تھوڑا سا کام کر کے واپس آ گیا۔ اکثر یہ حضرت خود اسی با اصرار شیخ کو رخصت فرمادیتے، اور حرج گوارا نہ فرماتے۔ اوپر کی نشست گاہ دیدنی ہے، نہ کہ شنیدنی ایک چھوٹا کمرہ جس میں کتابوں کا اس طرح ذخیرہ ہے گویا درود یو ارا سی کے ہیں ان کتابوں کے درمیان بمشکل ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جس میں شیخ تشریف رکھتے ہیں، وہ جب اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کتابوں کے درمیان پناہ لیتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پرندہ جو دن بھر غیر جنس میں رہا ہے اپنے آشیانے میں واپس آ گیا ہے، اس وقت ان کا وہی حال ہوتا ہے جس کی تصویر خواجہ میر درد نے اس شعر میں کھینچ ہے۔

کھینچ ہے۔

چلیئے کس واسطے لے درد میخانہ کے بیچ کچھ عجب متی ہے اپنے دل کے پیانہ کے بیچ
اگر کسی کو اس وقت کوئی ضروری بات کہنے کے لئے یا کسی عزیز بہانہ کو ملنے کے لئے جانا پڑتا ہے تو اس کو بمشکل بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے۔ چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر ایک آدھ چھڑہ یا چٹائی کا فرش کچھ پڑنی شیشیاں، اور دواؤں کی بوتلیں گرد، جس میں معلوم نہیں کتنا علم کا جوہر اور اخلاص کی تب و تاب ہوتی ہے، اٹھ بجے تک شیخ پوری بیکھوئی کے ساتھ وہاں کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا جی چاہتا ہے کہ سوائے ضروری اور فوری کاموں کے غفل نہ واقع ہو۔ ان اوقات میں ان خاص مہانوں اور ذکر و مشغل کرنے والے عزیزوں کو اجازت ہوتی ہے کہ صحن میں بیٹھ کر ذکر جہر کرتے رہیں اور وہ کام میں مشغول رہتے ہیں، اور اس سے شیخ کی بیکھوئی میں کوئی نسر ق واقع نہیں ہوتا۔

اٹھ بجے نیچے تشریف لے آتے ہیں، دسترخوان کچھتا ہے، مہانوں کی جماعت کثیر شریک طعام ہوتی ہے، عام طور پر دو اور تین مرتبہ معج بیٹھتا ہے۔ شیخ کی اصطلاح میں اس کو پہلی پیرھی اور دوسری پیرھی کہتے ہیں، شیخ اول سے آخر تک کھانے میں شریک رہتے ہیں اپنے کھانے کی مقدار اور رفتار ایسی رکھتے ہیں کہ آخری کھانے والے تک کا ساتھ دے سکیں، کھانے میں بالعموم تنوع ہوتا ہے۔ متعدد قسم کے سالن و انسر مقدار میں ہوتے ہیں اور بڑے اصرار سے مہانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نو وارد و ناخر کار

بعض اوقات اس اصرار سے اپنے معمول سے زیادہ کھا کر تکلیف بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن غور سے دیکھنے والا معلوم کر لیتا ہے کہ شیخ برائے نام شریک ہیں ان کی خوراک اتنی کم ہوتی ہے کہ اس مقدار کے ساتھ اتنی محنت پر تعجب ہوتا ہے لیکن دسترخوان پر وہ ایسا سا باندھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے پانا کہ کریم النفس اور فراخ دل میسر بان خود کس قدر اس کھانے میں شریک ہے۔

کھانے سے پہلے ڈاک آجاتی ہے جس پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں اس ڈاک کی مقدار روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ان سطور کے تحریر کے زمانے میں تیس چالیس کے درمیان روزانہ خطوط کا اوسط ہے۔

کھانے کے بعد شیخ آرام کرنے کے لئے مضطرب ہوتے ہیں ۱۲، ایک اس میں ضرور بچ جاتا ہے۔

یہی وقت ان کے آرام کا ہے۔ ظہر کے بعد ایک گھنٹہ وہ ڈاک اور اسی درمیان میں کسی عزیز مہمان سے

گفتگو کی نذر کرتے ہیں۔ گھنٹہ ختم ہونے کے بعد حدیث کے درس کے لئے تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے یہ درس

دارالطلبہ کے دارالحدیث میں ہوتا تھا جو بالائی منزل پر ہے۔ اب چڑھنے بلکہ چلنے تک کی معذوری کی بنا پر

دارالطلبہ کی مسجد میں ہوتا ہے۔ مولانا حافظ عبداللطیف صاحب کی وفات کے بعد سے بخاری شریف آپ ہی

پڑھاتے ہیں اس درس کی کیفیت بھی دیدنی ہے نہ کہ شنیدنی، حدیث کے احترام و سنت کے شعف اور ذات نبوی

سے عشق کی کیفیت کا اثر تمام حاضرین پر پڑتا ہے اور بعض مرتبہ توساری مجلس پر ایک بجلی سی گوند جاتی ہے خصوصاً

ختم کتاب اور دعا کے موقع پر تو یہ پیمانہ ہزار وسعت و عالی ظرفی کے باوجود جھک پڑتا ہے، اسی طرح وفات نبوی

کی احادیث پر دامن ضبط ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، آنکھیں بے اخت یار اشک بار اور آواز گلو گیم ہو جاتی ہے

(تین سال سے نو ویلیوں کی وجہ سے درس کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ (ت)

عصر کی نماز کے بعد مکان پر عام مجلس ہوتی ہے، سارا صحن زائرین اور حاضرین سے بھرا ہوتا ہے

ان میں مدرس کے طلباء اور بعض اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور مدرس کے جہان بھی چائے کا اس وقت

بھی دور چلتا ہے، تعویذ لکھنے کا اسی وقت معمول ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اب دیر تک مسجد ہی میں رہتے

۱۔ آج کل یہ مجلس باہر مولوی نعیر الدین صاحب کی ٹال میں ہوتی ہے (ت)

ہیں، اگر کوئی خاص بہانہ یا عسریز آئے ہوتے ہیں تو ان کو خصوصی طور پر وقت دیدیتے ہیں عشاء کی نماز سے پہلے دسترخوان پکھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن شیخ کا عرصہ سے رات کو کھانے کا معمول نہیں، کوئی خاص عسریز بہانہ ہونے تو ان کی خاطر دو چار لقمے تناول فرماتے ہیں (مگر اب بھی چھوٹ گیا ہے، ات عشاء کے بعد پھر کچھ دیر مخصوص و محدود مجلس رہتی ہے، جس میں زیادہ تر بے تکلف اور ہر وقت کے حاضر باش خدام یا عسریز بہانہ ہوتے ہیں، پکھڑا آرام فرماتے ہیں۔

جمعہ کے دن نماز سے پہلے مختلف دیہاتوں اور اطراف و مواضع سے آنے والے اہل تعلق واردات کو مجلس میں شرکت کی اجازت ہوتی ہے، اسی موقع پر نئے طالبین کو بیعت بھی فرماتے ہیں، اور ذکر و اصلاح حال کی تلقین بھی، یہ تعداد کبھی بڑھائی یا کم کر دی جاتی ہے، سارا صحن اور اندر باہر سب بکھڑا جاتا ہے، پھر جمعہ کی تیاری ہوتی ہے۔ جمعہ حکیم ایوب صاحب کی چھوٹی مسجد میں جو قسریب ترین مسجد ہے، ادا فرماتے ہیں کھانا معمولاً و التزاماً جمعہ کے بعد ہوتا ہے، عصر کی مجلس عام جمعہ کے دن ملتوی رہتی ہے۔ شیخ کا برسوں سے جمعہ کے دن ماہین عصر و مغرب و عار میں مشغول اور متوجہ الی اللہ رہنے کا معمول ہے، فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا بھی یہی معمول تھا، چلنے بھی اُس روز مغرب کے بعد ہوتی ہے (اب چلنے کا معمول نہیں رہا۔) (ت)

رمضان المبارک میں تو نظام الاوقات بہت بدل جاتا ہے، سرگرمی، بھٹکشی، بلند تہمتی، ذوق و عبادت و تلاوت اور کیوں و انقطاع اپنے نقطہ عروج پر ہوتا ہے۔ شیخ کے یہاں رمضان کا معاملہ بالکل الگ ہے، اور وہ اولیائے متقدمین اور مشائخ سلف کی انخسری یادگاروں میں سے ہے۔ تاہم السطور کو ۱۹۳۶ء میں ایک مرتبہ پورا رمضان ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی، نظام الدین میں قیام تھا اور شیخ کی خصوصی شہقت و تعلق کی وجہ سے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، پورے مہینے کا عکاس تھا، روزانہ ایک قسراں شریف ختم کرنے کا التزام تھا، قدرے اضافہ کے ساتھ (تاکہ اگر ۲۹ کا چاند ہو جائے تو تیس قسراں جمید ختم کرنے کے معمول میں فسوق نہ آئے) نظام الاوقات یہ رہتا تھا کہ انظار صرف ایک مدنی کھجور سے پکھڑا ایک پیالی چائے اور ایک پیڑھ پان، نماز مغرب کے بعد ادا بین شروع

فسرادیے جن میں کئی پارے پڑھتے، آدابین سے فراغت کے بعد اور عشا کی نماز سے پیشتر ایک خصوصی مجلس جس میں خاص عسریز و خدام شریک رہتے۔ عشا اور تراویح کے بعد پھر مجلس ہوتی، جس میں ہلکی سسی انظار ہی عموماً امر و دیکھنا کا کچا لویا کچھ پھلکیاں برے وغیرہ لیکن قلیل مقدار میں کھانے کا اس وقت بھی ذکر نہیں یہ گرمیوں کا زمانہ تھا، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنے کے عادی تھے، اس لئے تراویح میں بہت دیر ہو جاتی، ڈیڑھ گھنٹہ مجلس میں بیٹھ کر حاضرین مجلس تو آرام کرنے چلے جاتے شیخ نوافل میں مشغول ہو جاتے، سونے کا ایک منٹ کے لئے بھی معمول نہ تھا۔ آخر وقت میں سحر کھاتے اور چربیس گھنٹے میں بھی کھانے کا وقت تھا، نماز فجر اول وقت ہو جاتی، نماز کے بعد آرام فرماتے اور دن نکلنے کے بعد بیدار ہوتے ۲۲ گھنٹے میں بھی سونیر کا وقت تھا، پھر دن بھر قرآن مجید ہی کا دور رہتا، یہی رمضان کا سب سے بڑا معمول تھا جو کچھ وقت ملتا قرآن مجید کی تلاوت اور دور میں گذرتا۔

رمضان کی اس مشغولیت اور علوئے ہمت میں صحت کے متزل کے باوجود اور ترقی ہی ہوتی چلی گئی ان سطور کے تحریر کے وقت جو پچھلا رمضان ۱۳۵۸ھ کا گزارا ہے، اس کی تفصیل ایک خادم خاص اور ہر وقت کے حاضر باش اس طرح تحریر کرتے ہیں۔

”وسط شعبان سے ۲۸ رمضان تک جو مہمان باہر سے آئے اور پورا رمضان یا کچھ آیام گزار کر واپس گئے، ان کی ایک فہرست ایک خادم نے بطور خود مرتب کی تھی، اس فہرست میں ۳۱۳ مہانوں کے نام ہیں۔“

حضرت شیخ کا نظام الاوقات رمضان شریف میں یہ رہا، سحری کے لئے جب لوگ بیدار ہوتے تو حضرت عموماً نوافل میں مشغول اور جب سحری کا وقت ختم ہونے لگا تو ایک دو انڈے نوش فرماتے اور چائے کی ایک پیالی، پھر جماعت تک تکیہ لگانے لوگوں کی طرف متوجہ رہتے، مہمان حضرات آنے سامنے ہوتے، بعد نماز فجر آرام فرماتے۔ تقریباً بجے دن تک پھر ضروریات سے فارغ ہو کر نوافل میں مشغول ہو جاتے، دوپہر زوال کے قریب تک، پھر ڈاک ملاحظہ فرماتے اور بعض ضروری خط لکھتے

اذان ظہر تک، پھر نماز میں مشغول ہوتے، بعد ظہر فوراً تلاوت شروع فرماتے مسلسل عصر تک، ہمانوں کو ہدایت تھی کہ سب لوگ ہمہ تن ذکر میں مشغول ہو جائیں قبیل عصر تک، چنانچہ ذاکرین ذکر میں مشغول ہوتے اور دوسرے حضرات تلاوت میں مشغول رہتے عصر تک، بعد عصر حضرت قرآن شریف سناتے، اکثر ہمان یا تو قرآن شریف سنتے یا خود تلاوت کرتے قبیل انطاز تک صرف چند منٹ پہلے تلاوت موقوف کر کے مراقب ہو جاتے، ہمانوں کو ہدایت تھی کہ صحن مسجد میں انطاری کے دسترخوان پر چلے جائیں اور حضرت اکیلے پردہ میں ہو جاتے، اذان پر مدنی کھجور سے انطاز اور اس پر زرم ایک پیالی نوش فرماتے، پھر مراقب ہو جاتے یا ٹیک لگا کر بیٹھتے، نماز مغرب سے فراغت کے بعد ہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا اور حضرت دیر تک نوافل میں مشغول رہتے، اذان کے آدھ گھنٹہ پہلے تک، اس وقت ایک دو انڈے نوش فرماتے اور ایک پیالی چائے یہ چائے بھی ہفتہ عشرہ کے بعد بہت اصرار پر شروع ہوئی، اسی طرح اندا بھی سنت اصرار پر منظور فرمایا تھا، روٹی چاول وغیرہ کی قسم سے کوئی چیز بھی رمضان بھر بلکہ ایک دن پہلے بھی نوش نہیں فرمایا، اذان عشر سے آدھ گھنٹہ پہلے پردہ ہٹا دیا جاتا۔ حضرت ٹیک لگا کر ہمانوں کی طرف متوجہ رہتے، عجب منظر ہوتا، نئے آنے والے ملتے، پھر اذان ہو جانے پر ضروریات سے فارغ ہو کر نوافل پھر فرض و تراویح میں مشغول ہو جاتے، اس رمضان میں تین قسم کی سماعت فرمائی، پہلے مفتی عیسیٰ صاحب نے سنائی۔ پھر حافظ نسر قان صاحب نے پھر میراں سلمان سلمہ، پھر مفتی صاحب نے۔ پورا ماہ اعتکاف میں گزارا اور اکثر و بیشتر ہمان بھی معتکف رہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ڈاکھانے بھیجنے کے لئے کسی آدمی کا ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ بس حضرت کے تین چار خادموں کو خاص کر کے ضروریات کے لئے غیر معتکف دیکھا گیا۔

آخر عشرہ میں یا اس سے کچھ پہلے بعض بعض دوستوں کے بار بار مٹھائی یا کباب لانے کی بنا پر تراویح کے بعد ایک دو لقمہ مٹھائی یا شامی کباب بھی نوش فرمایتے، مگر اکثر تو تقسیم ہی کر دیتے اور اول رمضان میں اعلان کر دیا گیا تھا، یعنی حضرت نے خود فرمایا تھا کہ تراویح کے بعد کباب ہوا کریگی چنانچہ کباب سنانے کا معمول رہا، اور اس وقت چنایا پھلکی وغیرہ کا جو معمول پہلے سے چلا آ رہا تھا۔

اس رمضان میں بند کر دیا گیا تھا، کہ وقت ضائع ہو گا، کتاب وغیرہ سے فراغت کے بعد فرماتے حضرت جساؤ وقت کی قدر کرو، چنانچہ اکثر تلاوت یا نمازیں لگ جاتے اور حضرت بھی مشغول ہوجاتے کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے لئے آرام فرماتے مگر ۲۰ عینای ولایینا مقلبی کی طرح کیفیت رہتی کہ ابراہیم سلمہ سے جو پاس ہی کو ہوتے کبھی کوئی بات فرما بھی دیتے اور یہ فرماتے کہ تم لوگوں کے تلاوت ذکر سے میرے آرام میں فسق نہیں آتا۔

اگلے رمضان (۱۳۸۶ھ) کا نظام تقریباً وہی رہا، کچھ چیزوں میں تبدیلی تھی، مولوی منور حسین صاحب بہاری نے اپنے مکتوب میں جو حالات لکھے ہیں، اس کی چند اہم باتیں یہ ہیں:-

۲۹ شعبان کو فجر کی نماز سے پہلے ہی مہالوں اور معتکفوں نے اپنی اپنی جگہوں پر قبضہ کرنا، اور بسترے پھیلاتے شروع کر دیئے، چنانچہ بعد فجر جو لوگ گئے تو اکثروں کو تیسری صف میں جگہ ملی، حضرت پہلے ہی اعلان فرما چکے تھے کہ ۲۹ شعبان کو بعد عصر مسجد کی سے اعکاف گاہ منتقل ہوجائے گے، چنانچہ تشریف لے گئے، اور نوتے سے اوپر نلو سے تین چار کم مہان بھی مسجد دارالطلبہ جدید میں اقامت داعکاف کی نیت سے پہنچ گئے، حالانکہ مسجد بہت وسیع اور اندر چھ صفوں کی جگہ ہے، مگر مہالوں اور سامان سے مسجد بھر گئی۔ چنانچہ جو مہان رات کو یا صبح سے پہلے یا بعد میں پہنچے ان کو مسجد کے برآمدے میں جگہ دلوانی گئی، شام کے دسترخوان میں نلو سے کم اور سحری کے وقت سو سے زائد مہان ہو گئے تھے، پھر مہان آتے گئے اور برآمدہ مسجد کے پر ہوجانے پر اندرون مسجد جا بجا جگہ دلوانی گئی، اور ہر مہان کو تقریباً ڈیڑھ فٹ کی جگہ اخیر کے دو عشروں میں میسر ہی مہالوں کی کثرت کی وجہ سے دوسرے عشرہ کے وسط میں ایک عظیم الشان خیمہ نصب کر لیا گیا۔

یعنی مسجد کے کھلنے صحن میں وہ بھی آخیر عشرہ میں بھتر گیا، پہلے ہی دارالطلبہ
 جسدیکے چھ کمروں کو خالی کرایا گیا تھا۔ چنانچہ پہلے دوسرے عشروں میں
 تو صرف معززین کو ان کمروں میں چار پائپوں پر ٹھہرایا جاتا تھا، مگر آخیر عشرہ میں
 دو کمرے تو معززین کے لئے رہے، باقی چار کمروں میں پال ڈلو اکرام جہانوں کو
 ٹھہرایا گیا، بعد کو سب ہی کمروں میں پال پڑھے، ۲۳ سے ۲۸ تک تقریباً پونے
 تین سو مہمان دسترخوان پر کھانا کھاتے رہے۔ مزید مولوی نصیر الدین صاحب
 کے پاس کھاتے رہے۔۔۔۔۔

اس سال تبلیغی جماعت میں، علماء اور مدرسین اور اہل علم کثرت سے آئے حضرت نے متعدد اشخاص کو اجازت
 دی، گجرات، بمبئی، پالن پور کے جہانوں کی تعداد نمایاں تھی، یوں یوں والوں کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ
 تھی، افریقیہ، انڈیا، میسور، مدراس، بنگال، اڑیسہ، بہار اور آسام کے مہمان بھی تھے۔

ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے رہتے، تمام مہمان ذکر میں مشغول رہتے، عصر تک اکثر ذکر جہری میں
 بعض ذکر ستری یا مراقبہ میں اور کچھ تلاوت میں بات چیت کرنے کی قطعی اجازت نہیں تھی، عام
 ہدایت تھی کہ ہمارے یہاں آؤ تو فضول باتیں نہ کرو، خواہ سورا ہو یا خاموش بیٹھے رہو، کوئی حرج نہیں
 عصر کے بعد کتابیں سنائی جاتیں۔ امداد السلوک، نیز ایک اور رسالہ پھسر اتمام النعم ترجمہ تنزیہ الحکم
 پھسر اکمال الشیخ شرح اتمام النعم سلوک کی کتابیں پورے ماہ رمضان میں سنائی گئیں، انظار سے
 پسندہ منٹ پہلے کتاب سنائی موقوف کر دیتے اور پردہ میں مراقبہ ہو جلتے، مدنی کچھ اور زمزم
 سے انصراط فرماتے کچھ کھانے کا معمول نہیں تھا، پھر مراقبہ ہو جلتے، نماز مغرب کے بعد
 تقریباً پون گھنٹے نوافل میں مشغول رہتے، پھر دواندڑے کی زردی نوش فرما کر ایک پسیالی چائے
 پی لیتے پردہ ہٹا دیا جاتا، تقریباً سوسات بجے عام مجلس شروع ہو جاتی، نئے آنے والوں سے
 مصافحہ فرماتے، اور کب تک قیام کا سوال فرماتے؟ اور محل قیام کے لئے ہدایت فرماتے پھر آٹھ بجے
 تک بزرگوں کے واقعات بیان فرماتے؟ اسی درمیان میں بیعت بھی فرماتے، اذان ہوتے ہی نماز

کی تیاری فرماتے اور خود ضروریات سے فارغ ہوتے، اور نوافل شروع فرمادیتے۔
 تراویح سے فراغت پر سورہہ یسین کا ختم ہوتا اور دیر تک دعا فرماتے رہتے تبلیغی جماعت کے
 مخصوص حضرات ہوتے تو ان سے دعا کی فرمائش کرتے، پھر کتاب نمانے کا سلسلہ ساڑھے گیارہ تک
 رہتا اور تبلیغی کارروائی سنانا جاتی، اس کتابی مجلس کے اختتام پر تقریباً ۱۲ بجے شب کو پردہ گرا دیا
 جاتا، اس سال گھروالوں اور دوستوں کے اصرار و تقاضا اور اس بنا پر کہ بالکل فاقہ رہنے پر
 پیاس کا غلبہ ہوتا تھا، اور پانی پینے پر عمدہ میں رطوبت بہت بڑھ گئی تھی، جس کے نتیجے میں معینان
 کے بعد بھی کچھ عرصہ تک کچھ کھایا نہیں جاتا تھا، انظار کی کا سلسلہ شروع کیا گیا، حضرت کچھ لنگہ فرماتے
 پون بجے تک ٹھہروں مجلس رات کی مراتب کی کیفیت رات کی، ایک بجے کے بعد سو جاتے، چار بجے اٹھتے ضروریات
 سے فارغ ہو کر نوافل میں مشغول ہو جاتے، صبح صادق سے آدھ گھنٹہ پہلے دودھ پانے کے چند چمچے
 نوش فرما کر ایک پیالی مٹنی نوش فرماتے، پھر نوافل میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ فجر کی
 اذان ہو جاتی۔“

(ماخوذ از سوانح یوسفی)



ہمانوں اور معتکفین کے قیام کا نظم و انتظام

یہ ناچیز اپنے وطن اعظم گڑھ سے ۲۷ شعبان المعظم ۱۳۹۰ھ کو روانہ ہو کر ۲۸ شعبان
 بمردز جمعہ سہارنپور حضرت اقدس مدنیو ضہم السالیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا نماز جمعہ
 کے بعد ملاقات و زیارت کا شرف حاصل ہوا، اس وقت ماہ مبارک گزارنے والوں کا اچھا
 خاصہ جمع آ گیا تھا، شنیہ کو حسب سابق دارالطلبہ جدید کی مسجد میں معتکفین اور حجروں میں
 بقیہ ہمانوں کے قیام کا نظم کیا گیا، ناظم الامور عثم مولانا منور حسین صاحب مدظلہ کی
 طرف سے اعلان کیا گیا کہ مدرسہ قدیم سے دارالطلبہ جدید سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر
 منتقل ہو جائیں چنانچہ عصر تک سب لوگ منتقل ہو گئے۔

نماز عصر کے بعد حضرت اقدس مدنیو ضہم بھی مسجد میں تشریف لائے، رویت ہلال کا انتظار
 رہا۔ مگر ۲۹ کا چاند نظر نہ آیا، ۳۰ کو سب لوگ اپنے اپنے معمولات و تلاوت وغیرہ میں
 مشغول رہے، نیز ۳۰ کو صبح کی نماز کے بعد فضائل قرآن سے صلوٰۃ التسبیح کا باب پڑھا گیا۔
 اس کے بعد عثم مولانا منور حسین صاحب مدظلہ نے اعلان فرمایا کہ اس نماز کو آج ایک
 مرتبہ سب لوگ حصول فضیلت کی نیت سے ضرور پڑھ لیں اور ماہ مبارک میں بھی کم از کم ایک
 دو مرتبہ اسپر عمل کر لیا جائے۔ ہر دور کے علماء و صلحاء و اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔

یکم رمضان المبارک کو واردین کی تعداد تقریباً ۳۱۳ تک پہنچ گئی تھی، جو
 اصحاب بدر کی تعداد ہے جب حضرت اقدس سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو اس پر انتہائی مسرت
 کا اظہار فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ

”حق تعالیٰ جیسی ہمارا صورت ہے، ویسی ہی حقیقت بھی بناوے“



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
خُتْمُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

پہلی مجلس

یکم رمضان المبارک

یہ مجالس مغرب کے بعد کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد ہوتے تھیں اور عشاء تک یہ قائم رہتے تھیں، اخیر مجلس میں بیعت ہونے والوں کو حضرت اقدس مدفونہم بیعت فرماتے تھے۔ اخیر رمضان تک یہ معمول رہتا ہے۔

ماہ مبارک کے مشاغل میں ارشاد فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے حصول کیلئے انہماک و استعراق یہاں آتے ہیں، اس کے لئے انتہائی کوشش کیجئے۔ رمضان المبارک کی راتیں توجاگنے کے لئے ہوا کرتی ہیں۔

میں نے ۳۸ھ میں پہلا سفر حج کیا۔ اس وقت سے رمضان المبارک کی راتوں کو جواگنے کا معمول بنا لیا تھا۔ مگر اب ۶۱۵ سال سے بیماروں نے چھڑا دیا ہے۔ یہ درحقیقت میں نے عرب سے سیکھا تھا۔ وہاں لوگ رمضان کی راتوں میں بیدار رہتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں کے تیاہ کے زمانے میں تراویح وغیرہ سے فراغت کے بعد سحر تک عمرہ کیا کرتے تھے دوبارہ جب ۳۸ھ میں وہاں حاضر کیا ہوئی تو بھی یہی دیکھا کہ رمضان المبارک میں بازار رات

کھلے رہتے ہیں، اور دن میں سناٹا رہتا ہے، البتہ گزشتہ سال جب وہاں حاضری ہوئی، تو معلوم ہوا کہ بہت سے گھروں میں وہاں رات میں ٹیلی ویژن لگائے جاتے ہیں، اور اس کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا: کام کرنے والوں کے لئے یہ چیزیں ان کے کاموں سے مانع نہیں، بچپن میں ایک قصہ سنا تھا، ایک مولوی صاحب غریب آدمی تھے، بیوک کی شدت کے عالم میں کسی حلوانی کی دوکان کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے اور مٹھائیوں کی خوشبو سے اپنا پیٹ بھر لیتے، مٹک پر یاد رکھیں روشنی نظر آتی تو وہاں جا کر کتابیں دیکھتے، ایک مرتبہ شہرہ ہوا کہ بادشاہ کے صاحبزادے کی شادی ہے، رات میں تمہارے وغیرہ روشن کئے گئے، یہ صاحب رات بھر ان قمیوں کی روشنی میں صبح تک کتابیں دیکھتے رہے، جب صبح ہوئی تو فرمایا: وہ شادی کے قہقہے کہاں گئے سنا تھا کہ بادشاہ کے یہاں شادی ہے۔ اس قصہ کو سنانے کے بعد حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کو کسی کام کا چسکا پڑ جائے، اس کو ٹیلی ویژن وغیرہ کی آوازیں یاد رکھنی چیز مقصد سے مانع نہیں بن سکتی۔

مکتب عشق کے انداز نزلے دیکھے اس کو جھپٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادگان میں سے ایک صاحب مطالعہ کر رہے تھے دوران مطالعہ میں انہوں نے پانی مانگا، حضرت شاہ صاحب نے جب اس کو سنا تو فرمایا: خاندان سے علم رخصت ہوا، مگر اہلیہ محترمہ نے کہا، کہ ابھی جلدی نہ کریں، فدا مزید دیکھ لیں۔ چنانچہ پانی کے گلاس میں سر کر ڈال کر خادم سے بھجوا دیا، وہ اس کو پی گئے اور گلاس واپس کر دیا، اس پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: الحمد للہ ابھی خاندان میں علم باقی رہے گا۔

امام مسلم کا مشہور قصہ ہے، بیان کیا گیا ہے، کہ ان کی مجلس درس میں امام موصوف سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا گیا۔ جو امام موصوف کو سب سے اتفاق سے یاد نہ آئی۔ واپس گھر آئے تو انہیں خرمے کی ایک تھیلی پیش کی گئی۔ حدیث کی تلاش و جستجو میں اس قدر محو ہوئے کہ چھوڑے آہستہ آہستہ سب کھا گئے اور حدیث بھی مل گئی، یہی امام صاحب کی موت کا سبب ہوا۔

فرمایا:- میں نے حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ کبھی حضرت ایسے مشغول ہوتے کہ

کوئی کچھ عرض کرتا تو فرماتے "اے" یعنی حضرت کو اس وقت دوسری طرف بالکل التفات نہ ہوتا، یہی حال میں نے حضرت اقدس راہپوری نور اللہ مرقدہ کا دیکھا، کہ حضرت کی مجلس میں کتاب پڑھی جاتی، حضرت سنتے فرماتے پھر پڑھ دو یہیں سے میں نے بھی سیکھا ہے۔

بڑے حضرت راہپوری کے یہاں تو رمضان کا مہینہ دن رات تلاوت کا ہوتا، اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی بند، بعض مخصوص خدام کو اتنی اجازت تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چمانے کا ایک نجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر ہو جایا کریں۔

پنجاب کے ایک پیر صاحب کا قصہ ارشاد فرمایا۔ بڑے حضرت رائے پوری پنجاب کے ایک پیر صاحب کا قصہ سنایا کرتے تھے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں، وہ بزرگ اپنے سب مریدوں کو عشاء کے بعد سلام دیتے اور دو بجے لات مار کر اٹھا دیتے ان کی خانقاہ میں عشاء کے بعد سے چائے پکینی شروع ہوتی اور ۲ بجے تک کچتی رہتی، اور ظاہر بات ہے کہ اتنی دیر کپینے کے بعد وہ کڑوی ہو جایا کرتی تھی، وہی لوگوں کو پلانی جاتی، تاکہ نمینڈ آئے، یہ قصہ میں نے اس لئے نہیں سنایا ہے، کہ تم لوگ اس پر عمل کرو، وہ پنجاب کے لوگ تھے جو توی مضبوط ہوتے تھے، اور ہم کمزور ہیں۔ البتہ حسب مقدر کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت اقدس کا ماہ مبارک ارشاد فرمایا: ۳۳۰ سے ماہ مبارک میں ایک میں تلاوت کا معمول ۷ قرآن روزانہ پڑھنے کا معمول شروع ہوا تھا جو تقریباً ۳۰ سال تک ہا ہوا بلکہ اس کے بعد تک، ابتدائی معمول یہ تھا کہ سوا پارہ جس کو عموماً حکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی، یا میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کے گھر میں اس کو تراویح کے بعد شب میں قرآن پاک دیکھ کر اور اکثر ترجمہ کے ساتھ سحر تک چار پانچ دفعہ پڑھتا تھا، اگر میوں کی شب میں کچھ کم، سردیوں میں کچھ زائد، اس کے بعد مسجد میں اس کو دو مرتبہ، اس کے بعد سحر کھانے کے بعد سے لیکر صبح کی نماز تک اور نماز کے بعد سونے تک ایک دفعہ پڑھتا تھا، اور پھر صبح کو سونے کے بعد اٹھ کر جو معمول اوس بجے ہوا کرتا تھا، چاشت کی نماز میں سردیوں میں ایک مرتبہ

گرمیوں میں دو دفعہ اس کے بعد ظہر کی افان سے ۱۵ منٹ پہلے تک ایک یا دو مرتبہ دیکھ کر پھر ظہر کی سنتوں میں ابتداء دو مرتبہ، اول کی سنتوں میں ایک دفعہ اور آخر کی دو سنتوں میں دوسری دفعہ اور بعد میں ہر دو سنتوں میں ایک ہی مرتبہ رہ گیا۔ ظہر کے بعد دو سنتوں میں سے کسی کو ایک مرتبہ سنانا اور پھر عصر تک موسم کے اختلافات کی وجہ سے ایک یا دو دفعہ پڑھنا۔ عصر کے بعد کسی دوسرے اپنے آدمی کو سنانا ابتداء حضرت کی حیات تک حافظ محمد حسین صاحب اجڑاڑی کو، اس کے بعد دو تین سال مولوی اکبر علی صاحب مدرس مظاہر علوم کو، اس کے بعد بہت عرصہ تک مفتی محمد عیسیٰ صاحب کو، اردان ہی کے ساتھ ان کے دونوں بھائی حکیم ایساں، مولوی عاتق بھی شریک ہونے لگے، مغرب کے بعد نفلوں میں ایک دفعہ پڑھنا اور نفلوں کے بعد تراویح تک ایک دفعہ پڑھنا۔ ۲۲ گھنٹے میں اس کی تشکیل ضروری تھی کہ ۳۱ پائے پورے ہو جائیں۔ اللہ کے انعام و فضل سے سالہا سال یہی معمول رہا، اخیر زمانے میں بیماریوں نے چھوڑا۔

حکیم طیب کا مقولہ کیا رمضان ارشاد فرمایا، مجھے اپنی کیسوی دتہائی کا رمضان بخار کی طرح آتا ہے؟ بہت آتا ہے، اس زمانے کا ایک لطیف یاد آگیا۔ میرے عزیز مخلص دوست حکیم طیب راجپوری، میرے دوسرے مخلص مولوی عامر سلمہ کے والد اس زمانے میں ان کی آمد وقت بہت کثرت سے تھی، اور چونکہ بہت مختصر وقت کے لئے آتے تھے اور سیاست کی خبریں بہت مختصر الفاظ میں جلدی جلدی سنا جاتے تھے اس لئے ان کی آمد میں میرے یہاں کوئی پابندی نہیں تھی، ایک مرتبہ رمضان میں ۸، ۹ بجے صبح کو آئے، مولوی نصیر سے کہا، کیواڑ کھلو اور اس نے کہا رمضان ہے، خود زخم کھڑے کھڑے کا ارادہ کیا، اس نے منہ کیا اور یہ بھی کہا کہ یا تو وہ سو رہا ہو گا تو نیند خراب ہوگی اور اگر اٹھ گیا ہو گا تو نفلوں کی نیت باندھ لی ہوگی، کھڑے کھڑے رہو، اس پر وہ حقا ہو کر مدرسہ چلے گئے، راستہ میں مولانا منظور احمد صاحب لے انہوں نے کہا "حکیم جی تم کہاں آ گئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے" اس پر کچھ سوچ پیدا ہوا، اور نصیر پر غصہ کم ہوا، اس کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، وہ ڈاک

لکھوار ہے تھے، فرمایا حکیم جی کہاں آگئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے، وہاں سے اٹھ کر مفتی محمود کے حجرے میں گئے، مفتی صاحب کا قیام اس زمانے میں مدرسہ قدیم کے حجرے میں تھا۔ مفتی جی نے بھی یہی فقرہ دہرایا حکیم جی نے پوچھا، آخر رمضان میں کوئی وقت بات ملاقات کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مفتی جی نے کہا، "تراویح کے بعد آدھ گھنٹہ" حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے تو رامپور واپس جانا ہے۔ تب مفتی جی نے کہا، "ظہر کی نماز سے ۱۵ منٹ پہلے تشریف لائیں گے، اس وقت مل لینا، یا ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں مل لینا" وہ ظہر کی نماز سے پہلے مسجد میں آئے، تو میں نیت باندھ چکا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نے پھر سنتوں کی نیت باندھ لی، بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا مگر حجب دیکھا کہ رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لئے کہ اس زمانے میں سنتوں میں دو دفعہ پارہ پڑھنے کا معمول تھا، یہ دیکھ کر وہ مٹ گشت میں چلے گئے، وہ واپس آئے تو میں اپنے کمرہ میں پہنچ کر قرآن پاک سنانے میں مشغول ہو گیا تھا، وہ بہت کھٹ کھٹ کر کے اوپر چڑھے اور جاتے ہی بہت زور سے کہا "بھائی جی سلام علیکم" بات نہیں کرتا، صرف ایک فقرہ کہوں گا۔ "رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں بھی آتا ہے۔ مگر لڑیں سبنا کی طرح کہیں نہیں آتا" سلام علیکم، جا رہا ہوں عید کے بعد طول گا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، اور پھر قرآن سنانے میں مشغول ہو گیا۔



دوسری مجلس

۲، رمضان المبارک

حضرت اقدس کا پہلا سفر حج ارشاد فرمایا۔ جب میں پہلی مرتبہ ۲۸ برس میں حج کے لئے روانہ ہوا، چونکہ یہ سفر حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی معیت میں تھا، اس لئے بمبئی تک ہر اسٹیشن پر ناشتہ والوں اور کھانوں کی کثرت تھی۔ بمبئی میں تقریباً تین سو کا مجمع تھا، راستہ میں۔ سب لوگوں کا کھانا مشترک تھا، مگر بمبئی پہنچ کر حضرت نے اعلان فرمایا، کہ اب گویا سفر حج شروع ہو رہا ہے، مشترک کھانے کے نظم کرنے میں دشواری ہوگی، اور فقہانے لکھا ہے کہ حج کے سفر میں کھانے کی شرکت نہ ہونی چاہیے۔ سب لوگ اپنی اپنی مناسبت کے ساتھی تلاش کر لیں، اور اسی لحاظ سے کھانے کا نظم کریں، میرے ایک عزیز رئیس متولی طفیل صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک خادم ملا عبد العزیز تھا، انہوں نے اپنے ساتھ یا مول لطف مرحوم کو متحرک کر لیا، اور یہ تینوں مجھے اپنے ساتھ شریک کرنے پر اصرار کرنے لگے، حاجی مقبول حضرت کے یہاں وہی مقام رکھتے ہیں جو میرے یہاں مولوی نصیر الدین کا ہے، حاجی مقبول کہا کرتے تھے کہ حضرت اگر میں نہ ہوں تو یہ خادم ادب آپ کے کپڑے بھی نہ چھوڑیں، حاجی مقبول جب خفا ہوتے تو حضرت تک پر اپنی خفگی کا اظہار کر دیتے، میرے ساتھ بھی ان کا معاملہ یہی تھا، مگر جب خبر سے خوش ہوتے، تو کہتے کہ میری تم سے لڑائی نہیں۔ میری ختم سے صرف اس لئے لڑائی ہے کہ مولانا عبد الطیف صاحب سے تم نے، مجھ کو کبھی دو روہ کدھی کر رکھا ہے، بہر حال میں نے رئیس کا نذہ کے ساتھ شرکت سے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں سفر حج کا

خریج چھوٹو روپے ہوتا تھا، جو اس زمانے کے شاید ڈھائی ہزار کے برابر ہو، میں ٹکٹ وغیرہ لے چکا تھا میں نے چھوٹو روپے لے لی جیب سے نکال کر حاجی مقبول کے حوالہ کیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر اس میں کمی ہوگی تو انشا اللہ واپسی میں ادا کروں گا۔ میرے پاس سامان بہت مختصر تھا۔ ایک تکیے میں کپڑے وغیرہ سب رکھ لئے تھے۔ کبھی سے ایک کالا کرتا جہازیں پہننے کے لئے خرید لیا تھا، حاجی مقبول صاحب نے کہا کہ جب تم فجر سے حساب وغیرہ نہیں لوگے تو بڑی خوشی سے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بلکہ اگر تمہاری رقم حضرت کے سامان وغیرہ کے قلی میں خرچ ہوگی، تو بھی تمہیں خوشی ہوگی، میں نے کہا بالکل اچھے حساب وغیرہ نہیں چاہتے، اگلے دن حضرت نے فرمایا، کہ بھائی سب لوگوں کا انتظام ہو گیا، تو ماموں لطیف نے کہا کہ حضرت سب کا ہو گیا ہے، سوائے مولوی ذکریا کے وہ آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں نے عرض کیا، حضرت میں نے حاجی مقبول کے ساتھ جانا طے کیا ہے حضرت نے فرمایا، اچھا وہ کیسے واضح ہو گئے، حضرت نے اس پر بہت مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت اقدس مدعا اپنے خدام کے جہاز سے روانہ ہوئے اور در رمضان المبارک کو کہ کرم پیچھے وہاں پر حضرت کی اکثر دعوت ہوا کرتی تھی۔ البتہ وہاں کا مدیر جب حضرت کے پاس کوئی لاتا، اگر سمولی چیز ہوتی تو ہم لوگوں کو عنایت کر دیتے اور اگر وہ جمیدی تک کا ہوتا تو اس کے سبیل وغیرہ منگوا کر تقسیم کر دیتے، اور اگر بڑا مدیر ہوتا تو وہاں کے کسی آدمی کو مدیر کر دیتے، ایک روز وہاں دعوت ہوئی، حاجی جی نے سب کو اطلاع کر دی، مگر گھر میں اطلاع کرنا بھول گئے، گھر میں بھی کھانا پک گیا، جب دعوت کا کھانا آیا تو حاجی مقبول ہم لوگوں پر بہت بگڑے کہ تم لوگوں نے کھانا پکانے سے کیوں نہیں منع کیا، اماں جی بھی خفا ہوئیں، حضرت نے کچھ نہیں فرمایا۔ ہم لوگوں نے مزہب کے بعد کچھ گھر کا کھانا کھایا اور کچھ دعوت کا۔ حضرت نے دوسرے لوگوں کو بے کیا۔ مگر پھر بھی تھا۔ سحری جب ہم لوگ کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھے تو پہلے دعوت کا کھانا کھایا، اس کے بعد ہم نے بار بار گھر کا کھانا منگوا یا۔ اندر سے کھانا آتا رہا۔ بالآخر سب ختم ہو گیا۔ اماں جی کو توجہ ہوا کہ کھانا کون کھا رہا ہے، کوئی باہر سے مہمان تو نہیں آگیا۔

جب حضرت کو اس قصے کا علم ہوا تو منبرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ ہمارے بچے بھوکے رہتے

ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت ہم روزانہ خوب کھاتے ہیں، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ میرا جوان کا زمانہ تھا، اب ہم کھانے پینے کے نہیں رہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو آپ ہجرتی“ ۲۲۰

حضرت سہارنپوری کے بارے میں ارشاد فرمایا: مولانا محب الدین دلاہتی راجہ مولانا محب الدین صاحب کا ارشاد اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے خاص خلفاء میں تھے، اور صاحب کشف تھے۔ مولانا مظہر احمد تھانوی فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس حرم میں بیٹھا ہوا تھا مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا درد پڑھ رہے تھے کہ دفعۃً میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اس وقت حرم میں کون آگیا، کہ دفعۃً سلا حرم الزار سے بھر گیا، میں خاموش رہا کہ اتنے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ طواف سے فارغ ہو کر باب الصفا کی طرف سعی کے لئے چلے تو مولانا محب الدین کے پاس آئے کہ وہی جگہ مولانا کی نشست کی تھی مولانا کھڑے ہو گئے اور ہنس کر فرمایا، میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آگیا، یہ کہہ کر مصافحہ کیا، اور معانقہ ہوا، اور سعی کے لئے آگے بڑھ گئے، مولانا محب الدین اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا، کہ میں خلف مولانا خلیل احمد صاحب تولوز ہی تو رہیں ان میں لوز کے سوا کچھ نہیں۔

مولانا محب الدین صاحب ارشاد فرمایا: ۱۳۲۰ھ میں جب میرا پہلا سفر حج حضرت سہارنپوری کے ساتھ ہوا، تو اس سفر میں مولانا محب الدین کا ایک کشف : صاحب باحیث تھے حضرت سہارنپوری سے معانقہ کرتے ہوئے فرمایا۔ مولانا آپ یہاں کہاں آگئے جب یہاں تو قیامت کبریٰ قائم ہونے والی ہے۔ فوراً رمضان کے بعد ہندوستان واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ شریفین حسین کے بعد ابن سعود کا وراثت والا تھا، حضرت اقدس نے ہم خدام سے فرمایا کہ میں تو مدینہ پاک میں قیام کے ارادے سے آیا تھا مگر مولانا محب الدین صاحب اس کو سختی سے منع کرتے ہیں۔ میری تو مدینہ پاک حاضری کئی مرتبہ ہو چکی ہے، تم لوگوں کا پہلا حج ہے، نہ معلوم پھر حاضری ہونے ہو، اس لئے تم لوگ ہواؤ۔

فرمایا: وہ زمانہ اس قدر بدامنی کا تھا کہ حج سے پہلے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حج کے بعد

تربیت ہی تلیل، نہ جانیں محفوظ تھیں نہ مال، شریعت حسین کی حکومت کا اثر کمزور کیا چہار دیواری سے باہر نہ تھا، قتل و غارتگری عام تھی، مدینہ پاک میں صرف تین دن قیام کی اجازت تھی اس سے نامدار گروہی گھیر کر تری یوم ایک گنئی (اشرفی) اپنے بدو کو دے، بشرطیکہ وہ بھی اس پر راضی ہو۔

ملکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ارشاد سن لیا: ہم ہینڈ خدام حضرت اقدس کی برکت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و الوعاف سے انہیں خطرات میں اولاً سنبھالے گا پھر خطر سفر

کنارے کنارے اور اس کے بعد جبل غار کی گھبراہٹوں میں چھپنے ہونے لگا، اس سفر کی داستان بہت طویل ہے اور اللہ کے احسانات و تدبیر جو ہمیشہ اس ناکارہ پر ہیں اس کا ایک گوشہ وہ سفر بھی تھا، ایسے میں حضرت نے ہمارے قافلے کا الامتہ من قریش کے پیش نظر مجھے امیر بنایا تھا اور ہم لوگوں کو آمد و رفت اور تین دن قیام کا حساب لگا کر معمولی پیسے دیدیئے اور بقیہ رقم سب زفقار کی مکہ مکرمہ میں حاجی علی جان کی دکان پر جمع کرادی تھی، اس سفر میں ہمارے قافلے میں بعض لوگ شکاری بھی تھے، جو شکار کرتے تھے، اور اس کو پکاتے تھے کبھی دنبہ بھی خرید لیتے تھے، البتہ ہمارے ساتھی کچھڑی پکاتے تھے۔ میرا دستور یہ تھا، کہ ہر منزل پر اتر کر میں پورے قافلے کا گشت کرتا، اور خبر گیری کرتا، یہ لوگ کھانا پکاتے، تین چار دن کے بعد ماموں لطیف کو ڈیپٹی بھیج دیتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ امیر صاحب ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ اب انہیں کچھڑی پکانی ہے۔ مولانا منظور احمد خان صاحب نے کہا کہ یہ امیر قافلہ میں مگر ماموں لطیف کا اصرار تھا۔ میں نے ڈیپٹی میں پانی بھریا۔ اور دو ڈوئی میں نمک ڈالنے کے لئے اٹھایا، اس پر ماموں لطیف بہت خفا ہوئے، اور چلا کر کہا کہ ”ارے یہ کیا کر رہے ہو؟“ ہمارے قافلے میں ایک سہارنپور کی بڑھیا عورت اور اس کا شوہر تھا۔ وہ عورت یہ سب سن رہی تھی، اس نے کہا، کہ تم لوگوں کو پکانا آتا ہے، انہیں نہیں آتا، اس پر ماموں لطیف اور خفا ہوئے، بڑھیا نے کہا ان کی طرف سے میں کھانا پکا دوں گی۔ اس پر اور زیادہ برہم ہوئے، کہ ہماری باری کیوں نہیں کہتا؟ قافلے میں کچھ پٹھان بھی تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ کچھڑی پکائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح مراد آباد، کانپور وغیرہ کے حضرات

نے بھی دعوتیں دیں اور کہا کہ حضرت نے ان کو امیر بنایا ہے، یہ کھانا نہیں پکائیں گے۔ بفضلِ تعلقے راستہ بھر گوشت ہی کھایا، کچھ ٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی۔

ارشاد فرمایا: چونکہ میں عربی جانتا تھا، تلم قافلے والوں کی طرف سے بدزل کی میں ترجمان کرتا تھا، میرا بدو (جمال) تو گویا مجھ پر عاشق ہو گیا تھا، ایک مرتبہ مجھے کانٹا چبھ گیا۔ تو وہ بہت پریشان ہوا، اور کہا یہ کانٹا تمہارے پیر میں نہیں میرے دل میں چھبا ہے۔ اور وہ اپنے پیسے ملتے میں میرے پاس جمع کرتا تھا۔ مگر جب یہ بدو حرم مکہ میں پہنچے، تو چونکہ قافلے والے ان سے تنگ تھے اس لئے سوتھ پاکران کو ایسا بھگایا، کہ میرے بدو کے کچھ پیسے بھی میرے پاس رہ گئے، جس کو میں نے مددِ مولتیہ میں داخل کر دیا۔

مدینہ منورہ میں تین دن کے بجائے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے احسانات ایک چلہ قیام کی علی صوت تذکیرہ "وَلَيْتَ لَعَدُوْنَا عِمَّةَ اللّٰهِ لَا دَحُصُوْهَا" کی ایک مثال یہ ہے، کہ تین دن کے بجائے مدینہ پاک میں ایک چلہ قیام کی حق تولیٰ نے صورت پیدا فرمادی، مدینہ منورہ پہنچ کر تلب و تکان کی وجہ سے ہمارے جمال کا ایک اونٹ مر گیا، نہ تو جمال کے پاس اتنے دام تھے کہ وہ اونٹ لے سکے اور نہ ہم لوگوں کے پاس۔ اتنا تھا، کہ وہ ہم سے تسرض لے سکے، اس لئے وہ جمال جب کہتا کہ مجھے قرض دے دو، کہ میں اونٹ خریدوں تو ہم لوگ کہتے تو اگر قرض دے تو ہم لوگ اپنے کھانے کا انتظام کریں۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ کہ ہم لوگ تین روز کا خرچ لائے تھے، غرض وہ بیچارہ اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ غریب ہمیشہ اپنی تاخیر و تقصیر پر معذرتیں کرتا رہا۔ رفقاریں سے کبھی کبھی کوئی شخص امیر مدینہ سے جا کر شکایت کر دیتا، امیر مدینہ بھی معذرت کے ساتھ صبر کی تلقین فرماتے اور بدو کو ڈانٹ پلاتے۔

روضہ پاک پر درخواست ارشاد فرمایا: اس طرح جب چالیس روز اور واپسی کی علی صوت ہو گئے، تو میں نے جا کر روضہ پاک پر عرض کیا

کہ حضرت ہم میں کئی حضرات حج بدل پر آئے ہیں۔ انہیں دشواری ہو رہی ہے چنانچہ شام کو ہمارے بدو کو ایک اونٹ مل گیا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، اور کہا کہ کل سے مولانا شیر محمد صاحب تم کو تلاش کر رہے ہیں، ان سے صرف یہ پہچان تھی کہ وہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ فرقہ کے خلفاء میں سے تھے، اور میں مولانا یحییٰ صاحب کا صاحبزادہ، چنانچہ حرم میں ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا، کہ تمہارے قافلے کے بارے میں یہاں شہرت ہے کہ ہندوستان کے فقیروں کا ایک قافلہ یہاں پڑا ہوا ہے، ہمارا قافلہ امیروں کا شمار ہوتا ہے، اس لئے مجھے تمہاری تلاش تھی، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کے پاس پانچ سو گنتیاں ہیں۔ ساتھ لے جانے میں خطر ہے، اس لئے آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ کے قافلے سے کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ فقراء کے قافلے سے مشہور ہو چکا ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ تکیہ میں چاقو مار کر دیکھتے ہیں، اس لئے ساتھ لے جانا دشوار ہے۔ جب انہوں نے بہت اصرار فرمایا تو میں نے کہا۔ میں ان کو لے جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان کے دوپے بنا کر مجھے دیدیں۔ اور ساتھ ہی ہم کو اجازت دیں کہ ہم ان کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان پہنچ کر چار مہینے میں یہ رسم انشاء اللہ آپ کو ادا کر دیں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت اقدس کو اس کی خبر نہ ہو، چنانچہ وہ ان گنتوں کے ساتھ ہزار بنا کر لائے، میں اس رقم کو لے کر اپنے قافلے میں آیا۔ اور اعلان کیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے قرض لے لے، لوگوں کو تعجب ہوا کہ مدینہ پاک میں مذاق؟ جب میں نے روپے دکھائے، تو یقین آیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو دو شرط کے ساتھ قرض دیا، ایک یہ کہ حضرت کو خبر نہ ہو، دوسرے یہ کہ ہندوستان پہنچ کر دو مہینے کے اندر یہ رقم مجھے ادا کر دی جائے تاکہ میں حسب وعدہ وہ رقم مولانا شیر محمد صاحب کو واپس کر دوں، الحمد للہ ہندوستان آ کر وہ رقم ادا کر دی۔ مدینہ پاک میں اس زمانے میں کسی سے جان پہچان نہیں تھی، حضرت مولانا سید احمد مدنی صاحب سے جان پہچان تھی۔ بلقان کے خاندان کامرہ پاک سے اخراج ہوا تھا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی مالٹا میں مقید تھے۔

ارشاد منبر لیا: میرے دوستو! اللہ سے مانگو، خوب مانگو، میں نے والا وہی ہے۔

ایک استقامت فرمایا، علماء کرام! تم لوگوں سے میں خفا ہوں، جب میں۔
 کوئی بات کرتا ہوں، تو تم ٹوکتے کیوں نہیں؟ جب حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب حضرت سید محمد
 شہید کو ٹوک سکتے ہیں، تو تم مجھے کیوں نہیں ٹوکتے؟۔ یہ سفر مدینہ کا ذکر تھا، اس میں تباخیر نہیں؟
 حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب مظہ نے عرض کیا، نیت پر موقوف ہے، تحدیثِ نعمت کے
 طور پر جائز ہے،

جملِ حسیر کا مطلب ارشاد فرمایا:۔ اس سفر میں میں نے دیکھا کہ بدادونٹ کے
 چلتے چلتے اس کے خصیتین پر ہاتھ لگاتا ہے، میں نے اس سے اس کی مصلحت دریافت کی،
 تو اس نے کہا کہ اونٹ چلتے چلتے حسیر ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، چنانچہ سنن ابی داؤد
 میں "باب من اجمی حسیراً" جلد ۴ صفحہ ۲۹۴ ہے، راستے میں ایک اونٹ کو میں نے دیکھا کہ ویسے ہی کھڑا
 ہے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حسیر ہو گیا ہے، گویا تپ و دن کا آخری درجہ ہے۔ کھڑے کھڑے مر
 جائے گا۔ اس کی علامت خصیتین پر ظاہر ہوتی ہے، ان پر درم آجاتا ہے، اسی کو معلوم کرنے کے لئے
 بد ہاتھ لگاتا تھا۔

حضرت سہارنپوریؒ کی نماز ارشاد فرمایا:۔ اس سفر حج میں ہمارا رمضان جہاز
 سے شروع ہو گیا تھا اس لئے قرار یہ پایا، کہ آدھا پارہ حضرت تراویح میں پڑھا کریں گے،
 اور پلوں پارہ میں پڑھوں گا مجھے سبھی جہاز میں چکر آتا تھا، اور مجھ سے زیادہ حضرت کو آتا تھا، ۷،
 ۸ دن لگے تھے، مگر حضرت کو کہاں سے قوت آجاتی تھی کہ پوری نماز نہایت سکون سے کھڑے
 ہو کر ادا فرماتے، اور فراغت کے بعد بیٹھنا مشکل تھا۔

حضرت رائے پوری کے ۴۵ ارشاد فرمایا:۔ ہمارے حضرت اقدس رائے پوری
 کے سفر حج کا ایک قصہ نے ۴۵ میں سفر حج کیا، میں اس زمانے میں
 حضرت سہارنپوری کے ساتھ حجاز مقدس حاضر ہوا تھا، تو حضرت اقدس رائے پوری نے فرمایا کہ آٹھ
 مہینے سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لئے یہ سفر میں نے تم سے ملاقات کے لئے کیا ہے،

چنانچہ ۱۶ ذیقعدہ ۱۳۲۵ھ کو مدینہ منورہ سے حضرت راپور سی کی میرے ہی ساتھ کہ معظمہ کو واپسی ہوئی، اس سفر میں بھی "الائمہ من قریش" کہہ کر مجھے امیر قافلہ نبایا گیا، حضرت کے خدام آپ کا شغف اچھی طرح باندھتے تاکہ سفر میں راحت رہے، ایک شریک قافلہ رئیس کو اس بات کی شکایت رہتی کہ ان کا شغف اچھی طرح نہیں باندھا جاتا، ان کے بار بار شکایت کرنے پر میں نے بحیثیت امیر کے حکم دیا، کہ وہ حضرت کے شغف میں سوار ہوں، اور حضرت ان کے شغف میں، حضرت تو اپنے شغف سے فوراً اتر گئے۔ ان رئیس صاحب نے اترنے سے انکار کر دیا، اس پر میں نے کہا کہ پھر حضرت پیدل چلیں گے، حضرت نے بخوشی منظور کر لیا، اور پیدل روانہ ہو گئے، رئیس نے بڑی معذرت کی، اور بڑے اصرار سے آپ کو سوار کیا، پھر شکایت نہیں کی۔

حجاج کے مادی سوغات لانے پر ارشاد فرمایا: کہ حجاج میرے لئے جو اظہارِ ناپسندیدگی، مادی چیزیں مصیبتی وغیرہ لاتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں، یہ چیزیں کافر ملکوں سے بن کر آتی ہیں اور صندوق میں بند رہتی ہیں، شاید ہی مکہ و مدینہ کی ہوا لگی ہو، حج کو جانے والوں سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لئے کوئی چیز نہ لاؤ، اگر تمہیں محبت ہے، تو حج و عمرہ لاؤ، حق تعالیٰ قبیل فرمائے، عمرے کی تعداد قریباً ایک لاکھ اور حج کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ چکی ہوگی جو میرے دوستوں نے میری طرف سے کئے ہیں۔ اسی رمضان المبارک میں بیس پچیس عمرے کی اطلاع آئی ہے یہی حال قربانیوں کا ہے۔ ارشاد فرمایا، اپنے محسنوں کے احسانات پر ان کے لئے دعائیں کرو، حدیث میں آیا ہے کہ محسن کے لئے "جزاک اللہ خیراً" کہا کرو، اللہ کے برابر کون بدلہ دے سکتا ہے، یہ میری وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی، کہ اپنے محسنوں کے لئے دعا کیا کرو، ہم بنیر سوال کے صورتِ سوال بٹھے ہوئے ہیں۔

ارشاد فرمایا۔ گھوڑ زمرم کے سوا اور کوئی چیز مجھے پسند نہیں، میں جب بھی حجاز مقدس حاضر ہوا، تو اپنے گھوڑوں کے لئے وہاں سے کپڑے وغیرہ کے قسم کی کوئی چیز نہیں لایا، مولانا یوسف صاحب کے ساتھ جب وہاں حاضر ہوئی تو مسبد ٹوٹی میں ان کی تین چار گھنٹے لقمے لقمے میں روزانہ

ہوتی تھیں، میں بھی اس میں بیٹھتا تھا، محبت و خوشی سے نہیں بلکہ استفادہ کی نیت سے، اس سفر میں مرحوم نے یکدم بہت ترقی کی، اور بہت اونچی اڑان اڑا، وہاں کی نشست میں مسجد نبوی کے کبوتروں کے پرلں کو جمع کیا کرتا تھا، اور انھیں کو یہاں بطور تحفے کے لایا تھا، اور اس کے بعد کے سفر میں حدیبیہ رحیل احد کے آس پاس سے کچھ پھر لایا تھا، خدام سے کہہ دیا تھا کہ ان کو اپنے بکسوں میں ڈال لو، مواجہہ شریف کے سامنے نالی بن رہی تھی، وہاں کی مٹی اٹھا کر لایا تھا، حاجی یعقوب (بجی) کو بھی ایک تحصیل سیسی تھی یہاں آکر اپنے دوستوں کو بھی دی تھی،

ارشاد فرمایا:۔ حضرت اقدس راعپوریؒ جب پہلی مرتبہ کراچی سے دلی ہوائی جہاز پر تشریف لائے، تو ملاقات کے وقت فرمایا۔ جب میرا ہوائی جہاز پر بیٹھنا ہوا تو جی چاہا کہ آپ بھی ایک مرتبہ ہوائی جہاز پر سفر کریں، پاکستان کے لئے آپ منظور نہیں کریں گے۔ اس نصاب سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ حجاز مقدس کا سفر کریں گے، چنانچہ سفر کا انتظام کیا گیا، لیکن اس سال ہندوستان میں کالا پھیلنے کی شہرت کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے قریظنہ کے سخت احکام نافذ کر دیئے گئے تھے، اس کی وجہ سے ہوائی جہاز سے سفر حجاز بند ہو گیا، اس لئے میں نے تو ملتوی کر دیا، البتہ حضرت اقدس مع اپنے خدام کے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے، تو حضرت فرمانے لگے، جانے سے واپسی تک یہ سوچتا رہا کہ تمہارے لئے کوئی ایسی چیز لے جاؤں جس سے تم کو خوشی ہو بہت سوچ کر مسجد نبوی سے تمہاری نیت سے عمرہ کا احرام باندھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت اس پر میرے ہنرے عمرے قربان اس کے بعد میری نیت سے حج و عمرے کی کثرت ہو گئی، (مولانا) ملی میاں کا مستقل دستور ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ جب طواف شروع کرتا ہوں، تو پہلا آپ کی طرف سے کرتا ہوں۔ ایک صاحب آئے وہ سنا گئے، کہ انہوں نے میری نیت سے اسی عمرے کئے۔

قدوائی صاحب سابق سفیر ہند قدوائی صاحب کی ملازمت حج سے چار ماہ پیشتر برائے حج کا مکتوب ختم ہو رہی تھی، حضرت کو دعاؤں کے لئے خط لکھا تھا، بعض اوقات دعا کی برکت سے ایک سال کی توبہ ہو گئی، انہوں نے اپنے خط میں

لکھا تھا کہ میری تمنا ہے کہ ایک سال میں اور یہاں رہ جاؤں، تاکہ حج کے موقع پر آپ کی خدمت کے سکون
 ارشاد فرمایا۔۔ اس سے پہلے سفرِ حج ۱۳۸۶ھ میں عزیزِ سعدی وغیرہ نے کوشش کر کے
 رات کو بجے گاڑی سے طواف کی اجازت دلائی تھی، جب میں مطاف میں ہوتا تو لوگوں نے بتایا کہ تودہ کی
 صاحب بھی روزانہ یہاں رہتے ہیں، وہاں تودہ ملے نہیں، البتہ یہاں آنے کے بعد ان کا خط آیا، تو
 میں نے جواب میں لکھا یا، مجھے آپ کا رات کا طواف یاد ہے۔



تیسری مجلس

۳، رمضان المبارک

حضرت رائے پوریؒ کا ایک مجاہدہ
 ارشاد فرمایا:۔ ابتداء میں تھوڑے مجاہدے ضرور بڑاشت کرنا پڑیں گے۔ سوانح حضرت اقدس رائے پوریؒ میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ سردی کا موسم تھا، میرے پاس کوئی کپڑا اوڑھنے بچانے کے لئے نہیں تھا، شام کو مغرب سے لے کر عشاء تک وضو کے لئے جہاں پانی گرم ہوتا تھا وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ اور اپنا وظیفہ پڑھتا رہتا تھا، پھر نماز عشاء کے بعد مسجد کے دروازے بند کر کے مسجد کی چٹائی پیٹ لیتا تھا، گلاس میں بھی پائوں اور سر کی طرف سے ہوا آتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر اس چٹائی میں رہ کر اس سے باہر نکل آتا تھا، اور ذکر شروع کر دیتا، اور ساری رات ذکر کی گئی سے گزارتا، اسی طرح سارا موسم سردی گزر گیا، مگر اس کے بعد کوئی سردی ایسی نہیں آئی جس میں کم از کم ایک رضائی نئی نہ آتی ہو چنانچہ ہر سال حضرت نہایت عمدہ عمدہ لحاف مجھے ضرور عنایت فرماتے ہیں اپنی لڑکیوں میں سے کسی کو فے دیتا تھا۔

ارشاد فرمایا:۔ ہمارے حضرت اقدس رائے پوریؒ نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ پیران کلیر چلے کھینچنے کا ارادہ کیا اور چکے سے وہاں سے تشریف لے گئے، وہاں مراقبہ میں بیٹھے تو معلوم ہوا، اپنا اپنا کرنا اور اپنا اپنا بھرننا، فرمایا جب ایسا ہی ہے، تو گھر ہی پر کیوں نہ کروں، چنانچہ واپس تشریف لائے فرمایا بھائی گھر کے مشاغل فرصت نہیں دیتے۔

چچا جان کا مجاہدہ ارشاد فرمایا: میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب میرے چچا جان

(بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ) کی لوجوانی کا عالم تھا۔ ان پر مجاہدات سلوک کا بہت زور تھا، انگلوہ میں خانقاہ قدوسیہ کے پیچھے ایک غنقرآب چکی تھی اس میں ایک پورے پر آنکھ بند کئے ہوئے دو زالوں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ میری فارسی اس زلنے میں شروع کر لئی تھی، میں کتاب پڑھتا، جہاں انہیں کچھ کہنا ہوتا، انگلی کے اشارے سے فرماتے، اگر عبارت سمجھ میں نہ آتی تو کتاب بند ہو جاتی، میں نے اپنے والد صاحب کا اصول تسلیم بیان کیا تھا، کہ شاگرد کا کام حل کرنا، اور استاد کا سننا ہے اس زمانے میں چچا جان فرماتے کہ اگر تم چھ مہینے خاموش رہو، تو میں تم کو ولی بنا دوں

لب بند و چشم بند و گوش بند
گر نہ بینی سحر حق بر ما غشند (ردقی)

یہ تین کلام کرنا حقیقت نظر آئے گی۔

اس زمانے میں چچا جان کو جو کہ روٹی کا اتباع سنت میں کھانے کا شوق ہوا، اور ان کے ساتھ ہم نے بھی زور دکھلائے، تقریباً چھ مہینے تک چچا جان کا دستور رہا، اس کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے حکیم نے منع کر دیا۔

ارشاد فرمایا: میرے چچا جان نے ایک مرتبہ مجھے خط لکھا، اس میں تحریر فرمایا کہ کئی دن سے ایک ضروری خط لکھنا چاہتا تھا، مگر لفافے کے لئے پیسے نہیں۔

ارشاد فرمایا: چچا جان کا نظام الدین میں جب پیری کا دور شروع ہوا تو ماملوں لطیف مرحوم ایک رمضان میں نظام الدین حاضر ہوئے خیال ہوا کہ خوب کھانے کو ملے گا جب انظار کا وقت آیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، انظار کے وقت چچا جان نے گولہ رنگو کر دیئے اور مغزب کی نماز کے بعد عشاء تک لڑاقل میں مشغول ہو گئے اور عشاء کے بعد تراویح پڑھ کر سو گئے، ماملوں لطیف بے چارے انہوں میں رجا کہ بھائی جی کے یہاں کھانے پینے کا کوئی ذکر ہی نہیں، سحری کے وقت بھی وہی دو چار گولہ آئے صبح ہوئی ماملوں لطیف نے کہا میں دلی جانا چاہتا ہوں۔ چچا جان نے اصرار سے روک لیا۔ چنانچہ شام کو کہیں سے ایک دیگ پلاؤ کی آگئی، بلا کر ماملوں لطیف کو کھلایا، مجاہدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اضطراری اور

دوسرا اختیاری، دوسرا زیادہ اہم ہے۔
حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا مجاہدہ ارشاد فرمایا: میرے چچا جان کے زمانے میں مولوی یوسف نے بھی بڑے مجاہد کئے اور مشغول رہا اور عنت کی، ان مجاہدوں کا شمار اس کی زندگی میں خوب ظاہر ہوا، چچا جان کے زمانے میں دہلی کے احباب کا بہت اصرار تھا کہ صاحبزادے سلمہ کو شادی میں ضرور لائیں، مگر مرحوم اپنے طلب علم میں اس قدر منہمک تھا کہ اس کو یہ جرج ناگوار معلوم ہوتا تھا، بسا اوقات اس کی نوبت آئی کہ ان اوقات میں میرا دہلی جانا ہوا تو عرض فرمایا کہ مجھ سے جاتے ہی وعدہ لے لیتا، بھائی جی فلاں جگہ جانے کو نہ کہیں، چچا جان مجھ سے ارشاد فرماتے، یوسف کو بھی ساتھ لے لیو، تو میں یہ معذرت کرتا کہ اس نے آتے ہی مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ میں نہ کہوں۔

تقویٰ کسے کہتے ہیں ایک صاحب نے تقویٰ کے بارے میں دریافت کیا اس پر حضرت اقدس مدفونہم نے اپنے اکابر کے چند واقعات سنائے۔

ارشاد فرمایا:۔ مرحوم بخش صاحب دارالعلوم دیوبند کے نمبر تھے اور مظاہر علوم کے بھی سرپرستوں میں تھے، دونوں جگہوں پر موثر۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے ان مدرسوں میں کھانے پینے کی جو احتیاطیں تھیں وہ تو جاتی رہیں، جو چاہو کھلا دو۔

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کے تقویٰ کا اثر ہمارے خاندان میں بہت رہا ہے۔ تو ریح و تقویٰ ان کا خاص جوہر تھا، شہرہ مسلم بات تھی کہ ان کے محدث نے کبھی کوئی مشتبہ چیز قبول نہیں کی، یہ حضرت شاہ اسماعیل صاحب کے شاگرد تھے، زمانہ طالب علمی میں یہ صرف بازار کے ہوٹلوں سے روٹی خریدتے اور سالن نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دہلی کے اکثر سالنوں میں کھٹائی پڑتی تھی، دریافت کرنے پر فرمایا، آمول کی بیج دتی ہیں قبل از وقت ناجائز طریقے پر ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ مولانا نواب قطب الدین صاحب مظاہر حق نے اکابر مولانا شاہ اسماعیل صاحب، مولانا یعقوب صاحب اور مولانا مظفر حسین صاحب وغیرہ کی دعوت کی، ان سب حضرات نے منظور

فرمائی، لیکن مولانا مظفر حسین صاحب نے جانے سے انکار کر دیا، اس سے نواب قطب الدین خاں کو ملال ہوا، انہوں نے شاہ اسماعیل صاحب سے شکایت کی کہ میں نے مولوی مظفر حسین صاحب کو بھی دیکھ دی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ شاہ صاحب نے مولوی مظفر حسین صاحب پر عتاب فرمایا، ارے مظفر حسین! تجھے تقویٰ کی بد منظمی ہو گئی ہے، کیا نواب قطب الدین صاحب کا کھانا حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا، حاشا رکھا، مجھے نواب صاحب پر اس قسم کی بدگمانی نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، پھر تو کیوں انکار کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ مفروض ہیں اور جتنا خیال خرچ کریں گے وہ ان کی حاجت سے زائد بھی ہے تو یہ رذیہ وہ اپنے قرض میں کیوں نہیں دیتے ایسی حالت میں ان کا کھانا کراہت سے خالی نہیں۔

ارشاد فرمایا:۔ مولوی زبیر کاکراچی سے خط آیا کہ میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ جب کھانا مشکوک ہو تو دو عاکہاں سے قبول ہوگی، ہم لوگ مدرسہ کے ملازم ہیں چندہ کا رذیہ آتا ہے جو مشکوک ہوتا ہے، اس لئے میں نے ملازمت کے ترک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں نے جواب لکھا یا کہ ایسا ہرگز ہرگز نہ کرنا، اب تجارت کہاں پاک رہی، مولانا مظفر حسین صاحب ایک مرتبہ مولوی نور الحسن صاحب کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے کچھ دام اپنے صاحبزادے مولوی محمد ابراہیم کو دیئے کہ خود جا کر ان کا سامان کھانے کے لئے لادیں، تاکہ گڑ بڑ نہ ہو، کھانا تیار ہوا، اس میں فیروزی بھی تھی، جس کے کھاتے ہی تھے ہو گئی، مولوی نور الحسن صاحب بہت پریشان ہوئے، تحقیق کیا تو معلوم ہوا جو رذیہ مولوی محمد ابراہیم صاحب لائے تھے وہ گڑ گیا تھا، پھر رذیہ باورچی حلوائی کے یہاں سے وار میں لے آیا تھا۔

ارشاد فرمایا:۔ "بی امۃ الرحمن" جو مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبزادی تھیں جن کو عام طور سے خاندان میں "امی بی" کے نام سے یاد کرتے تھے، ایک رالہ بہیرت بی بی تھیں، دن بھر مصلے پر ہا کرتی تھیں، ان کے در صاحبزادے تھے، مولوی شمس الحسن صاحب، رؤف الحسن صاحب جو مولوی احتشام کے والد ہیں، ماموں رؤف الحسن حضرت اقدس رانپورچی سے اور ماموں شمس الحسن صاحب میرے

حضرت سے بیعت تھے۔ ماموں شمس الحسن آبکاری کے وارث تھے، ان کی باتیں بھی عجیب تھیں، اپنے انسرول سے لڑا کرتے تھے مگر ثروت کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے ایک مرتبہ ایک بڑے انسر نے ان سے کہا کہ میں تمہاری تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، غالباً دو سو کے چار سو کرنا چاہتا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میری تنخواہ بہت زائد ہے، کیونکہ میرے سوا اس تنخواہ کا ایک پیسہ بھی میرے خاندان کا کوئی فرد استعمال نہیں کرتا، حتیٰ کہ میری بیوی بھی میرے پیسے کو استعمال نہیں کرتی چنانچہ ان کے چچا منظر پور سے پہلی کر کے ان سے ملاقات کے لئے جاتے اور شام تک واپس چلے آتے اور یہ فرماتے کہ تمہارا سوا اور کسی کے یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں اور تمہارے یہاں کھانا کھا نہیں سکتا۔

مولوی رؤف الحسن صاحب دلیل تھے مگر ان کی آمدنی کو خاندان کا کوئی فرد استعمال نہیں کرتا تھا، اب تو ہم مولویوں نے سب جائز بنا رکھا ہے، مولوی رؤف الحسن صاحب اچھے حافظ تشریح بھی تھے، ایک مرتبہ کا نہ صلہ گئے، "بی اماں" نے ان سے کہا ۲۹ کا چاند نظر نہ آیا تمہارا رہنے سے کیا فائدہ؟ قرآن سناؤ، چنانچہ انہوں نے تراویح کے بعد نفل نماز کی پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر نماز پوری کی اور اپنے جوتے اٹھا کر چل دیئے، اور پوچھا فرمایا: کہ میرے بس کا تو تھا نہیں، مگر آپ کی خاطر میں نے اس طرح پڑھ ڈالا" ارشاد منسٹریا: یہ میرے دوستوں کا جائز آمدنیوں سے بچتے رہو۔

من نہ کروم شما عذر کنید

ہم نے سنا ہے کہ جس کا رمضان اچھی طرح گزرا جائے، اس کا سارا سال اچھا گزرتے گا۔
ایک دیہاتی مبلغ کا قصہ ارشاد منسٹریا: میرا ایک مخلص نوجوان غلام نبی گاؤں کا رہنے والا تھا، حق تعالیٰ شانہ اس کو بلند درجات عطا فرمائے، پہلے اس کا جوڑ بھائی تھا، اخلاص کے ساتھ تعلقات میں سارے قانون ختم ہو جاتے ہیں، حضرت تھانویؒ کے انتقال کے بعد اس کا تعلق مجھ سے قائم ہو گیا، اس میں دو باتیں عجیب تھیں، ایک یہ کہ وہ مسئلے بہت پوچھا کرتا تھا، قاری سید مرحوم مفتی اعظم مظاہر علوم (اس کا بہت خیال کرتے تھے جب وہ آجاتا تو اس

کے مسائل کے جوابات دیتے تھے، وہ مبلغ تھا، ہفتہ بھر گھومتا تھا، بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ مساجد بنوائیں، اس سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو لکھ لیتا اور ہفتہ بھر کے بعد جواب دیتا، وہ کہا کرتا تھا، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ سب سالن سے ہوتی ہیں، وہ اپنے سفر میں تین چار رٹیاں اپنے کپڑے میں باندھ لیتا تھا، اور انہیں کو کھاتا تھا، اور میرے دسترخوان پر کبھی وہ صرف روٹی کھاتا۔

دوسری بات یہ تھی کہ وہ بعض دفعہ مجھ پر بھی اعتراض کرتا تھا، مخلص آدمی جب اعتراض کرتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی وہ کہا کرتا تھا، کہ جتنے بزرگ پان کھایا کرتے ہیں وہ پیسے بچا سچا کر دین میں لگاتے تو کتنا فائدہ ہوتا، حضرت تھانویؒ حضرت سہارنپوریؒ تو پان نہیں کھاتے تھے۔

پہلے مجمع کم ہوتا تھا، جمعہ کی مجلس کچھ گھر میں ہوتی تھی پہلے میں نوبتے آیا کرتا تھا، اور اب مجبوریوں کی وجہ سے مجلس گیارہ بجے ہو گئی ہے، ایک مرتبہ وہ جمعہ کی مجلس میں آیا، اور کہنے لگا حضرت جی! جتنے لوگ گاؤں سے آتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں اور مولوی جتنے آتے ہیں، وہ چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے کہنے کے بعد میں نے خیال کیا تو ایسا ہی پایا۔

اس کا انتقال عجیب مغرب شان سے ہوا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا حج کا ارادہ ہے، میرے پاس پیسے روپے کچھ زیادہ تو نہیں ہیں، مگر میں دئی تبلیغ کے لئے جا رہا ہوں، اگر وہاں سے جوڑ بیٹھ گیا، تو حج کو چلا جاؤں گا، ذرہ تبلیغ کرتا رہوں گا، مگر کسی سے آپ ذکر نہ مائیں، لوگ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے، میں ان سے کہتا کہ وہ تبلیغ میں گیا ہے، پھر اس کا بھی سے خط آیا، کہ وہ سفر حج کے لئے روانہ ہوا، حج سے فراغت کے بعد اس کی دلچسپی ہوئی، دلچسپی میں سخت بیمار ہوا، بمبئی میں احباب نے اس کا سامان وغیرہ دیکھ کر بتہ چلایا کہ اس کا مجھ سے بھی تعلق ہے، چنانچہ لوگوں نے ٹکٹ وغیرہ خرید کر اس کو طرین پر سوار کر دیا، وہ سہارنپور آیا، اور یہاں سے وہ اپنے گاؤں چلا گیا، بھار کی حالت میں اس کا ہر چیز کھانے کو جی چاہتا، لوگ کہتے کہ پہلے تو کھاتا نہیں تھا، اب کیا ہو گیا میں نے کہا کہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ تو کھا کر جلے گا۔

ایک بزرگ کا مجاہدہ ارشاد فرمایا: ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ

روزانہ کیا خرچ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سال بھر میں تیس درہم، انہوں نے بتایا کہ ایک درہم کا شیرہ لیتا ہوں، اور ایک درہم کا چوڑا اور ایک درہم کا گھی اور اس کے ۳۶۰ لٹروں جاتا ہوں، روزانہ افطار میں ایک لٹرو کھالیتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ جن ایام میں روزہ رکھتے ہونگے ان میں بھی روزانہ ایک لٹرو پر قناعت کرتے ہوں گے۔

صوفی عبدالرب کا قصہ ارشاد فرمایا: ایک صوفی عبدالرب صاحب (مجاز حضرت اقدس تھانوی) ہیں، میرا روزانہ کا صرف پان کا خرچ تیس چالیس روپے تک کا ہوتا ہے، عجز ہوا لکھنؤ سے ایک جماعت آئی، اس میں (مولانا) علی میاں اور مولوی منظور نعمانی صاحب اور صوفی صاحب بھی تھے۔ چنانچہ علی میاں اور مولوی منظور صاحب نے جماعت والوں کو اصول بتائے اور سکھائے اور کہا کہ تم لوگوں کا قیام تبلیغی مرکز کی مسجد میں رہے گا، دیکھو شیخ کی دعوت قبول نہ کرنا، زیادہ اصرار ہو تو ایک دقت ان کے یہاں کھانا کھالینا، مگر ہم دونوں کے ان سے ایسے تعلقات ہیں کہ کھانا تو وہیں کھائیں، چونکہ صبح لکھنؤ والی ٹرین لکسر سے اکثر کافی لیٹ آتی ہے اور پریشانی کرتی ہے، چنانچہ وہ لیٹ آئی، غالباً ڈیڑھ بجے گاڑی آئی، صوفی صاحب کہیں پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ میرے یہاں آئے، بڑے حضرت راپوری کے خلفا میں حضرت منشی رحمت علی صاحب تھے، وہ فرماتے ہیں "مولوی کا دماغ جب چلے ہے جب دست خوان تو ہو دوسرے کا اور انتظام ہو اس کا، میرا بھی یہی حال ہے میرا دماغ دوپہر کے کھانے میں خوب کھلتا ہے، ان حضرات نے دوپہر کا کھانا کھایا، صوفی صاحب نے کھانے کے بعد ان دونوں سے کہا کہ آپ لوگ جو کچھ کہیں، میں کھانا تو یہیں کھاؤں گا، پندرہ دن تک قیام رہا، جب وہ جلنے لگے تو بہت دعائیں دیں، شاعر بھی تھے، میرے ساتھ بھی شاعر کی برتی، انہوں نے مجھ سے تین باتیں دریافت کیں، ایک تو میں بھول گیا البتہ دو یاد ہیں ان میں کی ایک بات یہ تھی کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ سب چھوڑ کر تبلیغ میں نکل جاؤ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ حقوق بھی ہیں، میں نے آپ کو بہت معتدل پایا، اس لئے جواب کی درخواست ہے، میں نے کہا کہ اگر گھر میں بیوی بچوں کے

کھلنے کا انتظام ہو تو ضرور تبلیغ میں جانا چاہیے، اور اس کے خلاف مولویوں کی ایک نہ سنا، البتہ اگر باہر جماعت میں جاؤ تو سب انتظام مکمل کر لو اور عین چلتے وقت بیوی سے تنہائی میں کہو کہ سفر کا بہت سہم چڑھ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، تیری یاد بہت پریشان کرے گی، کسی کام میں دل نہیں لگے گا۔ مگر بیوی ایسی پیش آگئی کہ مجھے بغیر چارہ کار نہیں، جلدی سے جلدی والی کی کوشش کروں گا یہ مجھ کو خوب اس سے مل کر چل دو، اور اس سفر سے تھوڑے تھوڑے وقفے میں اس کی محبت اور یاد کے خطوط لکھتے رہو اور پھر والی پر سب سے پہلے اسی سے طو، اور کہو کہ سارے سفر میں تمہاری بہت یاد آئی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سب کاموں سے جان چھڑا کر خدا خدا کر کے اٹھیا ہوا اور اگر بیوی بچوں کا انتظام نہ ہو تو تبلیغ والوں کی باتوں پر عمل نہ کرنا، وہ جب یہاں سے واپس اپنے وطن راناؤ، پہنچے تو ان کا اور ان کی بیوی دونوں کے خطوط آئے، انہوں نے لکھا کہ میں نے گھر پر آکر سب اچل دیا، چونکہ ہمارے یہاں بیوی کو خطاب کرنے کا "تو" کے ساتھ معمول نہیں ہے، بلکہ "آپ" کے ساتھ ہے، لیکن میں نے اس نیت سے کہ حضرت کے فرمائے ہوئے الفاظ میں برکت ہے وہ دوسرے لفظوں میں نہیں بلکہ بیوی سے وہی الفاظ کہے جو حضرت نے فرمائے تھے، اس کو بظہر خطا بہت اجنبی معلوم ہوا، اس لئے پوچھا کہ یہ سن کس نے پڑھایا ہے؟ جب میں نے جناب کا ذکر کیا تو اس نے بھی شکریہ کا خط لکھا ہے۔

دوسری بات انہوں نے یہ دریافت فرمائی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو دست خیم حاصل ہے، میں نے آپ کی دکان کی آمد اور منگ آؤ کی خوب تحقیقات کیں، مگر دونوں کی آمدنی روزانہ کے دسترخوان کے خرچ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی، میں نے کہا کہ دست خیم ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کبھی نقد نہ منگوائے، ادھر منگوائے اور بھاؤ نہ پوچھے بلکہ جس چیز کی ضرورت ہو منگوائے اور جب روپے کا مطالبہ کرے فوراً ادا کرے، میرا یہی معمول ہے، قرض خوب ملتا ہے، مگر جب ادائیگی کا اطمینان ہو۔

مہانوں کی برکت سے اس موقع پرناچین مرتب کو ایک واقعہ یاد آگیا جس کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ لکھنؤ کے ایک رئیس صاحب سہارنپور حاضر ہوئے، ان کی آمد سے پیشتر مذہبی حضرت مولانا علی میاں مظلم نے حضرت اقدس سے ان کی آمد کا تذکرہ کر دیا تھا۔ حضرت مولانا بھی سہارنپور تشریف رکھتے تھے۔ اور بھی کچھ اہم صومعی مہمان آگئے تھے دوپہر کو دستہ سزاں پر انوار و اقسام کے کھانے دیکھ کر ان رئیس صاحب نے کھانے کے دوران میں حضرت اقدس سے ایک بے شکا سوال کیا، کہ مولویوں کے یہاں تو یہ تکلفا نہیں ہوتے، کیا روزانہ کا یہی معمول ہے، یا آج ہی کا؟ جناب کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس پر حضرت نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مہانوں کی برکت سے مجھے کھلاتا ہے، حضرت اقدس مذہبی مہمان کے یہاں دیکھا گیا ہے کہ جس درجے کے مہمان ہوتے ہیں، ویسا ہی حق تعالیٰ شانہ انتظام بھی فرماتا ہے، ان رئیس صاحب نے کہا کہ حضرت! اگر جناب لکھنؤ تشریف لائیں گے، تو ہم سے تو یہ اہتمام نہ ہو سکے گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا آپ اطمینان رکھیں، لکھنؤ آنے ہی کا نہیں۔“



چوتھی مجلس

۴ رمضان المبارک

جو بزرگوں کی ابتدا کو دیکھے وہ کامیاب آج چار انسرد کی ایک جماعت ترقی اور جو انتہا کو دیکھے وہ ناکام، سے آئی تھی، اور امریکہ کی جماعت بھی تھی ایک صاحب ترقی میں اور دوسرے صاحب انگریزی میں ترجمانی کر رہے تھے۔

ارشاد فرمایا:۔ ہمارے حضرت اقدس راہپور کئی فرماتے تھے کہ جب دانستے تھے تو چنے نہیں لے اور جب چنے لے تو دانست ہی نہ رہے۔ یعنی جب کھانے کا زمانہ تھا تو عسرت دیکھی تھی، اور جب فتوحات کے دروازے کھلے، تو صحت و معدے نے جواب لے دیا۔

حضرت نے ارشاد فرمایا:۔ ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے جو ہماری انتہا کو دیکھے وہ ناکام اور جو ابتدا کو دیکھے وہ کامیاب، اس لئے کہ ابتدائی زندگی مجاہدوں میں گزرتی ہے اور اخیر میں فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، اگر کوئی ان فتوحات کو دیکھ کر آخری زندگی کو میاں بنانے تو وہ ناکام ہو جائے گا۔

اور پر والے حملے کو حضرت نے بار بار دہرایا، اور ارشاد فرمایا میرے پیارو! اس پر غور کر لو، اور تمام بزرگوں کی زندگی میں اس کا مطالعہ کر لو، اہلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جماعت ترقی، پیر اخیر زندگی میں بہت فتوحات ہوئیں اور ابتدا پر زندگی میں فائقے کرنے پڑے، یہاں تک کہ ایک دن ایک مخلص دوست سے دو پیسے تسوین مانگے، مگر اس نے عذر کر دیا، اس پر حضرت کو بہت رنج و خلق

ہوا کہ اس سے کیوں مانگے تھے، جس نے اس کو دیکھا ہے اس سے کیوں نہ مانگے رات میں زیارت
 ہوئی کہ ابتلا رکاز در ختم ہوا، اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھل گئے، حضرت اقدس راپوریؒ
 کے ایک مجاہدہ کا قصہ بیان کر چکا ہوں۔ نیز حضرت راپوریؒ فرماتے ہیں کہ میرے حضرت اقدس۔
 (بڑے حضرت راپوریؒ) جب مہانوں سے فارغ ہو جاتے تھے اور حضرت آرام فرماتے تو اخیر میں ناز
 ہو کر معزالدین ناظم معام کے پاس جاتا، اور جو کچھ ہوتا کہا لیتا، اب ہمارے خدام سے مشکل ہے
 ارشاد فرمایا: ع۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پر رگڑ جانے کے بعد
 دیکھو حنا (جہدی) کی پتی جب رگڑ دی جائے، تو وہ رنگین بنا دیتی ہے اور اگر بغیر رگڑے
 ہوئے اس کے پتے رکھ دیئے جائیں تو کچھ نہ ہوگا۔ حضرت مٹی فرماتے تھے کہ مسجد اجابت میں ذکر کرتا
 تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اس کی دیواروں سے سر پھوڑوں۔

میرے پیارو! آدمی مجاہدوں سے بنتا ہے۔

ہم خدا خواہی دہم دنیا سے دل اس خیال است و جمال است جنوں

ہر کام کا ایک ضابطہ و اصول ہوتا ہے، ڈاکٹر کے لئے مزدوری ہے کہ وہ اپنے مقصد میں
 کامیابی کے لئے ڈاکٹری کے اصول و ضابطے سیکھے اس پر عمل کرنے سے کامیابی ہوگی، اسی طرح
 سلوک کے راستے میں کم کھانا، کم بولنا، کم سونا جس کو تم لوگ "امداد السلوک" میں سنتے ہو، ان پر
 عمل ضروری ہے۔

شاہ عبدالرحیم صاحب سہانپوری ارشاد فرمایا: ہمارے بڑے حضرت اقدس
 معروف جمیال صاحب کا قصہ! راپوریؒ کے پہلے پیر حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب
 سہانپوریؒ نور اللہ مرقدہ تھے، جن کا مزار سہانپور میں ہے ان کے ایک خادم مولوی روشن علی صاحب
 تھے۔ اور مولوی روشن علی صاحب کے صاحبزادے مولوی فراغت علی صاحب تھے ان کو میں نے بھی

۱۔ ترمیم فرمائی گئی ہے جانے کے بجائے رگڑ جانے سے۔

دیکھا ہے حضرت شاہ صاحب کو ان سے خاص تعلق تھا، میرا چاند کہہ کر پکارتے تھے، ایک رات نصتا میں ایک روشن دان جا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ میرے چاند! اگر تم چاہو تو میں اسکو انارڈوں چنانچہ حکم دیا، وہ نیچے اتر آیا، اس میں ایک پتلا تھا، جس میں بہت سی سونیاں تھیں، حضرت نے فرمایا کہ حم کون؟ اس نے کہا کہ جادو، حضرت نے فرمایا کہ میری مالونگے یا جادو گر کی؟ اس نے کہا کہ آپ کی مالون گا، حضرت نے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ جہاں سے تم آئے ہو، وہیں واپس جاؤ چنانچہ درہ واپس گیا، سنا ہے کہ وہ جادو گر مر گیا، حضرت نے فرمایا، اس طرح اس کجعت نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہوگا۔

اللہ سے تقرب حاصل کرنے۔ ارشاد فرمایا:۔ حدیث میں آیا ہے "بہت سے کار راستہ آسان ہے پر لگندہ سہرا، اخبار آلود جن کو درازوں سے دھکا دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر تم کھالیں، تو اللہ ان کے قسم کی لاج دکھ لیتا ہے" آدمی ریاضت و مجاہدے سے یہ مقام حاصل کر سکتا؟ دوسری حدیث میں آیا ہے "لا ینزال عبدی یتقوہ الی بالنوازل" اللہ آدمی نوافل کے ذریعہ برابر حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، آگے معقول کا یہ خلا صہ ہے کہ اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:۔ اللہ جل شانہ کا راستہ بہت آسان ہے، تجزیہ سچی ہے، اور لوگوں کو دیکھا بھی ہے۔

بعلم اللہ راہ خدا بیش از در قدم نیست
 یک قدم بر نفس خود نہ دگرے بر کوہ دست
 ارشاد فرمایا:۔ بھائی دیکھو، جو کچھ کرو، اللہ کی مرضی کے موافق کرنا چاہئے، جی دمرضی کے موافق نہ کرو، کچھ کر لو، رمضان المبارک میں اس کی مشق کر لو، ہمارے بزرگوں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ملاز نہ کرو، وکان نہ کرو۔

حق تعالیٰ کی رضا جوئی
واخلاص کی برکت

ارشاد فرمایا: ایک قصہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والد صاحب سے سنا اور کئی مرتبہ سنا اور میں نے بھی حدیث کے اسباق اور دستوں کی مجالس میں ہزاروں مرتبہ اس کو سنایا ہوگا، وہ یہ کہ قصبہ پانی پت کا ضلع کرنال ہے ان دونوں کے درمیان جمنہ چلتی تھی۔ معلوم نہیں اب ایسا ہی ہے یا نہیں، جمنہ کا دستور یہ ہے کہ خشکی کے زمانے میں لوگ جوئے ہاتھ میں لے کر پار ہو جاتے ہیں، جہاں پانی زیادہ ہو، وہاں کشتیاں کھڑی رہتی ہیں، طراح دوچار پیسے لے کر ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں، لیکن جمنہ جب طغیانی پر ہو تو پھر عبور نامکن ہوتا ہے، ایک شخص پانی پت کا بہنے والا جس پر خرگ کا مقدمہ کرنال میں تھا اور جمنہ میں طغیانی کا نہایت زور، وہ ایک ایک طراح کی خوشامد درآمد کرتا رہا مگر ہر شخص کا ایک جواب کہ اس میں تیرے ساتھ اپنے آپ کو ڈبوئیں گے؟ وہ بیچارہ غریب پریشان روتا پھر رہا تھا۔ ایک شخص نے اس کی بد حالی دیکھ کر کہا کہ اگر میرا نام نہ لے تو ترکیب میں بتاؤں، جمنہ کے قریب فلاں جگہ ایک جھونپڑی پڑی ہوئی ہے اس میں ایک صاحب مجذوب قسم کے پڑے بستے ہیں، ان کے جاگ کر ہو جا، خوشامد منت مساجت جو کچھ تجھ سے ہو سکے کس نہ چھوڑنا، اور وہ جتنا بھی برا بھلا کہیں حتیٰ کہ اگر تجھے ماریں تو بھی منہ نہ موڑنا چنانچہ یہ شخص ان کے پاس گیا اور ان سے خوشامد درآمد کی انہوں نے اپنی عادت کے موافق خوب ملامت کی کہ میں کوئی خدا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں، مگر جب یہ دیتا ہی رہا اور دونا تو بڑے کام کی چیز ہے اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے (تو ان بزرگ نے کہا کہ جمنہ سے کہدے کہ اس شخص نے جس نے عمر بھر نہ کچھ کھایا نہ سیر کی کے پاس گیا، اس نے بیجا ہے کہ مجھے راستہ دیدے؟ چنانچہ یہ گیا اور جمنہ نے راستہ دیکھا اس کا تو کام ہو گیا، اس میں کوئی استبداد نہیں، پہلے انبیاء کے معجزات اس امت کی کرامات ہیں اور پانی پر چلنے کے قصے تو صحابہ کرام کے بھی تواریخ میں منقول ہیں۔ اور کرامات صحابہؓ تو مستقل ایک رسالہ، حضرت تھانویؒ کے حکم سے لکھا گیا تھا، جس میں علامہ ابنِ حزمیؒ صحابی کی ماتحتی میں ایک جہاد کسریٰ ہوا تھا سمند میں گھوٹے ڈال دینا اور سمند پار کر لینا جس میں زمینیں بھی نہ بھیگیں نقل کیا گیا ہے۔ عامل کسریٰ یہ دیکھ کر ایک کشتی میں بیٹھ کر یہ کہہ کر بھاگ گیا، کہ ان سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اس واقعہ کو ابن

عبدالبرہا کی اور تاج الدین بسکی نے بھی مختصراً ذکر کیا ہے، اس جھوٹپی میں ان بزرگ کے بیوی بچے بھی تھے، دینداروں کی بیویاں ڈیڑھ ختم ہوتی ہیں، یہ بے چارے اس فکر میں رہتے ہیں کہیں زیادتی نہ ہو جائے وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر سر چڑھ جاتی ہیں، ان بزرگ کی بیوی نے رونا شروع کیا کہ تو نے عمر بھر جو یہ کہا کہ میں بیوی کے پاس کبھی نہیں گیا، یہ سستہ کی دھار میں کہاں سے لائی؟ انہوں نے ہر چند سمجھایا کہ یہ میری اولاد ہے، میں نے ان کی اولاد ہونے سے انکار نہیں کیا مگر اس نے اتنا رونا چلانا شروع کیا کہ تو نے میرا منہ کالا کر دیا، وہ ساری دنیا میں جا کر کہے گا کہ پیر صاحب تو بیوی کے پاس گئے نہیں یہ اولاد کہاں سے آگئی، ہر چند پیر صاحب نے سمجھانا چاہا، مگر اس کی عقل میں نہیں آیا اور جتنا جتنا وہ کہتے وہ روتی جب بہت دیر ہو گئی، تو ان پیر صاحب نے یوں کہا کہ میں نے ساری عمر خوب کھایا، اللہ کا شکر ہے اور تیرے سے صحبت بھی ہمیشہ خوب کی، تجھے معلوم بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے بچپن میں ایک مولانا صاحب سے دعوت میں ایک بات سنی تھی وہ یہ کہ جو کام اللہ کے واسطے کیا جائے وہ دنیا نہیں دین بن جاتا ہے، اور عبادت بن جاتا ہے اور ثواب بن جاتا ہے، اس وقت سے جب کوئی چیز میں نے کھائی یا تو اس نیت سے کھائی کہ اس سے اللہ کی عبادت پر قوت حاصل ہو، یا اس نیت سے کھائی کہ لانے والے اور کھلانے والے کا دل خوش ہو، اسی طرح میں شادی کے بعد سے تیرے پاس خوب گیا، لیکن یہ قصہ پہلے سے سنا ہوا تھا، اس لئے جب بھی میں تیرے پاس گیا، تیرا حق ادا کرنے کی نیت میں نے پہلے سے کر لی کہ اللہ نے بیوی کا حق رکھا ہے، میں نے تو یہ قصہ اپنے والد صاحب سے سنا، بار بار سنا، ایسے ہی سنا، مگر مولانا الحاج ابوالحسن علی میاں صاحب دام مجدہم نے حضرت الحاج شاہ محمد نعیم نے فقیر کی نقشبندی جھوپالی کے جو لفظیات جمع کئے ہیں اس کے صفحہ ۳۵۱ پر یہ قصہ دوسری نوع سے نقل کیا ہے، جو حسب ذیل ہے۔

حضرت شاہ صاحب نزد اللہ مرقہ نے منہ پایا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر بہتے تھے، دوسرے بزرگ دوسرے کنارے پر ایک بزرگ نے جو تماہل اور صاحب اولاد تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کا ایک خوان لگا کر دریا کے دوسرے کنارے جو دوسرے بزرگ رہتے ہیں

ان کے پاس لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ، بیوی نے کہا کہ دریا گہرا ہے، میں اس کو کس طرح پار کر کے دوسرے کنارے پر جاؤں گی، منہ ریا کہ جب دریا میں قدم رکھتا تو میرا نام لے کر کہنا کہ اگر میرے اور میرے شوہر میں وہ تعلق ہو، جو زن و شوہر میں موا کرتا ہے تو مجھے ڈوبو دے، درنہ میں پار ہو جاؤں، اس نے یہی کہا، یہ کہنا تھا کہ دریا پایاب ہو گیا اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں وہ دریا کے پار ہو گئیں، انہوں نے کھانے کا خوان ان دوسرے بزرگ کو پیش کیا، انہوں نے اس کو اکیلے تناول فرمایا، (یعنی ختم کر لیا) جب واپس ہونے کا وقت ہوا، تو ان کو فکر ہوئی کہ آنے کا وظیفہ تو مجھے معلوم ہو گیا اب جاتے وقت کیا کہوں؟ ان بزرگ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ میں دریا سے کس طرح پار ہوں، انہوں نے منہ ریا کہ پہلی مرتبہ دریا کو کس طرح پار کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اس طرح کہوں، انہوں نے فرمایا کہ اب جاتے وقت تو میرا نام لے کر کہنا کہ اس نے ایک لقمہ بھی کھایا ہو، تو ڈوب جاؤں، درنہ پار ہو جاؤں، چنانچہ وہ پار ہو گئیں، اب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے صاحبِ اولاد ہو کر خلافتِ واقعہ بات کیوں کہی؟ اور ان بزرگ نے انکھوں کے سامنے پورا کھانا تناول کرنے کے باوجود ایک لقمہ بھی کھانے سے انکار کیوں کیا، تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ کیا امر الہی سے کیا، اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کیا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی امر الہی سے کیا، اپنے نفس کا اس میں کچھ حصہ نہ تھا، اور دنیا جو کچھ کرتی ہے، اور جس کا رواج ہے وہ نفس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، امر الہی پیش نظر نہیں ہوتا، اس لئے دنیا جس کو ازدواجی تعلق اور شکم پروری اور ناز و نوش سمجھتی ہے ہم دونوں میں کوئی اس کا مرگب نہیں ہوا، لیکن یہ منہ رسی نہیں کہ یہ واقعہ پہلا ہوا اس قسم کے واقعات متعدد ہو سکتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ کے اس قسم کے واقعات، پانی پر چلنا، دریا میں گھوڑوں کو اتار دینا مشہور ہیں۔

ہر نیکی صدقہ ہے ارشاد فرمایا: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ

آدمی کے بدن میں ۳۶۰ جوڑے ہیں، جب آدمی صبح کو صحیح و سالم تندرست اٹھتا ہے، تو ہر جوڑے کی صحت و سلامتی کے بدلے اس کے ذمہ ایک صدقہ (شکرانہ) واجب ہوتا ہے، اس حدیث میں

آگے یہ مضمون ہے آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے، یہ بھی صدقہ ہے، اس روایت میں ہے کہ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ آدمی اپنی بیوی سے شہوت پوری کرتا ہے، اس میں صدقہ ہے؟ صحابہ کرامؓ کو اللہ جل شانہ بہت ہی درجات عالیہ اپنی اور ان کی شایانِ شان عطا فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ذرا سی بات دریافت کر کے امت کے لئے بہت کچھ ذخیرہ چھوڑ گئے حضور نے صحابہ کرامؓ کے اشکال پر یوں فرمایا کہ اگر اس پانی کو بے عمل گرائے یعنی حرام کاری کرے تو کیا گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، مزدور ہوگا، تو حضور نے فرمایا پھر یعنی اگر حرام سے بچنے کی نیت سے اپنی بیوی سے صحبت کرے تو پھر کیوں ثواب نہ ہوگا؟

تصوف کیا ہے؟ رئیس الاحرار مولانا
 ارشاد فرمایا :- مولانا حبیب الرحمن
 صاحب رئیس الاحرار کے دیکھنے والے
 حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کا ایک قصہ

تو ابھی بہت ہوں گے اور سننے والے تو بہت زیادہ، منہا میں تو مرحوم کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور تعلق اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ وہ بجائے دہلی کے سہارنپور میرے پاس رہنے کی تمنائیں بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، بلکہ اصرار بھی اور میں اپنے میکار اور ان کے باکار ہونے کی وجہ سے اس کو کبھی قبول نہیں کرتا تھا، لیکن ابتداء میں میرے اور مرحوم کے تعلقات بہت ہی خراب تھے، ان کی تو مظاہر میں کبھی اس زمانے میں آمد نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے دلیو بند کبھی کبھی حضرت قدس سرہ کا فرستادہ بن کر کتب خانہ سے کسی کتاب کی تلاش میں یا عمر میں ہمتیں رحمہم اللہ تعالیٰ سے کسی بات میں مشورہ کے لئے جانا ہوتا تھا، رئیس الاحرار صاحب مجھ سے بہت واقف تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، مدرسہ سہارنپور میں ہوں، میں ان سے صرف اتنا واقف تھا کہ لدھیانہ کا کوئی طالب علم ہے جس کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں، لیڈر کی کرتا ہے، وہ چونکہ گھومتے پھرتے تھے، اس واسطے میری دلیو بندگی ہر مرتبہ کی آمد پر دو تین مرتبہ ان کا سامنا ہوتا تھا اور وہ بہت چلا کر مجھے سنا کر بہت ناراضگی کا اظہار کیا

کرتے تھے، اس لئے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں سیاست سے بالکل بے تعلق، اخبار بینی کا دشمن ہوں اور اس زمانے میں دیوبند و سہانپور میں اخبار بینی آئی بھی نہیں تھی، سہانپور کا کوئی طالب علم یا مدرس تو اخبار بینی جانتا ہی نہ تھا کہ کیا بلا ہے؟ حضرت قدس سرہ کی چار بانی پر عصر کے بعد دو چار اخبار پڑے رہتے تھے، جن کو کوئی باہر کا مہمان اٹھا کر دیکھ لیتا تھا، دیوبند میں مولانا اعجاز علی صاحب اور ان کے ہموا تو نہایت مخالفت اور اخبار کے دشمن، لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ مدرسین کوئی ایک آدھ دیکھ لیتا تھا۔

رئیس الاحرار مرحوم جب مجھے دیکھتے دور سے چلا کر کہتے "ایسے شخص کا وجود زمین پر بوجھ ہے یہ مریکوں نہیں جلتے، ان کے لئے زمین کا اندر زمین کے بیروں سے بہتر ہے۔" وغیرہ وغیرہ اور اس ناکارہ کی اتنی جرات تو نہیں ہوتی تھی کہ پکار کے کچھ کہتا، مگر ایک دو طالب علم جو مجھے دیکھ کر میرے ساتھ ہو لیتے تھے، ان سے پیا ما کہلوادیتا کہ اس شخص کو مدرسہ کی روٹی کھانا حرام ہے مدرسہ کا چندہ میٹھی کے واسطے نہیں آتا، جس شخص کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی واسطہ نہ ہو مطالعہ سبق سے کوئی کام نہ ہو، اس کو مدرسہ کی روٹی کھانا حرام ہے۔ مدرسہ کے اندر قیام ناجائز ہے، مدرسہ کی برقم کی اعانت حاصل کرنا گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پیام پر مرحوم اور بھی زیادہ برا فروخت ہو کر کئی سال ہی قصہ رہا، مگر اللہ جل شانہ نے ان کی دستگیری فرمائی، کہ اعلیٰ حضرت قدوة الاتقیاء فخر الاولیاء حضرت الحاج شاہ عبدالرحیم صاحب رانپوری نور اللہ مرقدہ کے اخیر زمانہ حیات میں حضرت قدس سرہ سے الحاج شاہ عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اس زمانہ کا دستوری تھا کہ اعلیٰ حضرت سے جو شخص بیعت ہونا چاہتا، ضعف و نقاہت کی وجہ سے حضرت خود تو نہ فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ بیعت کے الفاظ کہلا دیتے تھے۔ بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اثر سے خالی نہیں ہوتا چنانچہ یہ تعلق رنگ لائے بغیر نہیں رہا، اور اخیر میں تو رئیس الاحرار کو حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ سے عشق کا تعلق ہو گیا تھا اور حضرت کی وجہ سے اس سیرے کار سے بھی، لیکن شروع کے چند سال ایسے گزرے کہ مرحوم اپنی سیاست میں رہتے،

کلکتہ بمبئی اور پٹنہ وغیرہ ان کی گزرگاہ تھی اور سہارنپور ہر جگہ کا جشن اس لئے جب سہارنپور سے گزر ہوتا تو ہم رنڈ واہی یا ایک شب قیام کے لئے رائپور بھی جاتے اس کے دیکھنے والے تو آج بھی سینکڑوں ہیں کہ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب رائپور کی گواہی سیکھ کر کے ساتھ عشق کا سائق تھا، جملہ مقررہ کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے مخلص دوست صوفی اقبال پاکستانی شہر المدنی جو پاکستان میں ملازم تھے، جب حضرت رائپور پاکستان جاتے اور صوفی اقبال مجھے خط لکھتے تو بہت اصرار سے مجھے لکھا کرتے کہ خط کے جواب میں حضرت رائپور کو سلام ضرور لکھ دیجو، اس لئے کہ جب میں عصر کے بعد مجلس میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ ”شیخ کا خط آیا ہے، حضرت کو سلام لکھا ہے“ تو فوراً چار پائی کے قریب بلایا جاتا ہوں اور فوراً خیریت و حالات وغیرہ دریافت کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے مغرب تک چار پائی کے قریب بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، اس تعلق کی بنا پر جب کوئی شخص رائپور حاضر ہوتا تو حضرت کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ شیخ سے مل کر آئے یا نہیں؟ اگر وہ یہ کہتا کہ مل کر آیا ہوں۔ تو بڑی بشاشت سے بات پوچھتے، خیریت پوچھتے، کیا کر رہے تھے، کوئی پیام دیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر وہ کہتا کہ نہیں مل کر آیا ہوں تو زیادہ التفات نہ فرماتے، بلکہ جیسا تعلق ہوتا، ویسا بات کرتے اس عیوہ کا کوہت سے ایسے لوگ جن میں رئیس الاحرار بھی تھے باوجود دل نہ چاہنے کے نہایت گرائی کے ساتھ کھڑے کھڑے مصافحہ کرنا ضروری سمجھتے، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہو کر آیا ہوں اور سلام عرض کیا ہے اور میں بھی اس قسم کے لوگوں سے باوجود دل نہ چاہنے کے چاہے کتنی ہی مشغولی کا وقت ہو اور کتنا ہی ضروری کام کر رہا ہوتا، ضرور بلا کر حضرت کی خدمت میں سلام عرض کر دیتا، مباوا وہ جا کر کہہ دینے میں حاضر ہوا تھا، مگر باریابی نہ ہوئی۔

رئیس الاحرار مرحوم سے کئی سال صرف اسی نوع کی ملاقات رہی، ایک مرتبہ دس بجے صبح کو میں اوپر اپنے کمرے میں نہایت مشغول تھا، مولوی نصیر نے اوپر جا کر کہا کہ رئیس الاحرار آئے ہیں، رائپور جا رہے ہیں، صرف مصافحہ کرتا ہے، میں نے کہا جلدی بٹا دے، مرحوم اوپر چڑھے اور نیچے پرچہ پڑھتے ہی سلام کے بعد مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا کر کہا رائپور جا رہا ہوں، اور ایک سوال آپ

سے کر کے جا رہا ہوں، اور پرسوں صبح دلہی ہے، اس کا جواب آپ سوچ رکھیں، دلہی میں جواب لوں گا۔ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے مصافحو کرتے کرتے جواب دیا صرف تصویح نیت۔ اس کے سوا کچھ نہیں، جس کی ابتداء انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور انہا ان تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ ہے، میرے اس جواب پر سکتے میں کھڑے ہو گئے، اور کہنے لگے دلی سے یہ سوچتا آ رہا ہوں، کہ تو یہ جواب دے گا، تو یہ اعتراض کروں گا اور یہ اعتراض کرے گا تو یہ جزا دل کا، اس کو تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے کہا جاؤ، تاکہ والے کو بھی تقاضہ ہوگا، میرا بھی سہرا ہو رہا ہے، پرسوں تک اس پر اعتراض سوچتے رہو، اس کا خیال رہے کہ دن میں مجھے لمبی بات کا وقت نہیں ملنے کا دو چار منٹ کو تو دن میں بھی کر لوں گا، لمبی بات چاہو گے تو مغرب کے بعد ہو سکے گی، مرحوم دوسرے ہی دن شام کو مغرب کے قریب آگئے اور کہا کہ کل رات تو ٹھہرنا مشکل تھا، اس لئے کہ مجھے فلاں جلسے میں جانا ہے اور رات کو تمہارے پاس ٹھہرنا ضروری ہو گیا اس لئے کہ ایک دن پہلے میں چلا آیا اور یہ سبھی کہا کہ تمہیں معلوم ہے۔ مجھے نہ تم سے کبھی عقیدت ہوئی، نہ محبت، میں نے کہا علیٰ ہذا القیاس، مرحوم نے کہا "مگر تمہارے کل کے جواب نے مجھ پر بہت اثر کیا، اور میں کل سے اب تک سوچتا رہا، تمہارے جواب پر کوئی اعتراض سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا انشاء اللہ مولانا اعتراض طے کا بھی نہیں، انما الاعمال بالنیات" سارے تصوف کی ابتداء ہے، اور ان تعبد اللہ کا تک ترہ "سارے تصوف کا منہا ہے، اسی کو نسبت کہتے ہیں، اس کو یادداشت کہتے ہیں، اسی کو حضور ہی کہتے ہیں۔

حضور کی گریہی خواہی از دغان فل مشر حانظ مستی مطلق من تہوی کے لئے الدنیا و اہلہا

میں نے کہا مولوی صاحب سارے پا پڑا اسی کے پیٹے پہلے جاتے ہیں، ذکر بالجہر بھی اسی کے واسطے ہے، مجاہدہ و مراقبہ بھی اسی کے واسطے ہے، اور جس کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے کسی بھی طرح سے یہ دولت عطا کرے، اس کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا اثر سے ایک ہی

نظر میں سب کچھ ہو جاتے تھے اور ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی اس کے بعد اکابر اور حکماء، امت نے قلبی امراض کی کثرت کی بنا پر مختلف علاج جیسا کہ اطباء بدنی امراض کے لئے تجویز کرتے ہیں، روحانی اطباء روحانی امراض کے لئے ہر زمانے کے مناسب اپنے تجربات جو اسلاف کے تجربات سے مستنبط ہیں، نئے تجویز فرماتے ہیں۔ جو بعضوں کو بہت جلد نفع پہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت دیر لگتی ہے، پھر میں نے مرحوم کو متحدہ قہقہے سنائے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو آپ بیتی ۲۔“



پانچویں مجلس

۵ رمضان المبارک

ایک ضروری تشبیہ حضرت نے ارشاد فرمایا: میرے پیارے بڑے سکون سے ماہ مبارک گزارو، جو دن گزر جائے گا، وہ بیٹ کر آنے والا نہیں، اگلے سال کی خبر نہیں کہ آدے گایا نہیں تم لوگوں نے اپنے گھر کی رختیں چھوڑی ہیں، اس کے بعد بھی اگر کچھ وصول نہ کرو تو تکلیف ہی تکلیف ہے اگرچہ میں مولوی نصیر الدین اور اس کے رفیق کار شیخ انعام اللہ کو بار بار تفریق کرتا رہتا ہوں کہ کھانے وغیرہ کا خاص اہتمام کیا جائے۔ مدارس کی سرپرستی سے ارشاد فرمایا: ہمارے بڑے حضرت رائے پوری نور اللہ قدساً ڈرتے رہنا چاہیے۔ سرپرست دارالعلوم دیوبند و مظاہر علوم کا یہ مقولہ بہت مشہور تھا اور خود بھی سنا ہے، کہ مجھے مدارس کی سرپرستی سے جتنا ڈر لگتا ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں، یہ سنا کہ حضرت نے فرمایا: میں بھی اس سے ڈرتا ہوں، مظاہر علوم کی سرپرستی مجھ پر زبردستی مقبوضہ کی گئی تھی، میرے پاس دو ڈھائی ہزار مختلف مدارس و مکاتب کے خطوط سرپرستی کے لئے آئے ہوں گے، میں نے اپنی معذوریوں کی بنا پر ہمیشہ انکار کیا، بڑے حضرت رائے پوری فرماتے تھے اگر کوئی شخص کسی کے یہاں ملازم ہو، وہ مالک کے کام میں کچھ کوتاہی کرے، خیانت کرے، کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو ملازمت سے علیحدہ ہوتے ہوئے یا مرتے وقت مالک سے معاف کر لے، تو معاف ہو سکتا ہے لیکن مدرسوں کا رپیہ جو بیچارے عوام کے چندہ سے آتا ہے، ہم سرپرستان مدرسہ اس کے مالک تو ہیں نہیں، امین ہیں اگر اس کے صرف استعمال میں افراط و تفریط ہو تو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے تو معاف ہو نہیں

سکتا، اس لئے کہ دوسرے کے مال میں ہم کو معافی کا کیا حق ہے، اتنا ضرور ہے کہ اگر بمصالح مدرسہ چشم پوشی کریں، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر فرمائے گا لیکن اگر اپنے ذاتی تعلقات سے ہم لوگ تسامح کریں تو ہم بھی جرم کے اندر شریک ہیں، لیکن جرم کرنے والے سے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہو سکتا کہ حقوق العباد ہے اور جن کا مال ہے وہ اتنے کثیر ہیں کہ ان سے معاف نہیں کرایا جاسکتا۔

مدارس کے معاملات میں ہمارے حضرت اقدس مدنیو ضمیمہ العالمیہ نے اب سے کچھ عرصہ
اکابر کی احتیاط و تدبیر پہلے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے حضرات اساتذہ
 و منتظمین و ملازمین کے لئے ایک مضمون لکھایا تھا، جس میں اپنے قریبی اکابر و اسلاف کے کچھ
 واقعات ذکر کر کے دکھلایا تھا کہ مدارس کے معاملات میں ان حضرات کا رویہ کس قدر احتیاط و تدبیر
 کا تھا اور وہ خاص اس باب میں آخرت کے محاسبہ سے کس قدر لرزاں و ترسماں رہتے تھے،
 یہ مضمون ”آپ بیٹی“ ما کے اخیر میں طبع ہو چکا ہے، موقع کی مناسبت سے اس سے اخذ
 کر کے چند واقعات نقل کر رہا ہوں، حضرت اقدس نے بھی وقتاً فوقتاً ان واقعات کو اپنی مجالس
 میں سنائے ہیں۔

(۱) حضرت مولانا احمد علی خٹک سہارنپوری (بخاری و ترمذی کے مٹھی) جب منظام علوم
 کی قدیم تعمیر کے چندہ کے سلسلے میں کلکتہ تشریف لے گئے، ارک وہاں کے قیام کی وجہ سے لوگوں
 سے حضرت مولانا کے خصوصی تعلقات تھے (تو مولانا مرحوم نے سفر سے واپسی پر اپنے سفر کی آمد
 خسرچ کا مفصل حساب مدرسہ میں داخل کیا، وہ رجسٹر میں نے خود پڑھا، اس میں ایک جگہ
 لکھا تھا کہ کلکتہ میں فلاں جگہ میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، اگرچہ وہاں چندہ خوب ہوا،
 لیکن میری نیت دوست سے ملنے کی تھی اس لئے وہاں کی آمد و رفت کا اتنا کرایہ حساب
 سے وضع کر لیا جائے“

(۲) حضرت اقدس سیدی مولانا خلیل احمد صاحب نوز اللہ مرقدہ جب یکسالہ قیام حجاز

کے بعد ۱۳۲۲ھ کے آخر میں مظاہر علوم میں واپس تشریف لائے، تو میرے والد حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نور اللہ مدظلہ کا شروع ذیقعدہ میں انتقال ہو چکا تھا، حضرت نے مدرسہ سے تنخواہ لینے سے یہ تحریر فرما کر انکار کر دیا، کہ میں اپنے صنعت دہیری کی وجہ سے کسی سال سے مدرسہ کا کام پورا نہیں کر سکتا، لیکن اب تک مولانا محمد عیسیٰ صاحب میری نیابت میں دورہ کے اسباق پڑھاتے تھے، اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور مدرسہ کی تعلیم کا پورا کام نہیں کر سکتا اس لئے قبول تنخواہ سے معذور ہوں

(۳۱) مظاہر علوم کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا، میں نے اکابر مدرسین و ملازمین میں سے کبھی کسی کو جلسہ کے کھانے یا چائے پان کو کھاتے نہیں دیکھا، جملہ مدرسین و ملازمین پنا اپنا کھانا کھاتے تھے البتہ حضرت قدس سرہ مدرسہ کے خصوصی مہانوں کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن حضرت کے مکان سے دس بلہ آدمیوں کا کھانا آتا تھا، جو متفرق مہانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اسی میں سے حضرت نوش فرماتے تھے، مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا، مولانا عنایت علی صاحب مہتمم مدرسہ دوشنب دروز مدرسہ کے اندر رہتے، اور دن کو ظہر کے وقت اور رات کو ۱۲ بجے اپنے دفتر کے کونے میں بیٹھ کر اپنا ٹھنڈا اور معمولی کھانا تنہا کھا لیتے تھے۔

(۴) میرے والد صاحب (حضرت مولانا محمد عیسیٰ) قدس سرہ کے زمانے میں مدرسہ کا مطبخ، جاری نہیں ہوا تھا نہ مدرسہ سے قریب کسی طبخ کی دوکان تھی، جامع مسجد کے قریب ایک طبخ کی دوکان سے کھانا آیا کرتا تھا، سردی کے زمانے میں وہاں سے آتے آتے خصوصاً شام کو ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو سالن کے برتن کو مدرسہ کے حکام کے سامنے اندر نہیں بلکہ باہر رکھوا دیتے تھے، اس کی پیش سے وہ تھوڑی دیر میں گرم ہو جاتا تھا، تو ہر ماہ دو تین روپے یہ فرما کر چینہ میں داخل کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے ارتفاع ہوا ہے، تنخواہ تو میرے والد صاحب نے اپنے سات سالہ قیام مدرسہ میں کبھی لی ہی نہیں۔

(۵) حضرت مولانا عنایت الہی صاحب مدرسہ (مظاہر علوم) کے مہتمم بھی تھے، مفتی بھی تھے

اور عدالتی تمام کاروباران ہی کے ذمہ تھا، لیکن دفتر میں ان کے پاس دو قلمدان رہتے تھے، ایک ذاتی ایک مدرسہ کا، ذاتی قلمدان میں کچھ ذاتی کاغذ بھی رکھے رہتے تھے، اپنے گھر کوئی ضروری پرچہ بھیجنا ہوتا، تو اپنے قلمدان سے لکھتے تھے، مدرسہ کے قلمدان سے کبھی نہیں لکھتے تھے۔

اُدُنک آباؤی فغنی بمنہم
خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے
اذا جمعنا یا جسریہ المجمع
نہوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں نعلی رحمانی
انہیں کے اتقا، پرناز کرتی ہے مسلمان
انہیں کی شان کو زیبا نہوت کی درراشت ہے
پھریں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہیں
اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے

اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سمنانی

مدرس میں اسبابِ تعیش ارشاد فرمایا:۔ ہمارے یہاں اسٹرانگ میں ایک مطالبہ
کا میں مخالف ہوں۔ تمہا، کہ دارالطلبہ کے صحن میں ایک بلب تو واٹ کا ہونا
چاہیے، میں نے کہا کہ لگانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں، مگر ذرا ان درخواست کنندگان سے پوچھ لو، ان
کے گھر میں کیا جلتا ہے، چراغ ہی جلتا ہو گا۔

میں اپنے مدرسے میں سبیل کے چنگیوں کے لگانے کا فائدہ سمجھوں، حمنہ، حافظ صاحب (مسلما نا
عبدالطیعت رحمۃ اللہ علیہ) رنگون سے مظاہر علوم میں جسبلی کے بنگھوں کے لئے رقم لائے، میں نے عرض
کیا کہ میری زندگی میں تو لگیں گے نہیں، بعد میں رنگون والوں نے مطالبہ کیا، میں نے کہا کہ اگر میسوں کا
مطالبہ ہے تو واپس کر دو، مگر بعد میں مولانا اسماعیل اللہ صاحب نے اپنے دورِ نظامت میں لگوا دیئے، مدرسہ
والوں کا عام دستور ہے کہ جب کہیں سے کچھ مل جاتا ہے، تو واپس نہیں کرتے،

میری مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابتداء ہی سے طالب علم مستعم و محشوق رہے گا، تو کسی سجد یا مدرسہ
میں مہمندی تنخواہ میں کیا کام کرے گا بلکہ اس کو لمبی تنخواہ چاہیے اگر یہ نہ ملے گی تو دکان وغیرہ کرے گا۔

اپنے مکان میں بجلی نہ آیا۔ ایک صاحب جو حضرت اقدس مدنی نور اللہ مقدمہ کے متعلقین
 گوانے کی مخالفت میں تھے اور مجھ سے بھی عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے دیوبند جا کر
 حضرت کے مکان میں بجلی لگوائی، اس کے بعد میرے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کے مکان میں بجلی لگوانا
 چاہتا ہوں، میں نے مذکر کیا کہ اس کے اخراجات مجھ سے ادا نہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے سر پر ہیں
 گے پھر بھی میں نے مذکر کیا انہوں نے کہا کہ حضرت مدنی کے یہاں میں لگوا آیا ہوں، میں نے کہا کہ حضرت تو
 سال میں کئی مرتبہ جیل جاتے ہیں، میں بھلان کی ریس کیا کر سکتا ہوں، مگر ادھر اگر میری معذوریوں کے بعد میری
 عدم موجودگی میں مولوی نصیر اور ابوالحسن نے لگوا ہی دی۔

ساوگی

ارشاد فرمایا: حدیث میں آیا ہے "وایا لعلہ و التعم فان عبان اللہ"

لیسوا بمتنعین: عیش پرستی سے بچو کیونکہ اللہ کے مخصوص بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔

حضرت اقدس گنگوہی رح کے لئے تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے مطاف کے کنارے
 ایک نامیانا بزرگ تشریف فرما تھے، جب طواف میں حضرت اس طرف گزرے تو وہ (البس لباس الصالحین)
 ہلکی آواز سے کہتے اور جب حضرت طواف سے فراغت پر اس طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنا کرتا مانے
 کر کے خشن خشن (موٹا موٹا) چرایا، جس سے تنبیہ مقصود تھی کہ صلحاء کا لباس موٹا کپڑے ہے؟

مقوی کھانا کھانے سے میں منع نہیں کرتا کیونکہ اس سے دماغ میں قوت آئے گی، البتہ گلاب جامن
 وغیرہ کھانے سے تقویت نہیں آئے گی، لیکن اچھا دسمہ کپڑا پہننا بالکل بے کار ہے، لیس موٹا ہوتا ہے موت
 کو یاد رکھو، زیادہ پرہیز کے چیمے نہ پڑو۔

لے مقصد یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے باطن کو صلاح بنایا ہے، تو لباس بھی صالحین کا اختیار کر دو مری تم کے لباس سے
 کب تک صلاح باطن چسپاؤ گئے، (افانہ حضرت مفتی محبوب الحسن صاحب مدظلہ)۔

چھٹی مجلس

۶ رمضان المبارک

ہر چیز میں میری تقلید نہ کرو فرمایا: الحمد للہ مجھے بیماری میں پرہیز و غیرہ کی مزدت ہی نہیں تھی، ایک مرتبہ مجھے پھنسیاں نکل آئی تھیں اور ان سے مال بہہ رہی تھی، انگڑو سے ایک حکیم صاحب آئے انہوں نے مجھ کو کاڑھا پلایا جو تین دن پکایا گیا تھا، انتہائی کڑھا ہو گیا تھا، میں نے اس کو پیا، مگر کسی طرح آرام نہیں ہوتا تھا، تک مروج وغیرہ میرے لئے حکیموں نے بند کر دیا اس زمانے میں حکیم ایوب اور مولوی نصیر الدین محمد سے مقامات حریری پڑھتے تھے میں باہر کے کمرے میں ان کو پڑھاتا، میری والدہ نے فقروں کے لئے میری جیب میں کچھ پیسے ڈال رکھے تھے، مجھ سے زیادہ فقیر کون ہوگا، میں نے مولوی نصیر کو پیسے دیئے کہ بازار سے کباب لاؤ، اس میں خوب مرچیں تھیں، وہ کباب لایا اور میں نے خوب کھایا، دو ڈھائی گھنٹے تک تکلیف کی شدت سے موت یاد آنے لگی اس کے بعد قضا، حاجت کی مزدت ہوئی اسی وقت ساری پھنسیاں خشک ہو گئیں میں جب باہر آیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، میں نے کہا دھدن کے بعد تباؤں لگا، بھائی تم لوگوں کو ہر چیز میں میری حروف نہ کرنی چاہیے۔

راقم نے یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مظلہ بیمار تھے، حضرت اقل مدنیہم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ ان کو ۲۲ ڈگری بخار ہے، حضرت نے فرمایا ذرا مجھے مٹرا میٹر لگا کر دیکھو، چنانچہ لگایا گیا، تو حضرت اقدس کو آخری ڈگری تک بخار تھا، اس پر حضرت ناظم صاحب اور دیگر خدام حیرت زدہ رہ گئے، اس لئے کہ اسباق اور مولات میں کوئی فرق نہیں تھا۔

کتابوں کی رائلٹی ارشاد فرمایا: میری کتابوں پر کوئی رائلٹی نہیں ہے، طبع کرانے کی عام اجازت ہے، مگر صحت کا خاص اہتمام رکھا جائے گلت کے ایک صاحب نے فضائل کی کتابوں کو طبع کرایا ایک جگہ اس میں ایک مسطر درمیان سے چھوٹ گئی تھی اور وہاں کسی مسجد میں پڑھی جا رہی تھی ایک مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا کہ یہ غلط ہے ان کا اعتراض صحیح تھا، مگر عقیدت مندوں نے ایک ہنگامہ کر دیا کہ حضرت شیخ بر اعتراض؟ چنانچہ مجھے اطلاع کی گئی، میں نے اس عبارت کی تحقیق و تفسیح کر کے وہاں مطلع کیا، تب جا کر جھگڑا ختم ہوا، بھائی میری کسی بات کی جب تک کسی مفتی سے تحقیق نہ کرو، میرا اتباع نہ کرو۔

بغیر واقفیت کے مسائل میں ارشاد فرمایا: میرے والد صاحب نوزاد اللہ مقدّم

رائے زنی گمراہ کن ہے مگر مئی کے موسم میں موچیوں کی مسجد میں رہتے تھے، اس زمانے کے طالب علم بڑے نیاز مند ہوتے تھے، آج کل کی طرح نہیں کہ وہ اپنے کو طلبہ سمجھتے ہیں اور اپنا کرم سمجھتے ہیں کہ استاد سے پڑھ رہے ہیں اس زمانے میں مظاہر علوم میں ولایتی طالب علم کثرت سے آتے تھے، وہ خدمت کرتے تھے، پیر دباتے تھے ایک مرتبہ مگر مئی کے موسم میں والد صاحب بیٹے کو غسل فرما رہے تھے اور وہ لوگ پانی کے ڈول نکال نکال کر ڈالتے جا رہے تھے محلہ کے ایک وکیل صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ اسراف ہے، اس طرح غسل کرنا کہاں جائز ہے؟

والد صاحب نے فرمایا میرے لئے جائز ہے، ان کو حیرت ہوئی انہوں نے کہا کہ مولویوں کے لئے ہر چیز جائز کیوں؟ والد صاحب نے فرمایا کہ مولوی مسائل جانتا ہے اور حکم ناواقف ہو، اس وقت میرا یہ غسل تبرید (ٹھنڈک حاصل کرنے) کے لئے ہے۔ اس میں تین مرتبہ پانی ڈالنے کی قیہ نہیں ہے۔ فرمایا: الاعتدال میں شامی کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے لئے جانور

خریدے اور وہ گم ہو جائے، اس کے بعد وہ دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خریدے اور پھر پہلا جانور بھی مل جائے، اگر یہ شخص غریب ہے جس پر تبرانی واجب نہیں ہے تو اس کے ذمہ دونوں کی قربانی ضروری ہے اور اگر امیر ہے تو صرف ایک جانور کی قربانی کافی ہے، جس جانور کی دل چاہے

قربانی کر دے اور دوسرے کو بیچ دے یا جو چاہے کرے۔

مسئلہ بالکل صاف ہے، لیکن اصول سے واقفیت پر مبنی ہے، محض ذہانت اس میں کیا تیر چلائے، دوسرا مسئلہ علامہ ثنائی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع کرنا بھول جائے، نماز کے بعد یاد آئے، اگر اس نے سنت کے موافق متقی اور نیک لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے تو فاسد ہو گئی اس کا عاودہ ضروری ہے اور اگر خلاف سنت نماز پڑھی ہے، نادانف لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ آج کل پڑھتے ہیں، تو نماز ہو گئی۔

کیا روشن دماغ یا شہسرتہ تقاریر و تحریرات سے بلا واقفیت اصول و حقائق شرعیہ اس نوع کے مسائل میں رائے زنی ہو سکتی ہے؟

نہ مایا: میری ایک بچی نے قاعدہ بغدادی شروع کیا، اس میں آن بان کی تختی، آئی، اس میں جب ہمزہ پر پہنچی، تو تہز ان پڑھا، اس کی ماں نے کہا کہ یہ آن ہے، مگر وہ اصرار کرتی رہی کہ امل یہ تہز ان ہونا چاہیے، ماں پریشان ہوئی، اداس نے کہا جب تیرے ابا آئیں گے، تو ان سے پوچھ لینا، جب میں گیا تو اس نے وہی اعتراض کیا، میں نے کہا بیٹی ابھی تیری سمجھ تو ٹھوٹی ہے، ابھی تو تم آن پڑھو، بڑی ہونے کے بعد سمجھ میں آجائے گی، بہر حال مسائل شرعیہ کے قواعد سے واقفیت کے بغیر رائے زنی گمراہ کن ہے۔

حوادث پر صبر جمیل ارشاد نہ مایا: میرے والد صاحب کا ۲۵ رمضان المبارک شب کو انتقال ہوا، اور میری والدہ صاحبہ کا بھی اگلے سال ۲۵ ہی رمضان ۱۳۳۲ھ کو وصال ہوا، میں حکیم ایوب صاحب کی مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا، میرے حضرت کا تقاضا تھا کہ میں حضرت کے ساتھ پڑھا کروں اور حکیم اہنق صاحب کا اصرار تھا کہ میں ان کی مسجد میں پڑھایا کروں، چنانچہ میں آدھ گھنٹہ میں سب نمازیں پڑھ کر حضرت کی تراویح کی پہلی رکعت میں اگر شامل ہو جایا کرتا تھا، تراویح کے بعد کھانا کھانے کا معمول تھا، مگر والدہ صاحبہ نے اپنے انتقال کی شب میں مجھے اصرار سے تراویح کے پہلے کھانا کھلا دیا تھا، نماز سے فراغت کے بعد حکیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ گھر پر والدہ صاحبہ

کو دیکھ کر حضرت کے یہاں جاؤ، مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا، چنانچہ جب میں گھر پر حاضر ہوا تو راز کا انتقال ہو چکا تھا، میرے حضرت پر میرے حوادث کا بہت اثر ہوا تھا، میری پہلی بیوی کی کسی اولاد کا انتقال ہوا، نظام الدین میں ایک بچہ پیدا ہونے اور اس کے انتقال کی خبر سہارنپور پہنچی، میں اس وقت "بذل الجہود" لکھنے کے لئے قلم لے کر بیٹھ گیا، حضرت نے فرمایا، مجھے تو لکھایا نہیں جاتا، حضرت امام بخاری نے کتاب الحج میں دو باب قائم کئے ہیں، ایک باب ہے "من جلس عند المصيبة يعرف فيه المحزن" ج ۱ صفحہ ۱۱۷۳ اور دوسرا باب ہے "من لم يطمع حزنه عند المصيبة" ج ۱ صفحہ ۱۷۳، پہلے باب میں اصحاب موتہ کی شہادت کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دوسرے باب میں ایک صحابیؓ کا واقعہ ذکر کیا ہے، جب ان کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا تو انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ بچے کا انتقال رات میں ہوا، اور صبح کو اپنے شوہر کو اطلاع دی۔

اس حادثہ پر مولوی یوسف مرحوم نے مجھے ایک نہایت رنج و غم کا خط لکھا، میں نے اس کو ڈانٹ کر جواب تحریر کیا کہ اس قدر غم نہیں کرنا چاہیے، جب اس کا علم میرے چچا جان کو ہوا تو، انہوں نے مجھے ایک ڈانٹ کا خط لکھا، میں نے جواب میں لکھا کہ بخاری کے پہلے باب پر میرے حضرت کا عمل ہے اور دوسرے پر میرا، اس پر انہوں نے مجھے تلبیہ کا خط لکھا۔

جب حضرت اقدس کو والدہ مرحومہ کے انتقال کا علم ہوا تو حضرت اس کاف میں تھے، فرمایا، استنجاء تو اپنے بس کا ہے، چنانچہ پیشاب کے تقاضے سے باہر تشریف لائے اور وضو کر کے نماز جنازہ پڑھا، نماز میں لقمہ کا لطیفہ سردمایا: حضرت کے پیچھے دس بارہ حفاظ قرآن سنتے تھے ایک مرتبہ میں اپنی مسجد میں تراویح ختم کر کے آیا، تو معلوم ہوا کہ حضرت کی مسجد میں تراویح ہو رہی ہے۔ میں نماز میں شریک ہو گیا، چنانچہ حضرت نے نماز میں سورہ طلاق کی آیت "یا ایہا النبی! الخ" شروع فرمائی میں نے لقمہ دیا، یا ایہا الذین آمنوا! تو حفاظ نے تصحیح کی، نماز ختم کرنے کے بعد حضرت نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس طرح لقمہ کیوں دیا، میں نے عرض کیا کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آگے

کے سارے صیغے جمع کے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ کہیں اس میں بھی اجتہاد کیا جاتا ہے۔
بے سجادہ رنگیں کن۔۔ الخ کا مطلب ارشاد فرمایا: کہ بڑوں کی چیزوں پر بغیر تحقیق نہ اعتراض کرنا مناسب ہے اور نہ عمل کرنا مناسب ہے۔

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمخاں گوید کہ سالک بے تجربہ نمود راہ در سم نہ رہا
 یہ شعر اپنی جگہ حقیقت ہے، پھر اس شعر کی تشریح مندرجہ ذیل ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے
 کسی مولوی صاحب نے اس کا مطلب پوچھا اور بہت اصرار کیا، حضرت نے ان کو دس روپے دیئے
 اور کہا کہ فلاں گلی میں جاؤ، وہاں جو حسین و جمیل عورت ملے اس سے تعلق جمڈ لینا، چنانچہ وہ گئے، اور
 اس طرح کی ایک عورت کا پتہ معلوم کیا اس کے پاس پہنچے، اور اس کو وہ روپے دیئے مگر وہ
 عورت رونے لگی، انہیں حیرت ہوئی، انہوں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی، اس نے
 کہا کہ یہ شیخ کام میں نے کبھی نہیں کیا ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم پھر یہاں کیسے آگئی ہو؟
 اس نے کہا کہ نکاح کے بعد رخصت ہو کر میں برات کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں ڈاکو آ پہنچے
 برات کو لوٹا اور مجھے یہاں لاکر نہ رخت کر دیا، مولوی صاحب نے اس کے والد کا نام پوچھا تو معلوم
 ہوا کہ یہ ان ہی کی بیوی ہے اور یہ مولوی صاحب ہی اس کے شوہر ہیں۔

عملیات و تعویذات مندرجہ میرے نانا مولوی یوسف صاحب تھے،
 ان کے پاس بہت سے تعویذات تھے، انہیں عملیات میں بہت مہارت تھی ان کی مباحث میں
 نے دیکھی ہے، ان کے پاس ایک عمل تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تھا، جس کے علاج سے سہلک
 اطباء عاجز ہوجاتے تو ان سے اصرار کیا جاتا، چنانچہ وہ عمل کرتے تھے، دو ڈھائی گھنٹے کے
 بعد یا تو بعض اچھا ہوجاتا یا مر جاتا، اگر اچھا ہوتا تو کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے بھی یہی کئی
 مرتبہ دیکھا ہے۔

ان کا ایک عمل چوڑکے لئے تھا، جب اس کے بارے میں ان سے کہا جاتا، تو ان کا کرتے
 اور فرماتے سب تم ہی کھاؤ گے، چوڑ نہیں کھائے گا، مگر جب کبھی عمل شروع کرتے، تو چوڑ

کو دست آنے لگتے وہ اس کی تحقیق کراتے، جب پتہ معلوم ہو جاتا، تو چور تک پیغام پہنچاتے، کہ وہ جیر واپس کر دو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، البتہ چور کا نام نہیں بتاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اصرار ہے فرمایا کہ یہ تعویذات و عملیات میری عمر بھر کی کمائی ہیں تم مجھ کو ایک مرتبہ سنا دو تو میں اجازت دے دوں میں طالب علم تھا، مجھے اس سے، کوئی دلچسپی نہیں تھی، بعد میں اپنے حضرت کے حکم و اجازت سے تعویذات لکھنا شروع کیا۔



ساتویں مجلس

۷۷ رمضان المبارک

حضرت سہارنپوریؒ سے بیعت اور ذکر میں انہماک ، ارشاد فرمایا۔ سوال ۳۳ میں میرے حضرت
 مرقہ) اپنے طویل قیام کے ارادے سے حجاز مقدس کا قصد فرما رہے تھے لوگ کثرت سے بیعت ہو رہے
 تھے، مجھے بھی بچوں کی طرح دیکھا دیکھی اس کا جذبہ پیدا ہوا، حضرت سے جا کر عرض کیا، حضرت نے
 فرمایا کہ جب میں مغرب کے بعد نفلوں سے فارغ ہو جاؤں، اس وقت آ جانا، مولانا عبداللہ گنگوہی،
 جو خلافت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے، انہوں نے بھی تجدید بیعت کی درخواست کر رکھی تھی حضرت
 نے فریخت کے بعد ہم دونوں کو قریب بلایا اور اپنے دونوں ہاتھ ہم دونوں کو پکڑا دیئے اور بیعت کے
 الفاظ کہلوانے شروع کئے، مولانا عبداللہ صاحب نے ہمکپوں کے ساتھ دھڑکیں مار مار کر دنا شروع
 کیا، جس کا اثر حضرت پر بھی تھا، حضرت کی آواز بھر گئی اس وقت والد صاحب (حضرت مولانا
 محمد یحییٰ صاحب) اور حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رانپوری نور اللہ مرقہ اور پریشیے ہوئے تھے،
 والد صاحب یہ آواز سن کر منڈیر پر دیکھنے کے لئے آئے، دیکھا تو میں بیعت ہو رہا تھا، اس پر انہیں
 بہت تعجب ہوا، اور احساس ہوا کہ بلا علم و اطلاع کے اتنا بڑا کام کر لیا، لیکن حضرت رانپوریؒ نے
 تصویب فرمائی اور بیعت دعائیں دیں۔

جب "بذل المہرود" کی طباعت کا معاملہ آیا، تو پہلے اس کا انتظام میرے گھر میں شروع کیا گیا، اس

کے بعد تھانہ بھون میں مولانا شبیر علی صاحب کے پریس میں اس کو منتقل کر دیا گیا، اس زمانے میں میرا معمول تھا کہ جمعرات کی شام کو تھانہ بھون جاتا اور سچری صبح کو واپس آتا یہ سفر ہر ہفتہ یا پندرہ دن میں ایک مرتبہ پیش آتا اس میں جب کبھی اتوار کو پریس کی چھٹی نہ ہوتی تو ایک آدھ دن بڑھ جاتا، میں نے بیعت کے بعد ذکر و شغل نہیں کیا، میرے چچا جان میرے مرنے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت ذکر و شغل کر لیا کرو، میں نے کہا ہر کسے راہ پر کارنے ساختن میں مشکوٰۃ شریف پڑھاؤں، اور اس کا مطالعہ کروں یا ذکر و شغل کروں، مگر تھانہ بھون کے اس سفر میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تصالونی جو میرے استاد بھی ہیں، نحو میر وغیرہ میں نے ان سے پڑھی ہے، اس زمانے میں ان کو نئی نئی خدمات ملی تھی، بہت خواب و مکاشفے وغیرہ سنایا کرتے تھے، ہم لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہوں نے ایک دن ایک پرچہ پر میرے لئے اجازت نامہ لکھ دیا، میں نے انکار کیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں وہ فرماتے کہ ایسے ہی کہا جاتا ہے، میں اپنے دل میں یہ سوچتا رہا کہ اگر اسی طرح اجازت مل جاتی ہے تو یہ بہت آسان چیز ہے، مگر مولانا ظفر احمد صاحب کے اجازت نامے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ ذکر و شغل کر لینا چاہیے۔ میں نے حضرت سہارنپوری کی خدمت میں ایک عرض لکھا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو کچھ دن مدرسہ سے چھٹی لے کر میں ذکر و شغل کر لوں، حضرت نے جواب دیا کہ مدرسہ سے چھٹی لینے کی ضرورت نہیں تعلیمی مشاغل کے ساتھ کچھ کر لیا کرو، چنانچہ میں نے شروع کر دیا، اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ذکر و تعلیم دونوں کو ایک ساتھ نبایا جا سکتا ہے، حضرت اقدس گنگوہیؒ کو اعلیٰ حضرت حاجی صاحب نے جب اجازت دی تو فرمایا کہ ہیں تو جو کچھ کرنا تھا کر چکے، آگے تمہارا کام ہے، حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں: پھر تو میں مرنا!

سالک اسے کہتے ہیں، جو چلتا رہے، آخر زندگی تک ادنیٰ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔

اے برادر بے نہایت درگہیت ہر چہ بردے می رسی بڑے یات

ارشاد سرمایا :- میں ذکر و شغل کا نہیں تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ سب بڑے چل دیں گے اور

تم لوگوں کے لئے میں ہی رہ جاؤں گا۔

بڑے درد و رقت سے فرمایا:۔ اگر مجھ سے کچھ تکلیف ہو جائے اور تم میں سے کسی کو فائدہ ہو جائے، تو میں تیار۔

اوقات کی قدر و قیمت فرمایا:۔ اوقات بہت قیمتی ہیں، زندگی کا جو وقت مل گیا ہے اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے۔ "فلینزور العبد من نفسه لنفسه ومن حیاتہ لموتہ ومن شبابہ لکبریٰ ومن دنیاہ لآخرتہ" اللہ "بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے لئے، اور زندگی میں موت سے پہلے اور نوجوانی میں اپنے بڑھاپے سے پہلے اور اس دنیا میں آخرت سے پہلے زاہد راہ تیار کر لے۔

تیرا ہر سانس غلّ موسوی ہے
یہ جزر و مد جو اصر کی لڑی ہے



آٹھویں مجلس

۸ رمضان المبارک

حضرت مدنی و حضرت ایوبی کے افلاق
 ۱۱ منٹ میں ۲ آدمیوں کا کھانا پکانا
 آج کھانا کھانے کے دوران میں ایک بہت
 بڑا مجمع بغیر اطلاع کے آگیا تھا، اس
 لئے کھانا کم ہو گیا تھا، خدام بھی باقی رہ گئے، اس کی حضرت کو بہت فکر ہوئی اور کھانے کا نظم کیا
 ارشاد فرمایا: حضرت اقدس مدنی و حضرت اقدس رانپوری کو حق تعالیٰ شانہ بہت بلند درجے
 عطا فرمائے، اکابر میں سے حضرت شیخ الہند کا زمانہ بہت کم پایا۔ ۱۳۲۲ھ تک تو گویا ہم قید میں
 رہے، حضرت شیخ الہند ۲۳ھ میں حج کے لئے تشریف لے گئے، وہاں سے سات سال کیلئے
 مالٹا جیل میں اسیر بنا کر بھیج دیئے گئے اور مالٹا سے واپسی کے بعد ڈیڑھ سال بیمار رہے، اس
 کے بعد انتقال ہو گیا۔

حضرت اقدس مدنی کا معمول تھا کہ جب کبھی لکھنؤ یا رڈ کی کسی طرف جانا ہوتا تو میرے
 مکان پر ضرور ہرگز تشریف لے جاتے خواہ دس منٹ کے لئے ہو، ایک مرتبہ ایسے رات میں عین
 بارش میں تشریف لائے اور آکر فرمایا کیڑا کھولو، میں نے کہا کون؟ جب دروازہ کھولا تو فرمایا آج
 گاڑی دو گھنٹہ لیٹ تھی، میں نے سوچا کہ تمہارا درشن کرتا جاؤں، میں نے (بریتائے غبت) عرض
 کیا کہ ان مبارک ہونٹوں سے بے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، پھر میں نے چائے پلائی۔
 ایک مرتبہ اہل بیجے دن میں تشریف لائے، ملاقات پر میرے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا،

جب میں نے اس کی کوشش کی تو اس کا موقع نہیں دیا، حضرت کے چچے مولانا مبارک صاحب تھے اور ان کے چچے اور کچھ حضرات تھے جن کی تعداد گیارہ تھی، مصافحہ ہوا، میں نے عرض کیا کھانا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر کھانا کھا لیا ہوتا تو ہم تمہارے یہاں کیوں آتے؟ میں تنگے پاؤں جلدی سے اندر گیا، میری پیمیاں اب بھی تقاضہ کرتی ہیں کہ ہانسن کا سالن ہم پکا دیا کریں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں پچیس آدمی ہوتے تو خیر ممکن تھا، مگر ان پانچ سو کا دیگ پکانا مشکل ہے، ان کا مسلسل اصرار ہے کہ ہمالیہ کا کوئی کام ہمارے ذمہ کیا جائے۔

بہر حال جب میں اندر گیا تو گھردالوں نے بتایا کہ اس وقت روٹی و سالن کوئی چیز موجود نہیں آٹا موجود تھا، میں نے کہا کہ اس کو گوندھو میں جلدی سے سالن کے قسم کی کوئی چیز خرید کر لاتا ہوں، میں باہر آیا تو ہمارا صوفی گوشت والا آ رہا تھا، اس نے کہا کہ قیمہ کا دو سیر گوشت ہے، میں اس کو لے کر اندر آیا، آٹا گوندھا جا چکا تھا اور تیل میں گھی و مسالا ڈالا جا چکا تھا، انہوں نے جلدی سے اس میں گوشت دھو کر ڈالا، یہ میری کرامت سمجھو یا حضرت مدنی کی میں اندر سے باہر آیا اور ان لوگوں کا ہاتھ دھلایا یہ حضرات ۱۲ نفر تھے، ۱۱ منٹ میں دسترخوان پر گرم گرم دوٹیاں و قیمہ آگیا اس میں کوئی مبالغہ نہیں، میں نے دسترخوان پر ان حضرات کو بٹھا دیا، حضرت علامہ ابراہیم صاحب نے فرمایا۔ "کیا آپ کو ہمارے آنے کی اطلاع تھی؟ یا آپ کو کشف ہو گیا تھا، میں نے کہا آپ کے اس گھر میں آنے کے بعد گوشت خرید لیا ہے، انہیں تعجب ہوا فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی" میں نے کہا کہ ساری باتیں معقولات سے تعلق نہیں رکھتی روٹی کھاؤ حضرت نے بھی فرمایا روٹی کھاؤ، پھر حضرت نے بھی فرمایا کہ میں مولانا محمد اشفاق صاحب (احلی) حضرت راپوری کے بھانجے دارالعلوم کے مہر شوریٰ کی تعزیت کے لئے راپور جا رہا ہوں، تمہارا ہاتھ صاحب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو یہ بھی ساتھ ہو گئے۔

ایک مرتبہ عمر کے بعد میری مجلس میں ۸، ۱۰ آدمی آئے، میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم روٹی سے آرہے ہیں، وہاں جلسہ ہے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں" میں نے ان سے کہا کہ ناظم صاحب کو لے جلاؤ میں تقریر کا آدمی نہیں، اور دیکھی میرے باپ نے تقریر کی، مگر جب انہوں نے بہت اصرار

کیا تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ سب چلے گئے، اس میں کا ایک آدمی رہ گیا، اس نے کہا کہ ہم طویل مدتی سے آرہے ہیں، جلسے میں حضرت مدنی تشریف لانے والے تھے، اگر حضرت کی طبیعت خراب ہے، ہم نے اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بشرطیکہ حضرت شیخ الحدیث جلیں تو اس آسکتا ہوں اس لئے یہ سب لوگ حاضر ہوئے تھے،

اس طرح کے کئی واقعات حضرت مدنی کے سنائے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، آپ بتی" ۱۷۔
فسرمایا، حضرت اقدس رائے پورہ کی کا بچی اخیر بیماری میں جس کا سلسلہ پانچ چھ سال تک جاری رہا پیام آیا کہ دیکھو جب تک میری صحت تھی میں ہر مہینہ آپ کی زیارت و ملاقات کے لئے آیا کرتا تھا، حضرت کا معمول تھا کہ ہر مہینہ میں تین دن کے لئے، یہاں تشریف لاتے تھے اب تمہاری زیارت تمہارے ہاتھ میں ہے میں نے اس کو خوب بنا ہا۔

مولوی یوسف صاحب اپنے ایک مفرج میں مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم جاؤ، اگر آتا ہوا تو میں حضرت کے ساتھ آ جاؤں گا، حضرت کی طبیعت اس زمانے میں زیادہ خراب تھی، بہت ہاؤس میں قیام تھا میں نے حضرت سے عرض کیا کہ دو تین دن کے لئے نظام الدین جانا چاہتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے، جب میں نے یہ دیکھا تو اپنا سفر طوسی کر لیا، حضرت کا قیام تین مہینے رہا میں روزانہ سبق پڑھا کر بہت ہاؤس جاتا تھا۔
فسرمایا: یہ دونوں حضرات بڑے تحمل و دلدارسی کے تھے۔

ارشاد فرمایا:۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پورہ کی پنجاب سے تشریف لا رہے تھے اور مہارنپور میں ایک تبلیغی اجتماع تھا، مولانا محمد یوسف صاحب کی اسلامیہ اسکول میں تقریر تھی جلسہ سے فارغ ہو کر دو بجے رات کو ہم لوگ حضرت کو لینے ٹیشن گئے، میں نے شاہ مسعود سے کہا کہ صبح کی نماز سے پہلے ہی اپنی موٹر یہاں لانا، تاکہ نماز کے بعد فوراً حضرت رنے پور تشریف لے جائیں کہیں حضرت روزانہ وقتاً نے سن لیا تو فرمایا کہ "میں نے تو دو تین دن قیام کا قصد کیا تھا" میں نے عرض کیا کہ بالکل تمہیں، صبح کی نماز سے پہلے چائے پی کر رخصت ہو جائیے، بھائی سلطان کو بہت تاؤ آیا، حافظ

عبدالعزیز صاحب نے بھی دہلی زبان سے ناگواری کا اظہار کیا، بہر حال حضرت رائے پور تشریف لے گئے تو وہاں کے حضرات سے فرمایا کہ دیکھو محبت کی باتیں ہیں، مجھے گرمی کی شدت سے ، مہارنپور ٹھیرنے نہیں دیا۔“



نویں مجلس

۹ رمضان المبارک

رمضان المبارک میں قِلتِ طعام سے ضعف نہیں پیدا ہوتا ارشاد فرمایا: کہ میرا تجربہ ہے کہ روزہ سے قوت آتی ہے اور غیر رمضان میں قوت سے ضعف پیدا ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا اور چند دن صحابہ کرامؓ نے بھی آپ کے ساتھ رکھا، مگر آپ نے صحابہ کرامؓ کو منع فرما دیا، اس کے ساتھ ہی پیش نظر رہے کہ بعض غزوات میں بھوک کی شدت کی وجہ سے صحابہ کرامؓ کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لطن مبارک پر دو پتھر باندھنے پڑے، بنظام دونوں روایتوں میں تعارض ہے میرے نزدیک ایک توجیہ یہ ہے کہ پہلا واقعہ رمضان کا ہے اور دوسرا غیر رمضان کا۔

امام بخاریؒ نے تین دن تک ایک ایک باہم پر گزر کیا، حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رامپوریؒ کے بارے میں سنا ہے کہ رمضان المبارک میں بے دودھ کی چائے کے چند فیجان کے سوا اور کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے لجاجت سے عرض کیا کہ حضرت صنعت بہت بڑھ جائے گا حضرت تو کچھ تناول نہیں فرماتے، حضرت نے فرمایا: الحمد للہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔

فرمایا: میرا تالیق ابوالحسن سلط ہے، کھانے پر اصرار کرتا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ تقلیل طعام حکیم کے مشورے کے بغیر کوئی نہ کرے۔

محبت کی تنقید بری نہیں معلوم ہوتی ارشاد منبر آیا۔ مجھے اپنے اوپر تنقید بری نہیں
 لگتی، بشرطیکہ اخلاص و محبت سے ہو میرے دوستوں میں قاری سعید صاحب (معنی اعظم مظاہر علوم)
 میرے غلط تھے، ان سے زیادہ طالب علمی میں میری لڑائی رہی ہے۔ مجھ سے ابتداء میں ان کے تعلقات
 کچھ اچھے نہیں تھے اس لئے کہ وہ بھی صاحب زمانے تھے اور قاری محمد حسین استاذ اہل کمال کے خاص
 شاگرد تھے، قاری صاحب حضرت گنگوہی کے مرید تھے اور ایسے تھے کہ وہ حضرت مدنیؒ کو بھی ٹوک دیا کرتے
 تھے، زمانے تھے کہ انگریزوں کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو خضاب کی ضرورت
 ہے؛ کیسکہ یہاں صاحبزادوں کی پٹائی خاص طور سے ہوتی تھی، قاری سعید مرحوم رحمہ اللہ میں مدرسہ
 کے نائب معنی مقرر کئے گئے، اس سے پہلے درس تھے اور قاری محمد حسین صاحب نے میرے حضرت انہوں
 کے انتقال کے بعد یہاں آنا بند کر دیا وہ رمضان المبارک میں عصر کے بعد کا قرآن سنتے تھے، ایک دن
 راستے میں قاری سعید صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ رمضان میں میرے چند پارے
 سن لیا کرو انہوں نے جواب دیا کہ بشرطیکہ ناظم صاحب اجازت دیں مجھے یہ جواب بہت پسند آیا، چنانچہ
 ناظم صاحب کی اجازت کے بعد عصر کے بعد وہ میرا تہسکآن سنتے تھے چند مہینے کے بعد اجڑاڑھ میں
 مدرسہ کا جلسہ تھا، ناظم صاحب (حضرت مولانا عبداللطیف صاحب) اور میں دونوں اس مدرسہ کے
 سرپرست تھے میں نے جلسہ میں شرکت سے انکار کر دیا، ناظم صاحب کو بھی بروقت کوئی عذر پیش
 آگیا، بالآخر ہم دونوں نے طے کیا کہ اپنی طرف سے قاری سعید صاحب کو ناشدہ بنا کر بھیجیں گے،
 اور یہ وہاں کے معاملات کو طے کریں گے، اگر کوئی اہم مسئلہ ہوگا تو ہم دونوں سے مشورہ کر لیں گے، ہم نے
 یہ طے کر دیا، مگر قاری سعید صاحب غدار کرتے رہے کہ میں وہیں کارہنہ والا ہوں، کسی اور کو بھیجا،
 مناسب ہوگا مگر ہم لوگوں نے انہیں کو بھیجا، اس زمانے میں میں اپنے آپ کو مدرسہ کے سرکام کا گویا
 واحد ذمہ دار سمجھتا تھا، البتہ اپنا اختیار کبھی نہیں سمجھا، جب کتب خانہ جاتا ہاں ایک کام کو دیکھتا
 کوئی بات معلوم ہوتی تو ناظم صاحب کے ذریعے حکم نامہ جاری کرانا، ناظم صاحب اس کو تحریر لکھ کر دیتے
 اور اس سے زمانے کے شیخ حفا ہو رہا تھا، تم جی نہ برا کرنا، میں جب کتب خانہ گیا تو وہاں رجسٹرار

میں قاری سعید صاحب کی تین دن کی رخصت لکھی ہوئی تھی، میں اوپر سے نیچے آیا اور قاری سعید صاحب سے مطالبہ کیا کہ تم نے رخصت کیوں لکھوائی؟ تم کو تو ہم لوگوں نے بیکار مدرسہ بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا وہاں وطن تھا، اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی خاص ربط نہیں تھا، مگر اب میری تم سے دوستی ہو گئی، دوپہر کا کھانا تم میرے ساتھ کھایا کرو، تیس سال سے زائد مدت تک وہ میرے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے مرض الوفا میں مجھے ایک پرچہ لکھا کہ تیس سال سے میں عید آپ کے ساتھ کرتا تھا، آج پہلی عید ہے، کہ میں حاضر نہ ہو سکا، میں اسی وقت اٹھ کر ان کے پاس گیا۔

حاصل یہ کہ مجھے ٹوک دیا کرو، مولانا منور صاحب ٹوک دیں تو مجھے بھلا معلوم ہوتا ہے۔

اسٹرائنگ سے نفرت

ارشاد فرمایا: طلباء، عظام سے براہ راست معافی مانگتا ہوں، میرے دل میں تیس، چالیس سال پہلے ان کی بڑی وقعت تھی، میرے دسترخوان پر اگر کوئی طالب علم ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، شروع میں جو بھی نیا طالب علم میرے یہاں آتا، اس کا کھانا داخلہ امتحان اور مدرسہ سے کھانا جاری ہونے تک میں اپنے حساب میں مدرسہ سے جاری کر دیتا تھا اور بعض طالب علموں سے کہہ بھی دیتا کہ تم میرے ساتھ کھانا کھایا کرو، اسٹرائنگ نے بند کر لیا۔ اس اسٹرائنگ سے دل میں نفرت ہے، ضرب (گودہ) کے متعلق حضرت خالد بن ولیدؓ نے حضورؐ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا وہ جسم ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ جالوز نہیں ہوتا، مجھے اس کے کھانے سے کراہیت ہوتی ہے (بخاری شریف) اگرچہ حنفیہ کے نزدیک بعد میں اس کی مانعیت بھی ہو گئی، لیکن جس وقت حرام نہیں تھا اس وقت بھی حضورؐ نے، طبعی کراہت کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا، محبت و نفرت بے اختیاری چیز ہے، اس ناکارہ کو اسٹرائنگوں سے نفرت ہے، اکابر میں سب سے پہلے ۱۹۱۵ء میں حضرت تھانویؒ و حضرت مدنیؒ کے دور میں آئی ان دونوں کو اس سے انتہائی نفرت تھی۔

دیوبند کی ایک اسٹرائنگ کے موقع پر میرا دیوبند جانا ہوا، مدرسہ کے قریب ایک صاحبزادے

جن کے والد کا تعلق مجھ سے اور حضرت راپوری سے تھا وہ اسٹرانگ میں شریک تھے بلکہ اسٹریٹنگی سورا تھے، مجھے اس کی بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ سورا بھی اس میں پیش پیش ہیں، میں جب باب الظاہ سے گزرا تو یہ بھی میرے ساتھ حضرت مدنی کے یہاں حاضر ہوئے، حضرت کا چہرہ ان کو دیکھ کر سرخ ہو گیا اور مجھ پر شدید عقاب فرمایا کہ یہ چناں و جنیں مدرسہ میں اسٹرانگ کراتا پھرتا ہے، اور آپ اس کو بعل میں لئے پھرتے ہیں، آپ نے اور مولانا عبدالقادر صاحب نے ان کا داغ خراب کر رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، حضرت مجھے مطلق اس کی خبر نہیں تھی اور اس سے اشارہ کیا کہ بھاگ جا، بعد میں حضرت نے اس کی تلافی میں میری بہت والداری کی، میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ پر حضرت کے ارشاد کا بالکل اثر نہیں ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میں نے عرض کیا اب تو ہو گئی سنا ہے کہ حضرت نے ان اسٹریٹنگوں کے لئے سخت بد دعائیں کیں، جن کو سن کر میں لرز گیا۔

نہ دیا:۔ حضرت شیخ المشائخ استاذ السکال شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے عسکری میں ایک مختصر رسالہ تصنیف فرمایا ہے، جس کا نام "نیما یجب حفظہ للناظر" تحریر فرمایا ہے یعنی حدیث کی کتابوں کے دیکھنے والے کے لئے اس کا مطالعہ واجب ہے یہ رسالہ "لامع" کے مقدمہ میں بھی طبع ہو چکا ہے، اس رسالہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے جملہ کتب حدیث کو پانچ قسموں پر منقسم فرمایا ہے، پہلا درجہ ان کتابوں کا ہے جن کو بے تکلف صحیح کہا جا سکتا ہے دوسرا درجہ ان کتابوں کا ہے جن کو صحیح تو نہیں کہا جاتا مگر قابل عمل کہا جاتا ہے، تیسرا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں ہر قسم کی احادیث صحیح وغیر صحیح پائی جاتی ہیں، چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے کہ ان کی احادیث کو بے تکلف ضعیف کہا جا سکتا ہے اور پانچواں موضوع احادیث کا۔ اس ناکارہ کا خیال یا تعامل ان جہان نام رسولؐ کے متعلق تقریباً یہی رہا اور ہے کہ ابتدائی زمانہ میں جب بھی کسی مدرسہ کا کوئی طالب علم میرے پاس آتا میں کتب حدیث کے پہلے طبقے میں شمار کرتا، اولم اب یہ حال ہے کہ جب کبھی کسی مدرسہ کا کوئی طالب علم آتا ہے تو پہلے وصلہ میں اس کو درجہ جہاد

یہ سمجھتا ہوں اور اگر ظہر حال سے صلاح و فلاح محسوس ہو تو درجہ سوم سے اوپر کرنے کی ہمت نہیں
پڑتی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حضرت اقدس کا رسالہ "اسٹراٹجیا"۔

ارشاد فرمایا:۔ طالب علمو! تم تو بہت اونچے تھے مگر تم نے اپنے آپ کو خود صنایع کیا، کبھی
ہماری صورتوں کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے اب ہماری صورتوں کو دیکھ کر نفرت کرنے لگے ہیں۔
جو بوسے گا وہی کاٹے گا، کانٹا بوسے گا تو کانٹا پیدا ہوگا، پھول بوسے گا تو پھول پیدا ہوگا میں اپنے
حضرت کو اسٹیشن لینے کبھی نہیں گیا، یہاں حرج کا ہوتا تھا، مگر حضرت مدنی نے اس کی تلافی کرادی،
تقسیم سے پہلے میری جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے البتہ تقسیم کے زمانے میں تو بڑی بڑی رقمیں لوگ
میرے پاس امانت رکھتے تھے جو اکثر میری جیب میں پڑی رہتی تھیں،

ایک مرتبہ حضرت مدنی کسی سفر سے آ رہے تھے میں ہیدل اسٹیشن گیا۔ خیال تھا کہ مولانا منظور
صاحب ضرور موجود ہوں گے پلیٹ فارم ٹکٹ مل جائے گا، مگر جیب میں وہاں ہونچا تو معلوم ہوا کہ سب
اندر داخل ہو چکے ہیں، میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ اگر دے سکو تو ادھار پلیٹ فارم کا ٹکٹ دے
دو، اس نے دے دیا میں اندر گیا، مولانا منظور احمد صاحب سے پیسے لے کر ادا کئے، مولانا نے اسٹیشن
ماسٹر سے کہا کہ "کہیں ادھار ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے؟" اس نے کہا کہ ہر ایک کو نہیں۔

جو اللہ کے سامنے جھک جائے اسکے سامنے فرمایا۔ میرے دوستو! ساری مخلوقات جھکت جاتی ہے،

تو ساری چیزیں تمہارے سامنے جھک جائیں گی، صحابہ کرام کے قصے معلوم ہیں، ایک مرتبہ افریقہ
کے جنگل میں مسلمانوں کو چھوڑنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درخت
اور موذی جانور بکثرت تھے، حضرت تقیہؓ نے لشکرِ حیدر محمدؓ کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا
ایھا العیاشرات والاسباع دعن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادخلوا

سائنانا ناطوت فمن وجبناہ بعد قتلناہ" اے زمین کے اندر رہنے والے جانورو،
اور درندو ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ،

اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے، یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی، جوان
 درندوں اور موذی جانوروں میں دوڑ گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیئے (اشاعہ بوستان
 میں ایک قصہ ہے کہ ایک بزرگ چیتے پر سوار تھے ایک شخص نے دیکھا تو ڈر گیا تو اس بزرگ نے کہلا
 تو از حکم داد گردن نہ پیچ کہ گردن نہ بیچد ز حکم تو، پیچ



دسویں مجلس

۱۰ رمضان المبارک

تثقید اگر خلاص پر مبنی ہو تو محمود ہے ارشادِ شریف: یہ میرا مکان جو کبھی صورتاً میرا تھا، اب صورتاً بھی میرا نہیں رہا، ابتداء میں والد صاحب نے پانچ روپے ماہانہ کرایہ سے لیا تھا اس مکان کو کوئی لینے کے لئے تیار نہ ہوتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں شہرت تھی، جو اس میں رہتا ہے مہربان ہے، چنانچہ پہلے سال میرے ایک بڑے بھائی کا انتقال ہوا اور دوسرے سال میرے والد صاحب کا اور تیسرے سال میری والدہ صاحبہ کا۔ مولوی ممتاز گیا دی ابتداء میں وہ مظاہر علوم میں فارسی پڑھتے آئے تھے میں ان سے بالکل ناواقف تھا اور انتہا میں وہ میرے محبوب دوست ہو گئے، دستور کے مطابق وہ میرے جہان ہوئے اور میرے مکان میں مقیم ہوئے مہینہ عشرہ کے بعد مدرسے سے اس نے اپنا کھانا قیمتاً جاری کر لیا، اس نے اخیر میں محمد سے ابو داؤد پڑھی ہے، اس کے اتنے طویل عرصہ تعلیم میں کسی استاد سے بھی اس کے تعلقات نہیں ہوئے، یہ تکبر کی بنا پر نہیں بلکہ مزاج ہی ایسا تھا، مظاہر علوم سے دورہ حدیث سے فراغت کے بعد تھکا بھون گیا اور سوال میں وہاں اس کو خلافت مل گئی، ممتاز گیا دی کا کھانا مدرسے کے بطخ سے آتا تھا اور میرے گھر والے اس دن کے بعد یہاں نہیں تھے اس لئے میرا کھانا بھی مدرسے سے قیمتاً آتا تھا، ممتاز اخیر تک میرے شریک دسترخوان رہے ایک عرصہ کے بعد انہوں نے جملہ شرکاء کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ آپ کا کھانا بھی مدرسے سے قیمتاً آتا ہے اور میرا بھی لیکن آپ کے پیالہ میں تار زیادہ ہے، میرے میں کم، محض اس وجہ سے کہ آپ

کی آواز اہل مطبخ پر اثر انداز ہوگی اور میری نہیں، میں نے دیکھا تو واقعی دونوں برتنوں میں فرق تھا میں نے سبزیز موصوف کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں نے اسی دن سے مطبخ سے اپنا کھانا بند کر دیا، آج تک جاری نہیں کرایا، اگر کسی کی تنقید قابل قبول ہو تو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ علماء و صوفیاء نے لکھا ہے تخرم ما یخرج من قلب السالک حب الجاہل، حب الجاہل بہت مشکل سے نکلتی ہے، ہم لوگ اپنی زبان اور اپنے قلم سے ناکارہ وسیعہ کار لکھتے ہیں مگر یہ ہم ہی گئی ہے اگر کسی مجمع میں کوئی اعتراض کر دے تو سن کر دماغ کھولنے لگتا ہے۔ حالانکہ اگر ماننے کی بنا ہے تو اس پر ناگواری کیسی، اس کو ضرور ماننا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما بعثت لانتہم مکارا لالخلق، میں مکرم اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں خصوصیت سے جو لوگ ذاکر و اجازت یافتہ ہیں ان کے اخلاق ایسے ہوں کہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنیں نہ کہ اکھڑنے کا اور مستغز ہونے کا۔

اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے استفسار پر حضرت گنگوہی نے جواب تحریر فرمایا تھا "ما روح دزام کو برابر سمجھتا ہوں۔" مجھے یہ جملہ بہت پیارا لگتا ہے، اگر کوئی ہماری مدح کرے تو اس پر پھول نہ چاہیے بلکہ اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے کہ الگ نے ستاری فرما رکھی ہے، مگر اب ہلکا یہ حال ہے، چوں مخلوت می روند آن کار دیگر می کنند " فرمایا، میں تم دوستوں سے اس حدیث رب مبلغ اوعیٰ من سامع کے پیش نظر درخواست کر رہا ہوں، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا، حکام کے حالات کا مطالعہ کرو حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ ایک کفرستان میں آکر بیٹھ گئے اور ایک دنیا کو مسلمان بنا گئے۔

ماہر چرخ خواندہ ایم نسر اللہ شمس کردہ ایم
الاحمدیث یار کہ تکرار می کنیم

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا "ہاں" پھر عرض کیا گیا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا "نہیں"۔
ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا، ہے کہ جب تک گفتگو میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، ہمیں لطف نہیں آتا۔

گیارہویں مجلس

۱۱ رمضان المبارک

سکوت کی مجلس آج حضرت اقدس مدنیہ فرم کی طبیعت ناساز تھی، سر میں شدید گرانی تھی، صرت نغمہ سے انظار فرمایا، خدام کا اصرار تھا کہ آج مجلس نہ ہو مگر مجلس ہوئی، مولانا جمیل احمد حیدرآبادی نے عرض کیا، جی چاہتا ہے کہ کسی دن خاموشی کی مجلس ہو، اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت مولانا شاہ رحمی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہیں چھپا ہوا نظر سے گزرا، جو میری مجلس میں چپ بیٹھ کر کوئی فائدہ نہ حاصل کرے، وہ میری مجلس میں نہ آئے۔

اللہ کے احسانات کا شکر فرمایا۔ میرے حضرت ہمارے پوری کار شاد ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاِنَّ نِعْمَةَ وَالْعِبَادَةِ اللّٰهِ لَآ تَحْصُوْنَهَا** اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرو، تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے، یہاں نعمت کو مدفوع استعمال کیا گیا، کیونکہ ایک نعمت میں بے شمار نعمتیں ہیں۔



بارہویں مجلس

۱۲ رمضان المبارک

آج کل مجلس میں ترک کے جماعت دوبارہ آگئی تھی اور بیرون ممالک کے بھی کچھ حضرات تھے اس لئے ایک صاحب ترک میں اور ایک دوسرے صاحب انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے، فرمایا: ”زبان یارمن ترک دمن ترک نمے دائم“ تبلیغ دالورت کس بدولت ترک زبانت کی بھی ضرورت پڑگئی۔

دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہو ارشاد فرمایا:۔ میں ایک اہم و ضروری بات اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ سے کرو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے دوستوں سے بار بار کہتا رہتا ہوں، میں نے اپنے بڑوں سے ایک اصول سنا ہے جو چچا جان کے ملفوظات میں بھی موجود ہے، اور مولوی یوسف صاحب کی تقریروں میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے درحقیقت یہ حدیث پاک سے مستنبط ہے، آدمی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے شریعت، عرف و عقل و قرابت کے اعتبار سے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔

”بیدی را بدی سہیل باشد جزا“ اگر مردی احسن الی من اسار
 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَوْ كُنْتُمْ صَابِرِينَ وَصَفْرَانِ خَالِكِينَ عَنِ عَمَلِ الْأُمُورِ“ اور

جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بیشک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، حدیث میں آیا ہے ”رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے اور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو اور جو بڑائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو“ ایک حدیث میں ہے لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا“ (مشکوٰۃ) رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے کے طور پر رشتہ جوڑتا ہے بلکہ وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو اس کو جوڑے۔

ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے جو بات دو فقروں میں فرمادی ہے، اس پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں چین حاصل ہوگا، اگر کوئی شخص حجم کو گالیاں دے رہا ہے، تمہاری نعمتیں کر رہا ہے، وہ تمہیں اپنی نیکیاں دے رہا ہے، اگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں تو تمہارے گناہ اپنے سر لے رہا ہے، حدیث میں بھی یہ مہنون آیا ہے، کہ جو شخص کسی کو گالیاں دے اور مارے اس کا قصاص ضرور لیا جائے گا جتنی کہ بے سنگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا، بھائی ہوتا تو مجھ سے بھی نہیں، مگر اصول بڑا اچھا ہے۔ تمہارے ذمہ جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو جہاں سے تمہیں بہت زیادہ ملے گا، تمہارے ذمہ اگر کسی کا ایک دانق ہوگا تو اس کے عوض میں سات سو مقبول فرض نمازیں آخرت میں کاٹ لی جائیں گی (رشتاقی) ہمارے پاس کہاں مقبول نمازیں ہیں، آج کل کثرت سے خطوط آتے ہیں، مہتمم حضرات مدرسین کی اور مدرسین ان کی شکایت کرتے رہتے ہیں اگر یہ اصول سامنے ہو تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ کسی مہتمم کو نہ چاہیے کہ کسی کو بلا تنخواہ ملازم رکھے اور مدرسین سے کہا کہ تاپہوں کہ تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کرنا چاہیے تمہیں جو تنخواہیں ملتی ہیں۔ وہ تمہاری قیمت سے بہت کم ہیں، مگر تمہیں جو کچھ مل رہا ہے، اللہ کا احسان سمجھو۔

ارشاد فرمایا: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
صرف چار احادیث انسان کے دین کے لئے کافی ہیں
انے پانچ لاکھ احادیث میں سے صرف پانچ کا انتخا
فرمایا ہے، اس کے بعد امام ابو داؤد نے پانچ لاکھ احادیث کے مجموعہ میں سے صرف چار ہزار آٹھ سو کا

انتخاب اپنی کتاب میں کیا ہے اور ان میں سے صرف چار کا انتخاب فرمایا کہ انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کیلئے کافی ہیں، چار تو وہی ہیں جن کو امام اعظمؒ نے منتخب کیا ہے اور ایک کو نہیں لیا کیونکہ اس کا ممنون ان میں آگیا ہے، امام صاحبؒ کی وفات ۳۵۸ھ میں ہوئی ہے اور امام ابو داؤدؒ کی ولادت ۲۴۰ھ میں ہوئی گویا امام صاحبؒ سے ۵۲ سال بعد میں پیدا ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو داؤدؒ نے امام صاحبؒ سے اس قول کو لیا ہے، امام ابو داؤدؒ فرماتے ہیں کہ ان چار حدیثوں میں سارا دین آگیا ہے، اگرچہ بعض علماء نے "الصحیح لکل مسلم" والی حدیث کو سب کا جامع بتایا ہے وہ چار حدیثیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) اِنَّكَ اَكْمَلُ النَّبِيَّاتِ الصَّحِيحِ (تمام اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار صرف نبیوں

پر ہے) اس کے سلسلے میں رئیس الاحرارؒ کا قصہ تفصیل سے سنایا جو پہلے نقل کیا جا چکا ہے۔ اس کے ضمن میں ارشاد فرمایا۔ میں نے بزرگوں کی پانچ بیڑھیاں دیکھی ہیں۔ پہلا دور حضرت گنگوہیؒ کا، دوسرا دور حضرت کے خلفاء اجل حضرت سہارنپوریؒ اور حضرت شیخ الہندؒ، اعلیٰ حضرت راجپوریؒ کا اور تیسرا دور حضرت مدنیؒ و حضرت راجپوریؒ اور چچا جان کا اور چوتھا دور مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور پانچواں اب مولوی انعام الحسن صاحب کا اور دیکھ رہا ہوں، بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضائع نہیں جاتا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاصرت کی وجہ سے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں زیادہ ضائع ہو گئے، مولوی یوسفؒ کے دور میں بعض لوگ کہا کرتے تھے، جو بات ان کے والد میں تھی وہ ان میں نہیں، میں کہا کرتا تھا، جو بات میرے حضرت میں تھی وہ چچا جان میں نہیں، یہی بات میں مولوی اسعد میاں اور مولانا قاری طیب صاحب اور مولوی انعام کے بارے میں کہا کرتا ہوں جو بات ما کاہر میں تھی، وہ اصاعر نہیں کہاں؟ جب یہ چلے جائیں تو کفب انوس لٹنا پڑے گا، بعد میں یہ بھی نہیں ملیں گے۔

سنا لیا۔ جو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر دے، اگر کوئی نماز دکھانے کے لئے پڑھے گا تو لوگ

بزرگ سمجھیں، تو یہی نماز منہ پر رادھی جائے گی۔

بنزین چوں سجدہ کردم زین نذر بکند
تو مرا خراب کردی سجدہ ریائی

اگر یہی سجدہ اللہ کی رضا کے لئے ہو تو بہتر بن عبادت ہے، صاحب نظامِ حق نے،
انصافاً لاصحاب السنخ کی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے تحریر فرمایا: "اگر کوئی مسجد میں جا کر دو رکعت
نماز پڑھے اسی کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرے، اہل اللہ کی زیارت کی نیت کر لے وغیرہ وغیرہ،
تو اس کے ثواب میں نیت کے لحاظ سے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا"

(۲) "لا یكون المؤمن مؤمناً حتى یرضی لاصحیہ ما یرضی لنفسک"۔

(مومن حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی بات پسند نہ کرے، جس کو اپنے لئے
پسند کرتا ہے) اگر اس حدیث پر آدمی عامل بن جائے تو سارے باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں، خود تو
چاہے سوا سیر اور دوسرے کے لئے سیر، تو پھر جھگڑے کیسے ختم ہوں، اس حدیث میں حقوق العباد آگئے
جو نکرہ "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و دینہ" (جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے
مسلمان محفوظ ہوں) اس حدیث کا معنوں اور پر والی حدیث میں آگیا ہے، اس کو امام اعظم نے
مستقل شمار کیا ہے، امام ابو داؤد نے ترک کر دیا۔

(۳) "من حسن اسلام المرأۃ ترکہ ما لا یعنید" (انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے

کہ وہ لایعنی بالقول کو چھوڑ دے)

لا یعنی میں مشغول ہونے سے نہ دین کا نفع ہے نہ دنیا کا، ایک صاحب کا میرے پاس
خط آیا، انہوں نے اپنے بعض معاصرین کے بارے میں بے جا استفسار کیا تھا، میں نے ان کو
جواب دیا کہ ان سوالات کا قبر میں جواب دینا ہے؟ منکر و نکیر سوال کریں گے؟ اس دھندے
میں خواہ مخواہ کیوں پھنس گئے ہو؟ تمہیں جس سے عقیدت ہو معیت ہو جاؤ۔

اپنے بچپن میں ایک انگریز کا قصہ تھا تھا، جس کو علامہ شبلی نے کہیں اپنے سفر نامہ میں لکھا
ہے کہ وہ جہاز پر سوار تھے، جہاز ڈوبنے لگا، وہ انگریز کتاب کے مطالعہ میں مشغول رہا، لوگ
شور کر رہے تھے، میں ہوتا تو اس وقت کلمہ وغیرہ کی تلقین کرتا، دیکھو بھائی! یہاں تفریح کی جگہ نہیں

ہے بلکہ جس نیت سے آئے ہو مشغول رہ کر وصول کرو۔

سنا لیا:۔ اخبار در طیو پڑھ لو اور سن لو، مگر یاد رکھو تہ میں منکر و نکیر سوال کریں گے

”مادینک“؟ تمہارا دین کیا تھا۔؟

صوفیاء کے یہاں ”پاس النفا“ کی مشق اسی لئے کرائی جاتی ہے کہ اگر آدمی کچھ نہ کر سکے تو

کم از کم ہر سانس میں اللہ کا ذکر تو کر لے۔

تیرا ہر سانس نخل موسوی ہے یہ جزر و مد حواہر کی لڑی ہے

(۴) ”الحلال بیتن والحر ام بیتن النخ“ (حلال و حرام واضح ہیں مگر ان کے درمیان بعض

مشتبہ و مشکوک چیزیں ہیں، جو ان سے بچے گا، وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا) اس کا نام تقویٰ ہے جس چیز میں کھٹک ہو، بعض علماء جائز کہتے ہوں اور بعض ناجائز ان کو چھوڑ دینا چاہیے

کیوں جھگڑے میں پڑے، ایک اور حدیث میں آیا ہے:۔ ”دع ما یریبک الی ما لا یریبک“۔ جو

چیز تم کو شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اور اس کو اختیار کرو جس میں شبہ نہ ہو، ”الحلال بیتن

والحر ام بیتن النخ“ زالی روایت میں یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے:۔ ”دکھل ملک حسی“ ہر

بادشاہ کے لئے بیڑ (مخصوص چراگاہ) ہوتی ہے۔ وہ جگہ ممنوع ہوتی ہے، حدیث کا مضمون بعد میں،

بیان کروں گا، اس سے پہلے ایک قصہ سن لو۔



تیرھویں مجلس

۱۳ رمضان المبارک

میری عمر بارہ برس کی ہوگی، ہمارے حضرت قطب گنگوہیؒ کے نواسے چچا زکریا کا پنجاب میں نکاح تھا، چچا یعقوب نے اصرار سے مجھ کو بھی ساتھ لیا، چنانچہ سرسند کے قریب "کھنہ" بارات گئی یہ میرا سرہند کا پہلا سفر تھا، گھوڑے وغیرہ پر سوار کر کے ہم لوگوں کو روانہ کیا گیا اور حضرات پیدل تھے، چچا یعقوب تمناہ دار تھے، اتفاقاً ایک جگہ کچھ سپاہی لے، آپس میں چچا یعقوب کی ان سے بٹ بٹ (یعنی انگریزی) گفتگو ہوئی، میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہاں کیا مصیبت آگئی، میں نے دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے تمناہ دار کے حدود شروع ہوتے ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ تمناہ دار، کہا کہ چلے جاؤ، اگر معقول جواب نہ دیتا تو گرفتار ہو جاتے۔

اسی طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی بیٹھ حرام کردہ چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیئے، اسی کو زبردگی کہیں اسی کو تقویٰ کہیں اور اسی کا نام تصوف ہے، ہر موقع پر احتیاط پیش نظر رہے۔

یہ سارے جامدے اور ریاضتیں اسی لئے ہیں کہ تقویٰ پر عمل آسان ہو جائے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کا ارشاد گراچی ہے کہ ان چار حدیثوں کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مشہورات و قواعد کلیہ جاننے کے بعد جزئیات دین کو معلوم کرنے کے لئے کسی مہتد کی ضرورت باقی نہیں رہتی، چونکہ حدیث اول عبادات کی درستگی کے لئے کافی ہے اور حدیث ثانی سے حقوق کی معرفت

حاصل ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں و متعارفین اور اہل معاملہ کے ساتھ کس طرح ، پیش آنا چاہیے اور تیسری حدیث سے عمر عزیز کے اوقات کی محافظت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور چوتھی حدیث ایسے مسائل ہیں جن میں علما کو ٹسک و تردد ہے ایک واضح راستہ پیش کرتی ہے غرض کہ یہ چاروں حدیثیں ایک عاقل آدمی کے لئے استاد و شیخ کا درجہ رکھتی ہیں۔ (ریاست ص ۱۹)

حضرت اقدس مدفونہ نے حضرت شاہ نور اللہ مدظلہ کے کلام کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مدظلہ الدلائل میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایصالِ ثواب کا خیال آیا ، (مہم لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے) حضرت شاہ صاحب نے دو پیسے کے چنے خیرات کئے اور ایصالِ ثواب کیا ، رات میں خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ اپنے دست مبارک میں ان چنوں کو لے کر حرکت دے رہے ہیں ، غور کرو کہ دو پیسے کے چنے کی کیا حیثیت ، گروہ آپ کے یہاں اخلاص کی وجہ سے مقبول ہو گئے ، تم علماء کرام ہو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے آدمی جہنم میں داخل کئے جائیں گے ان میں ایک ریاکار عالم ہوگا ، غور کرو اگر تم سے یہ مطالبہ ہو کہ تم نے تم کو سہولتیں دیں مدرسہ کی ، کتابیں دیں ، تو کیا جواب ہوگا ؟ اگر اس کے جواب میں کہا جائے کہ ہم نے دین کے سارے مواقع پر علم دین کو خرچ کیا ، لیکن خدا نخواستہ اس کے جواب میں اگر یہ کہا گیا کہ تم نے اس لئے خرچ کیا کہ تم کو بڑا عالم ، شیخ التفسیر ، شیخ الحدیث وغیرہ کہا جائے تو وہ کہا جا چکا ، پھر سوچو کہ پھر کیا حشر ہوگا ، اسی طرح مالدار سخی اور شجاع کا حال بیان کیا گیا ہے ، سخاوت اور جہاد کے باوجود اخلاص نہ ہونے سے جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے۔

غور کرو ، اخلاص سے دو پیسے خرچ کرنے کی یہ قدر کہ حضور کے یہاں مقبول اور یہاں سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود کوئی قیمت نہیں۔

اس کے بعد حضرت نے نہایت درد سے فرمایا ۔ میرے پیارو ! تم دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہو ، مدرسہ کا حق ادا کرتے رہو ، اگر تم تم پر زیادتی کرتا ہے ، تمہاری تخمیں کا کتاب ہے تو

یہ سب تمہارے آخرت کے بنک میں جمع ہوتا رہے گا "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ" کا قانون ہے، تمہارا اہتمام یا طالب علم یا کسی سے کوئی معاملہ ہو ان سب کے ساتھ تمہاری یہی کوشش ہونی، چاہئے کہ کسی کا کوئی حق تم پر باقی نہ رہے۔

تیسری حدیث میں حضرت شاہؒ فرماتے ہیں کہ تحفظ اوقات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جتنا لوگوں کی اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اور کوئی نہیں، اب تو دوسرے سے پڑھنے کا تعلق میرا ختم ہو گیا، جس زمانے میں میں پڑھا تا تھا، یہ ڈیڑھ دم دلے (یعنی باجے والے) طرک سے گزرتے تھے، میں شام کو گزرتے ہوئے دکا مذاہل سے تحقیقات کرتا کہ یہ کیا تھا، وہ کہتے کہ "ہمیں تحقیقات کرنے کی فرصت نہیں تھی" مگر طلبہ کا فرقہ جہاں کہیں اس کو سنتا ہے جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں اوقات کی قدر نہیں بھائی، ہمارے اوقات بڑے قیمتی ہیں، بھائی دس منٹ میں جتنا ہم تسکین و حدیث سیکھ سکتے ہیں اس کے برابر کسی چیز کی قیمت نہیں، مگر انہیں کہہ میں قدر نہیں۔

اضافہ از مرتبہ

خدا تجھے کسی طرف ان سے آشنا کرے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

جو تھی حدیث میں تقویٰ کا اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔



چودھویں مجلس

۱۲ رمضان المبارک

اللہ ورسول کے ارشادات میں سنا دیا۔ میرے پیارو! ہم لوگ ہر وقت دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے روس کیا کہتے ہیں؟ اور ناصر کیا کہتا ہے؟ حالانکہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ ورسول کیا فرماتے ہیں، میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ پڑھا تھا کہ غسل جنابت تعبدی ہے، یعنی غسل میں تو آتا نہیں، شریعت کا حکم ہے اس نے غسل فرض ہے، کیونکہ منی کے نکلنے سے صرف موضع منی کو دھونا چاہیے، اس کے بعد میں نے اس کی مزید تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ امریکہ و برطانیہ کے ایک ایسی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس وقت منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے تو بدن کے ہر بال اور ہر سن میں ایک طرح کی سمیت پیدا ہو جاتی ہے اگر رگڑ رگڑ کر نہ دھویا جائے تو بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اس سے ایک مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے، غسل جنابت میں، الکی کے نزدیک دلک (رگڑنا) فرض ہے۔ اور یقیناً ائمہ کے نزدیک مسنون، اس کی حقیقت بھی سمجھیں آگئی، مسئلہ ۱۳۸۸ھ سے ۱۳۸۸ھ تک میرے ذمے درود حدیث کے اسباق سب ہیں میں اپنے اسباق میں برابر یہ کہتا رہا ہوں "حدیث" اذا تعد بین شعبہ الاربیع النخ" مسئلہ تو بتایا گیا شریعت کا، مگر تریبان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے صحبت کا بہترین طریقہ بتایا ہے، صحبت کے اہتمام نے بیوں طریقے لکھے ہیں مگر اس کو صحبت و صحبت دونوں کے اعتبار سے سب سے بہتر طریقہ تسلیم کر دیا۔

نہ فرمایا۔ ایک اور مسئلہ کے ذیل میں حضورؐ کا بہترین طریقہ سنو! خاص طور سے لندن والوں کے سننے کا ہے، انگریزوں کے مردوں اور عورتوں میں پائیریا کا مرض بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے تحقیقات کر کے فیصلہ کیا کہ مردوں کی داڑھی اور عورتوں کے سر کے بال رطوبت کو چوستے ہیں، چونکہ انگریزوں کے یہاں یہ نہیں ہے اس لئے یہ مرض وہاں بہت پیدا ہوتا ہے۔

ابتدائی زمانہ میں میں ہر طرح کی چیزوں کو پڑھتا تھا اس طرح کی چیزیں تیس سال پہلے پڑھی تھیں اور اپنے رجسٹر میں درج کر لیا تھا (مولانا) علی میاں کو بھی اس پر حیرت ہے ایک سال تک ہیلر معمول تھا کہ رات میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ مشکل سے سویا ہوں میں نے جب مولانا اعجاز علی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں کنز الدقائق کا حاشیہ لکھ رہا تھا تو دوسرا تک رات میں نہیں سویا۔

میں دار جاناں بجائے کسی کہ بے سعی ہرگز نہ جائے وہی

حدیث شوق صدر کا ذکر آیا ہے مثلاً حضورؐ کے سینہ مبارک کو معراج سے پہلے چاک کر کے قلب اطہر کو نکال لیا اور زخم سے دھویا گیا اس لئے کہا گیا ہے کہ زخم کا پانی آب کوثر سے افضل ہے اور اس کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا اس پر اعتراضات کئے گئے ہیں، سرسید نے بھی اعتراض کیا کہ ایمان و حکمت ایک مخلوقی چیز ہے اس کو کس طرح بھرا گیا اور بعض بدتمیزوں کی تحریروں و زبانوں سے یہ اعتراضات ہم نے پڑھے اور سنے ہیں مگر اسی زمانے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بحیل کے ذریعے ایک آدمی میں ۵۰، ۶۰ بلکہ ۸۰ گھوڑوں کی قوت بھری جا سکتی ہے پھر اس حدیث کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ علامات قیامت میں ہے کہ ایک آواز ایسی آئے گی کہ مشرق و مغرب کے سارے باشندے سنیں گے، آج لاسکی نے اس کو سمجھا دیا اسی طرح آیا ہے کہ عشر کی آواز سب سنیں گے ٹیلی ویژن نے اس کو سمجھنا آسان بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت مسواک کی ہے، ابو داؤد و نسائی میں اس روایت کے سلسلے میں "اع، اع، اع، اح" کے الفاظ وارد ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک پر بھی مسواک کرتے تھے، جس کو راوی نے اس طرح بیان کیا ہے، درحقیقت یہ آواز کی

تعمیر ہے، کھانسی کے لئے مسواک کو ذرا اندر کی طرف پھیرے تو یہ اس کا بہترین علاج ہے میرا بیسوں مرتبہ کا تجربہ ہے کہ جتنی اندر مسواک ڈالی جائے گی، جمع شدہ بلغم خارج ہو جائے گا اور کھانسی ختم ہو جائے گی ڈاکٹر حکیم جو بھی کہیں میری کھانسی کسی مرتبہ اس طرح کرنے سے ختم ہوئی ہے۔

ارشاد فرمایا:۔ میرے پیارے! سنت میں جو فوائد ہیں وہ کسی چیز میں نہیں، تجربہ کر لو اگر معاند کے ساتھ نہیں، میرے محلہ کے ایک صاحب نے جو میرے والد صاحب اور میرے چچا جان کے دوست تھے، اور میرے بھی دوست تھے انہوں نے اپنی عسزینہ کے لئے جو بیار تھیں چچا جان کو خط لکھ کر تمویذ منگوا لیا جو بالی خط بھیجا تھا۔ چچا جان نے پتہ کاٹ کر میرے پتے پر جواب تحریر فرمایا اور اس میں ایک دعا لکھ دی کہ صبح و شام پڑھ دیا کرو اور اگر اس دعا سے نرا چھی ہو تو اس کا مرنا ہی اچھا ہے جس کو اعتقاد نہ ہو اس کے لئے یہی حکم ہے خواہ ہماری عقول میں یہ باتیں آئیں نہ آئیں مگر حقیقت یہی ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ مفتی صاحب اس کا نقل کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب خاموش رہے فرمایا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے وہاں ایک عورت اپنے مادر زاد ناینا لڑکے کو دعا کے لئے لائی اور بہت عاجزی سے درخواست کی کہ حضرت اس پر ہاتھ پھیر دیں کہ اچھا ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس عورت نے عرض کیا مجھے تو کچھ معلوم نہیں آپ ہاتھ پھیر دیں، مگر مولانا وہاں سے اٹھ کر چل دیئے، راستہ میں عتاب (بذریعہ الہام) ہو گیا، کہ تم کون اور عیسیٰ کون؟ کرنے والے ہم ہیں۔ چنانچہ مولانا واپس ہوئے اور ماجی کلیم مانی کلیم کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ اچھا ہو گیا درحقیقت نفع پہنچانے والا حق تعالیٰ ہے، عامی لوگ اسے کیا سمجھیں۔

بیعت کی حقیقت آج بھی روزانہ کے معمول کے مطابق بہت سے لوگ بیعت ہوئے اس سے فراغت کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا۔ بیعت ہونا ایسا ہی ہے، جیسے کسی مدرسہ میں کوئی طالب علم داخلہ فارم داخل کرے اگر وہ داخلہ فارم داخل کر کے محنت نہ کرے تو وہ علم سے کوہرا رہے گا، اسی طرح اجازت گویا مدرسہ کی سند فراغ ہے، یعنی طالب میں ایک خاص استعداد

پیدا ہو گئی، جس طرح مدرسہ کی سزاں بات کی ضمانت ہے کہ تم میں پڑھانے کی استعداد پیدا ہو گئی ہے لیکن اگر کوئی سزا لے کر کھیتی باڑی شروع کر دے تو ضائع ہو جائے گا۔

اجازت کی ذمہ داری اجازت بڑھانے کے لئے ہوتی ہے، جو لوگ اس کے بعد


سمجھ گئے کہ میں کچھ ہو گیا وہ کھو گئے اور کھڑ میں گر گئے، اگر کچھ کر لے تو یہ ترقیات کا ذریعہ ہے اگر کہیں کہ اللہ کی طرف سے اس بات کی شہادت ہے کہ تم میں اہلیت ہے، بشرطیکہ کچھ کر لو تو بے جا نہ ہوگا، جن لوگوں کو اجازت کا شوق پیدا ہو جائے وہ ناکام ہوتے ہیں، میں نے اپنے معاصرین اور بڑوں میں اس کے خوب تجربے کئے ہیں اگر کسی کے بارے میں مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ اس کا طالب ہے، تو مجھے گرائی ہوتی ہے، "من طلب منکم الامارت" سے یہ ممنون مشتبہ ہے اپنی نااہلیت دکھانے کی کا استحصار ضروری ہے اجازت کے بعد جس کے قلب میں ایک بھلی سی کوند جائے اور کپکپی پیدا ہو جائے، وہ کامیاب، ورنہ ناکام رہے گا، جب مجھے میرے حضرت نے اجازت دی تو میرے اعضاء پر کئی دن تک اثر ہا، انفعالی والی روایت میں ہے "غشیت الخ" اس کی بارہ توجیہات کی گئی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ نبوت کے بارگراں سے حضور پر ایسا اثر ہوا کہ موت کا اندیشہ معلوم ہونے لگا، میں نے اپنے اکابر اور حضرت مدنی سے سنا ہے جس کو اجازت کے بعد کرنٹ کا سا اثر پیدا ہوا اس کو زیادہ نفع ہوا، اجازت بہت سی مصالح کی بنا پر دی جاتی ہے میں حضرت گنگوہیؒ اور اکابر کے لوگوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جن کو اجازت نہیں دی گئی حالانکہ ان کے حالات بہت سے اجازت یافتہ لوگوں سے اچھے تھے، حضرت تھانویؒ نے ایک مرتب اپنے مجازین کو اندر بلایا، اور کچھ لوگوں کو باہر بٹھایا اور سنا یا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم اونچے ہو اور دوسرے زودتر یا گھنڈ نہ ہو، مجھے جب میرے حضرت نے اجازت دی تھی تو میری تمنا تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو اس کے لئے میں نے حضرت راہپوریؒ کے پاؤں تک پکڑ لئے۔

رمضان میں حضرت مدنیؒ سے مکاتبت سنا یا:۔ رمضان میں میرا اور

حضرت مدنیؒ کا یہ معمول تھا کہ ہر ایک دوسرے کو پہلے خط لکھا کرتا تھا، اکثر میں ہی لکھتا تھا، عموماً

کوئی ضرر ہوتا تھا، ایک مرتبہ میں نے خط لکھا، اس میں یہ شہر تھا ہے
 گل پھینکے ہیں ادروں کی طرف بلکہ شہر بھی اے خانہ برانداز چین کچھ ادھر بھی
 اکابر کے خطوط میرے پاس محفوظ ہیں۔

چند تصویر تباں، چند حسینوں کے خطوط
 بعد مرنے کے مرے گھر سے یہ سامان نکلا



پندرہویں مجلس

۱۵ رمضان المبارک

دوستی و دشمنی میں
راہِ اعتدال

ارشاد فرمایا: حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کو برائیوں کے ساتھ
ذکر نہ کرو بلکہ ان کی بھلائوں کا تذکرہ کرو، ہم لوگ اس قدر افراط و
تفریط میں مبتلا ہیں، تعریف میں تو کسی کو آسمان پر چڑھادیتے ہیں اور کسی کو تختِ شریٰ میں پہنچا دیتے ہیں، اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنَاةٌ تُوْمِرُ عَلَىٰ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوٰی"
کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ آمادہ کرے کہ تم اس کے ساتھ نہ انصاف کرو، انصاف اختیار کرو، یہ تقویٰ سے
زیادہ قریب ہے۔

لطیفہ: فرمایا، گجراتی کسی کو پہچانتے نہیں، جب ہم ہی کو نہیں پہچانتے تو ادوس کو کیا پہچانیں گے۔
تعمیر حیات کا مضمون کہ سنوئے حضرت مولانا علی میاں صاحب مظہر نے تعمیر حیات ۲۵ اکتوبر ۱۹۴۰ء
کو حضرت اقدس کی خدمت میں بھجوا دیا تھا، جس میں "جمال عبدالناصر" کے بارے میں مہری اخبارات کے تاثرات کا
ترجمہ کیا گیا تھا، آج کی مجلس میں وہ پڑھ کر سنایا گیا، ایک عنوان تھا، "مرگِ غیرت تیری دہائی" دوسرا عنوان
تھا، "نئے خالق نے نبی، نیا کلمہ تیسرا عنوان تھا، "عبدالناصری کا آخری کا نامہ" اس کو سن کر پورا مجمع استغفار
پڑھ رہا تھا اور حضرت پر بھی شدید تاثر تھا۔

ارشاد فرمایا: حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ
کہا جائے گا، میرے دوستو! دین پر مضبوطی سے قائم رہو اور اکابر کے طریقہ زندگی پر چلنے کا عہد کرو۔

سو پھوس مجلس

۱۶ رمضان المبارک

مجاہدہ ارشاد فرمایا:۔ پورے مہینے کا ایک ایک عشرہ کی نیت سے اعتکاف مستحب ہے اور ایذا مسلم حرام ہے تم لوگ مجاہدہ کے لئے آئے ہو، جب بلاؤ کی رکامیاں چلے ہیں تو مجاہدہ کا کیا ہوگا مجاہدہ تو راپٹور کی دال میں تھا، بہت کھانا کوئی اچھی چیز نہیں، اگرچہ کم کھانے کو میں بھی نہیں کہتا، کچھ کر لو، اگلا رمضان آوے گا یا نہیں میں تو چلا ہی جاؤں گا، اگر کچھ کر لو گے تو تمہیں ہی کام آوے گا۔

میرے والد صاحب رمضان میں ننگوہ میں اذان دیا کرتے اگر کھجور وغیرہ موجود ہوتی تو اسی سے انظار کرتے ورنہ گھاس کا پتہ چبا کر طویل اذان دیتے کہ اتنے میں حضرت اقدس فارغ ہو جائیں۔

جہانوں کا اکرام آج ایک نابینا مہمان آئے تھے حضرت نے ان سے فرمایا تھوڑی دیر تشریف رکھئے پھر ملاقات کروں گا گروہ چلے گئے اس پر حضرت کو بہت تعلق ہو رہا تھا، چاروں طرف تلاش کر لیا، اگر وہ نہیں مل سکے۔

فرمایا:۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے جہانوں کا اور زیادہ اکرام کروں، حدیث میں آیا ہے "من سکت یتومن باللہ وبالیوم الآخر فلیکرمہ صنیفہ" جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

اپنا شام کا کھانا ارشاد فرمایا:۔ میرا چالیس پچاس سال سے شام کا کھانا چھوٹ گیا ہے یہ میں نے مطالعہ کتب بینی میں حرج کی وجہ سے چھوڑا تھا اور

چھوٹنے کا قصہ

ابتداء میں بھوک بھی لگتی تھی، ایک سال تک میری بہن مولوی سلمان کی نانی میرے پاس دوران مطالعہ میں بیٹھتی تھیں، اور ایک ایک لقمہ میرے منہ میں ڈالتی رہتی تھیں اپنے اکابر حضرت رائے پورہی، حضرت حق اور چچا جان کی آمد پر خوب کھا لیتا تھا، گرانی نہیں ہوتی تھی مگر ۱۲۰۱ سال سے شام کا کھانا بالکل چھوٹ گیا ہے، اگر کبھی شام کو کسی کی آمد پر کچھ کھا لیا تو گرانی محسوس ہوتی تھی ادھر ۴، ۵ سال سے بالکل ہی چھوٹ گیا ہے۔

کانپور سے ایک مٹری صاحب یہاں آئے وہ میرا معمول دیکھ کر واپس گئے ان کا خط آیا کہ میں نے جناب کو دیکھ کر شام کا کھانا چھوڑ دیا ہے، رات کو تہجد میں طبیعت خوب لگتی ہے۔ میں نے ان کو ڈانٹ کر خط لکھا ایسا ہرگز ہرگز نہ کرو، ابھی میرا خط ان کو نہیں ملا ہو گا کہ مجھے ان کا دوسرا خط ملا، کلاب کمزوری و ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ بھائی ہر چیز میں میری حرص نہ کرو اگر کچھ کرنا ہو تو مجھ سے پوچھ کر کیا کرو۔

رمضان کا اویار فرمایا۔ میں اپنے دوستوں سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ رمضان میں اویار بھی ہوتا ہے، بزرگوں نے اس سے احتیاط کیا کہ حرم میں ایک نیکی کا ثواب ایک ناکہ ہے، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی ہو گا، اسی طرح رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب تتر گناہ ہے اسی طرح گناہ کا عذاب بھی ہو گا۔

کاندھلہ کے افطار فرمایا۔ کاندھلہ میں پہلے رمضان المبارک میں ایک بڑا دیگ پکا کرتا تھا اس دیگ سے کھانا نکال کر رکھ دیا جاتا اور سب

سحری کا طریقہ لوگ کھا لیتے اور جو آتا کھانے میں شریک ہو جاتا، اس کے بعد عشاء تک لوگ نفلوں میں مشغول رہتے مگر اب طریقہ بدل گیا ہے ہمارے یہاں ایک گھر میں پانچ چھ حفاظ ہوتے تھے وہ تسلسل سے باری باری تتر آن ساتے سحری میں معمول یہ تھا کہ گرم روٹیوں کے ٹکڑے کر دیئے جاتے اور اس میں راب و گھی ڈال دیتے بالکل حلوسے کی طرح ہو جاتی وہی کھائی جاتی تھی اس کو چوڑی کہتے تھے، اس کا نشان نزول ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ دیر بھم ہوتی تھی، چلنے کا دستور نہیں تھا، ایک مٹری ایک حکیم صاحب نے ایک نسخہ میں لکھ دیا پورے قصبہ میں تلاش کرائی گئی مگر نہیں مل سکی۔

اوقات کی پابندی آج کچھ انسری لیتی طلبا، جلال آباد سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آکر عرض کیا کہ ہم یہاں ۴ بجے تک کے لئے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مدرسہ سے اتنے ہی وقت کے لئے

ہم نے چھٹی لی ہے اس پر حضرت نے مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ حضرت سہارنپور جی سے جتنے دن کی چھٹی لے کر میں کا نڈھلہ جاتا، ٹھیک وقت پر واپس آجاتا کبھی اس کے خلاف نہیں کیا خواہ کوئی اہم بات پیش آجائے ہر شخص کے حامد ہوا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے بذل الجہود کے کام سے گرانا چاہتے تھے۔

اصل چیز فریاد کی طلب ہے ارشاد فرمایا۔ باؤن سال تک دورۂ حدیث میں میں کہتا رہا ہوں اور یہی چیز بزرگی کے اندر بھی کہا کرتا ہوں کہ شیخ یا استاد کو متوجہ کرنا تمہارے اپنے قبضے کی بات ہے حدیث پاک سے یہ مضمون مستنبط ہے شیخ کی بے توجہی اتنی مضر نہیں جتنی مرید و طالب کی مضر ہے، حضرت وحشیؒ جو حضرت امیر حمزہؓ کے قاتل تھے ان کا قصہ اس پر دلیل ہے یہ ناما سنگی، شیخ کی طرف سے تھی اور وہ اعزالی جس نے اگر آپ سے "اقلی جیتی میری، بیعت فرم کر دیجے کہا تھا حضورؐ نے اس سے اصرار سے مدینہ پاک میں قیام کے لئے فرمایا، مگر نہ مانا تو ناکام رہا یہ طالب کی بے توجہی ہے حضرت گنگوہیؒ سے ایک صاحب بیعت ہوئے حضرت نے انہیں ذکر کی تلقین کی اور تین چار دن روکنا چاہا، مگر انہوں نے بہت سے اذکار بیان کئے اور جانے پر اصرار کیا حضرت نے اجازت سے دی اور ارشاد فرمایا "مفترات کو کون ٹال سکتا ہے، دڈو ڈڈو ضربوں میں ہینوں کی ترقی کر رہا تھا" میرے حضرت سہارنپور جی نے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا "میری حقیقت کچھ بھی نہیں میری مثال نل کی ہے جو مہل، فیاض کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ کھینچنے والے کی قوت و طلب پر مدار ہے یہی میری مثال ہے، اتنا ضرور ہے کہ نل کے بغیر پانی نہیں نکلے گا، مگر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے" بذل کے بارے میں بعض لوگوں نے میرے حضرت کے سامنے یہ تجویز رکھی، یہ مدرسہ کے ملازم ہیں، مستقل آمدنی کی ضرورت ہے "چنانچہ ایک دوسرے صاحب اس کے لئے مقرر ہوئے، لیکن یہ میوی بچوں والے آدمی تھے جلدی صاف لگ کر جاتے تھے دو دن، کہہ کر جلتے تو چار دن میں واپس آتے، میں حضرت سے عرض کرتا کہ ان کی عدم موجودگی میں بذل میں لکھوں، حضرت فرماتے "مدرسہ کا حرج ہوگا" میں زور سے کہتا کہ یہ سارے مدرسہ کی بیماری وغیرہ کی رخصت لیتے رہتے ہیں، میں تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوا، دو دن کی چھٹی لے لیتا ہوں، مگر

فرمائیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں میں عاراج میں طلبہ کو پڑھا دوں گا اس زمانے کے طالب علم اسٹریٹجی نہیں تھے۔

دوسری مرتبہ "بذل" کی تسوید و تحریر کے لئے ایک صاحب کو مقرر کیا گیا، مگر کاپی نویس نے کہہ دیا کہ مجھے ان کے خط کے نقل کرنے میں زیادہ آسانی ہے، وہ میرے معین بن گئے۔ اس طرح ٹھوم پھر کر پھر "بذل" میرے پاس آئی۔

با وضو سبق کا پڑھنا ارشاد فرمایا، میرا ایک ساتھی اور دوست محمد حسن مرحوم تھا اس سے زیادہ صالح میں نے اپنے بچپن میں کسی اور ساتھی کو نہیں دیکھا ہم دونوں نے مل کر رکھا تھا کہ بے وضو کسی حدیث کو استاد کے سامنے نہیں پڑھنا ہے اور یہ کہ کوئی حدیث جمعہ سے نہ پائے اب تو پیشاب کے تقاضے کی وجہ سے میں افطاریں بھی شرکت نہیں کر سکتا کیونکہ حرکت سے تقاضا پیدا ہو جاتا ہے اور کھانے کو جی نہیں چاہتا، قسم کھا کر نہ پایا: اللہ کی قسم تم میں سے بہت سے لوگ مجھ سے افضل ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ افطار دکھانے میں میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، مگر مجبوریاں ہیں، بہر حال ہم دونوں سبق میں تو امین کی طرح ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کبھی وضو کی ضرورت ہوتی تو کہنی مار کر وہ اٹھ جاتا تو میں کہتا حضرت یہاں پر یہ اشکال ہے، تاکہ سبق آگے نہ بڑھے وہ بھی وضو کر کے آجائے اسی طرح میں بھی کرتا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ میں نے اشکال کیا کہ حضرت فتح القدیر میں یوں لکھا ہے، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا تمہاری فتح القدیر سے میں اپنی جگہ پر منتسار ہوں گا پہلے ایک قصہ سنائے دیتا ہوں میرے والد صاحب سبق میں اشعار و قصے وغیرہ بھی سنایا کرتے تھے اور میرے حضرت غیثم وقار تھے، میرا بھی سبق میں معمول تھا، کہ ششماہی تک والد صاحب کا تابع رہتا تھا اور اس کے بعد حضرت کا، کیونکہ کتاب ختم کرانی ہوتی، محمد حسن مرحوم کا خط بھی بہت پاکیزہ تھا، مگر پاکیزہ خط والوں کا دستور ہے کہ وہ نقطے غلط لگاتے ہیں، ان کے ذمے "بذل" کا کلام دیا گیا تھا، مگر اسی وجہ سے پھر پھر ہی پاس آ گیا۔

حضرت سہارنپوریؒ کے سامنے ارشاد فرمایا۔ میں اپنے والد صاحبؒ کے زمانے
 پان کھانے سے احتکراز میں پان بنویر تھا کہ کھاتا تھا، البتہ بعد میں تمباکو
 کھانا شروع کیا میرے حضرت کے یہاں بذل کے لکھنے کے وقت اچھے سے اچھے وہاں سا آنا
 گراں گزرتا تھا، جب کوئی آجاتا تو میں "شذرات الصحاح" لکھنا شروع کر دیتا، تفصیل کے لئے آپ
 جتنی نسبت ملاحظہ ہوئیں، خوب پان کھائے، مگر ان دنوں پر والد صاحبؒ اور میرے حضرت کے
 دور میں کبھی سرخی نہیں آئی، صبح کے وقت حضرت کے یہاں ڈاک آتی تھی، اس وقت چھپ کر میں
 پان کھالیتا تھا اور اس کا معاملہ میں نے کتب خانہ کے ملازم سے کر رکھا تھا، ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ گلگاہ
 جانا ہوا، وہاں بڑی اماں (نانی اماں) نے ایک بڑا پان فیبرے لئے اور ایک چھوٹا حضرت کے لئے بڑا کر
 بھیجا، اس وقت میرے پان کھانے کا حضرت نے ذکر فرمایا۔

طلباء کا اجتماع

۱۰۔ اور رمضان المبارک سے اخیر رمضان تک مسجد کے صحن میں
 طلباء کا اجتماع ۱۰ بجے دن سے ۱ بجے تک ہوتا تھا، اس کا آغاز حضرت مولانا علی میاں مظفر کی
 تقریر سے ہوا، انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں پوری تقریر میں شریک نہ ہو سکا، حضرت
 مولانا نے طلباء اور علماء کی مبارک مقصد سے آمد پر مبارک باد دی اور یہاں حاضرین کی قدر و قیمت کو بتایا، دو
 دن حضرت مولانا منظور نعمانی کی تقریر ہوئی انہوں نے فرمایا: آپ سب حضرات ایک اہم مقصد کے تحت یہاں
 حاضر ہوئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو اعمال کا وارث بنایا، اسی طرح
 روحانیت کا بھی وارث بنایا ہے اور اس کا سلسلہ امت میں تسلسل کے ساتھ قائم ہے، ہم اپنے گھر میں
 پیر روزہ، تلاوت وغیرہ اعمال سب کرتے ہیں مگر یہاں آکر مقصد یہ ہے کہ ان میں روحانیت پیدا ہو جائے
 اور یہ اس پر موقوف ہے کہ حضرت اقدس مدنیوہم کو انشاء ہو اگر خدا نخواستہ کسی بات سے تکرر ہوا تو اندیشہ
 ہے کہ کہیں سارا مجمع محروم نہ جائے اس کے لئے دو باتوں کا خاص دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔

(۱) تحفظ اوقات۔ (۲) بے ضرورت بات نہ کی جائے۔
 دو تین روزہ کے بعد اس اجتماع میں مولانا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے سننے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔

سترھویں مجلس

۱۷ رمضان المبارک

اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہی غفلت کیا
جائے، اثر کئے بغیر نہیں رہتا
حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ انجیر
عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے میرے
والد صاحب (حضرت مولانا یحییٰ صاحب) حضرت گنگوہی کے خاص خادم تھے، والد صاحب کے دریافت
فرمایا، مولوی یحییٰ یہاں کون کون ہے۔ حضرت گنگوہی کو جب کوئی اہم بات فرمائی ہوتی، اس وقت
مذکورہ سوال اولاً فرمایا کرتے تھے والد صاحب نے عرض کیا کہ میں ہوں اور ایساں (بابائی تبلیغ
حضرت مولانا محمد ایساں صاحب کے چھوٹے بھائی) اس کے بعد حضرت گنگوہی نے ارشاد فرمایا۔
”اللہ کا پاک نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کئے بغیر نہیں رہتا، یہی میری بھی دلتے ہے کافر
بھی اسی سے مسلمان ہوتا ہے اگر اعتقاد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو کفر دھل جاتا ہے مگر ذاکرین
شروع میں اہتمام کرتے ہیں، ابتدا میں اچھے اچھے حالات پیش آتے ہیں یہ بہت نازک مرحلہ
ہے اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے، جب قلب ذکر سے ماؤں ہو جاتا ہے تو وہ حالات کم ہو جاتے
ہیں اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔

کہ عشق آساں نبودا دلے افناؤ شکلا

ع

بادرم مولانا عبدالرحیم متالارادی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے ان سے مخاطب ہو کر
فرمایا، تم نے یہ شعر بھی سنا ہے؟

برزیاں تسبیح و درود لگاؤ آخر میں چئیں تسبیح کے دارداثر

احقر نے عرض کیا جی! حضرت سنا ہے، ارشاد فرمایا، ہمارے حضرت تھانویؒ نے اس

میں ترمیم فرمائی ہے، ح، "میں چئیں تسبیح ہم دارداثر۔"

یعنی ایسی تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، لیکن یہ ترمیم دراصل حضرت گنگوہیؒ کی فرمائی ہوئی ہے۔

نسبت کے اقسام اربعہ ارشاد فرمایا: غور سے سنو، تم علماء کرام ہو، لایح الدرایہ

کے حاشیہ پر ایک مضمون حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی تفسیر عنیزی سے نقل کیا گیا ہے، یہ مضمون (باب کیفیت کاتب اللوحی) کے تحت نغظنی کی تشریح کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، جب پہلی مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور حضورؐ سے پڑھنے کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا کہ "ما انا بقاری" میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے تین مرتبہ،

دہلچا، اس کے بعد آپ پڑھنے لگے، اس حدیث میں یہ بھی ہے "حتی بلغ منی الجہد" اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اس میں انتہائی مشقت ہوئی، اس پر

نظام اشکال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اپنی اصل ہیئت میں تشریف لائے تو ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ یہاں آدمی کی صورت میں تشریف لائے جو کسی کی زنی (ہیئت) اختیار کرتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جن اگر سانپ بچھو کی شکل میں آئے تو ایک کلاسی سے اگر مارا جائے تو مر جائے گا،

(حضرت شاہ اہل اللہ صاحب کا قصہ مشہور ہے دیکھو تذکرۃ الرشید) لیکن اگر جن اپنی اصلی ہیئت و صورت میں آئے تو اس کا مارنا آسان نہیں، بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے تھپڑ کھینچ کر مارا، تو ان کی ایک آنکھ نکل آئی اس پر ہیئت سے جہلا اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، میرے پاس بھی اس پر اعتراضات کے ہیئت سے خطوط آئے، مگر یہاں بھی وہی بات ہے کہ ملک الموت علیہ السلام آدمی کی صورت میں آئے تھے، اس لئے مارنے کا اثر ظاہر ہوا، معلوم ہوا کہ اگر زستی (ہیئت) بدل جائے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے کی علامتوں مختلف توجہات کی ہیں، میری رائے

یہ ہے کہ فرشتہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں فرشتہ نبی کی روح قبض کرنے کے لئے اس کی اجازت لے کر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت "اللہم انت الرزق الاعلیٰ" فرمایا، اس سے نبی کو جو اختیار دیا جاتا ہے اس کا مطلب سمجھ میں آیا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بغیر اجازت کے فرشتہ آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال غالب تھا، اس لئے تھپڑ مارا، بہر حال حضرت ، جبرئیل علیہ السلام نے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوچھا، علماء ظاہر کرتے ہیں کہ یہ استاد کی تنبیہ تھی شاگرد کے لئے اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ استاد تین مرتبہ شاگرد کو تنبیہ کر سکتا ہے لیکن میرے نزدیک درحقیقت یہ دلوچھنا نسبت اتحادیہ پیدا کرنے کے لئے تھا، نسبت کے لغوی معنی ہیں لگاؤ و تعلق اور اصطلاحی معنی ہیں، بندہ کا حق تعلق سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضا جیسا عاشق مطیع و وفادار محشوق میں ہوتا ہے اس کو وصول الی اللہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نوز اللہ مرقدہ نے نسبت کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) نسبت انعکاسی :- اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید جب ذکر کرتا ہے تو شیخ کے قلب کا عکس مرید پر پڑتا ہے اور اس کے قلب میں اثر پیدا ہوتا ہے، جیسے آگ سے موم میں پیدا ہوتا ہے مگر یہ اثر بالکل ابتدائی ہوتا ہے، شیخ کی صحبت سے یا اثر شروع ہوتا ہے ایسی صورت میں جو رونادھونا و انابت وغیرہ کا اثر محسوس ہوتا ہے وہ سب شیخ کی توجہ کا اثر ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے بہت وافر مقدار میں عطر لگا رکھا ہے، اب جماس کی مجلس میں بیٹھے گا وہ خوشبو محسوس کرے گا بلکہ یہ خوشبو مشام جہاں کو عطر کر دے گی، مگر اس کا اثر اسی وقت تک ہے جب تک کہ شیخ کی مجلس میں موجود رہے۔

ذکر و شغل سے یا اللہ کی دین سے قلب میں جلا رہا پیدا ہو جاتی ہے، ایک بڑھئی اپنے لڑکے سے کہتا تھا کہ "کلام کروردہ سطر امطر کر ماروں گا" کسی نے اس سے اس کا مطلب پوچھا اس نے کہا کہ اس کو پہلے کسی مکتب میں داخل کر دوں گا، ایک دوپہر دیتا ہوں گا، حافظ صاحب خوب پیٹے پیٹے

کراس کو پڑھائیں گے جب اس کو چسکا لگ جائے گا تو پھر مڑ مڑ کر خود مر جائے گا۔ میں ممتاز گیا دی کا قصہ سنا چکا ہوں، شہنشاہ میں مظاہر علوم سے دورہ حدیث کا امتحان دے کر تھکا بھون گیا اور شمال میں وہاں سے خلافت لے کر اپنے وطن واپس گیا میں نے اپنے بزرگوں کے یہاں ایسے کسی اشخاص کو دیکھا ہے کہ وہ دورہ حدیث کے بعد خلافت سے سرفراز ہوئے کبھی یہ نسبت کسی ادا پر مل جاتی ہے ممتاز گیا دی کو اپنے زمانہ طالب علمی میں بے ضرورت بات نہ کرنے پر کامیابی ہوئی، اسی نسبت کا اثر یہ ہے کہ شیخ کی توجہ کا اثر مرید کے قلب میں پڑتا ہے، انوار بھی آتے ہیں مگر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نسبت بہت کمزور ہے تھوڑی دیر کے لئے آئینہ ہٹ جائے یعنی شیخ مجلس سے ہٹ جائے تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے مگر میری رائے یہ ہے کہ اس سے نہیں جاتی بلکہ اگر کوئی اس ماہ میں مرٹے تو ترقی کرتی رہتی ہے، البتہ معاصی سے خاص کر بدنگاہی سے یہ بہت جلد منالغ ہو جاتی ہے، اس لئے اس سے احتراز ضروری ہے۔

بعض مشائخ بعض مخصوص حالات میں اس پر اجازت بھی دیدیتے ہیں اس خیال سے کہ مرید چھپے نہیں ہٹے گا میرے خیال میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مریدین کو بیعت کے ساتھ ہی اجازت دیدی تھی اس کی بھی یہی صورت تھی اور حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہیؒ کو ایک ہی ہفتہ میں خلافت دے دی تھی وہ بھی اس نوع کی تھی، گراس کے بعد حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں ”پھر تو میں مرٹا“ حضرت حاجی صاحب اور حضرت تھانویؒ کے یہاں اس پر اجازت دینے کا دستور تھا، ان دونوں کے یہاں خلفاء کی دو تیس تھیں، ایک مجاز بالصحت اور مجاز بالصحت، البتہ حضرت گنگوہیؒ اور حضرت شیخ الہندؒ کے یہاں اس پر اجازت دینے کا دستور نہیں تھا، ابتداء میں حضرت مدنیؒ کے یہاں بھی نہیں تھا، مگر اخیر میں ہو گیا تھا، میری حضرت تھانویؒ حضرت رانچندھیؒ سے اس مسئلہ پر گفتگو بھی ہوئی ہے، ان حضرات نے فرمایا نسبت انکاسی پر اجازت کسی ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے جو کسی ایسے علاقے کا رہنے والا ہو کہ وہاں بدعات کا زور ہو اور توقع ہو کہ اجازت دینے سے اس علاقہ میں کام کرنے کے سبب وہاں ہی نسبت کو اور قوی بنائے گا۔“

۲ نسبت القائی شیخ اپنے قلب کی نورانیت سے دوسرے طالب کے اندر

ایک نورانی کیفیت پیدا کر دے اس کیفیت کا باقی رکھنا مرید کا اپنا کام ہے، اگر ذکر و مشغلہ پر مداومت کرتا ہے تو یہ کیفیت باقی رہے گی ورنہ ختم ہو جائے گی اس کی مثال حضرت شاہ صاحبؒ نے چراغ سے دی ہے جیسے کوئی چراغ لے اور اس میں تیل دہتی ڈالی دے اور شیخ کی لوت سے لوز لگا کر اپنے چراغ کو جلا لے یہ چراغ شیخ کے بعد بھی جلتا رہے گا جتنا زیادہ تیل وہی صاف ہوں گے روشنی بڑھتی رہے گی بشرطیکہ کوئی تند و تیز ہوا مصالح نہ کر دے یہ نسبت پہلی سے اونچی ہے اس پر میرا حاشیہ یہ ہے کہ اگر اس نسبت والے مولات کی پابندی کرتے رہیں اور معاصی سے پرہیز کرتے رہیں اس کے بعد اگر کوئی معمولی لغزش ہو جائے تو بھی یہ باقی رہے گی لیکن اگر کسی بڑی مصیبت کا صدور ہو گیا تو یہ بھی جلائے گی۔

ارشاد نسہ دایا۔ معاصی دو قسم کے ہیں، حیوانی و شیطانی، حیوانی کھانا، مینا، شہوت وغیرہ شیطانی تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اس کو زمانہ اسٹرائیکٹ میں میں نے لکھا ہے مفتی غمود صاحب نے اس پر اعتراض کیا تھا، اس سے پہلے قسم کے معاصی کی اہمیت ہلکی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے قسم کے معاصی رونے دھونے سے معاف ہو سکتے ہیں اور دوسرا قسم میں توبہ کی توفیق کم ملتی ہے آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں اس کی معافی دیر سے ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا مگر وہ غلطی سے گئے پھر توبہ کی ادروہ قبول ہوئی، ابلیس نے سجدہ سے تکبر کی بنا پر انکار کیا تھا پہلی قسم میں انفعال پیدا ہوتا ہے اور دوسری میں اللہ کی کبریائی سے مقابلہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے حالات قابل رشک تھے مگر دوسروں پر تنقید اور تحقیر نے انہیں گرا دیا، بہر حال اس نسبت سے اگر دوسری قسم کے معاصی مزاحم ہوئے تو معاملہ زیادہ سخت ہے۔

میں نے اپنے بڑوں اور معاصی میں چھ لٹوں کی پانچ بیڑھیاں دیکھی ہیں، حضرت اقدس گنگوہیؒ کے دور سے لیکر مولوی الغام صاحب کا دور میرے سامنے ہے، ایک مصیبت ہر دور میں

دیکھی کہ ہر دور میں لوگ یہ کہتے رہے کہ حویات حضرت میں تھی وہ ان میں نہیں ہے مثلاً کہتے تھے، کہ حویات مولانا محمد الیاسؒ میں تھی وہ حضرت جی (مولانا محمد یوسف صاحب) میں نہیں ہے! میں کہا کرتا تھا، حویات میرے حضرت میں تھی وہ چچا جان میں نہیں تھی، حضرت گنگوہیؒ کے لوگوں میں بعض محترات ایسے تھے جو بعد والوں کے لئے مشائخ کے درجے کے تھے مگر بعد میں حضرت کے خلفاء سے رجوع نہیں کیا، معاشرت حجاب بن گئی اس لئے گئے، حضرت مدنیؒ نے لکھا ہے، کہ جب محمدؐ کو اجازت ملی تو میں ٹرپ گیا، اجازت پر ایک بھلی کو بند جائے اور بے چین کر دے یہ درحقیقت اجازت ہے، یہ نسبت پہلے سے قومی ہوتی ہے دیکھو مکس کو کوئی پکا کرے گا تو پکارے گا در نہ مٹ جائے گا۔

(۳) نسبت اصلاحی :- یہ پہلی دونوں نسبتوں سے اونچی ہے، اس کا حاصل

یہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنی لوزانیت کا دفتر حصہ مرید کے لئے مندرجہ کر دیتا ہے لیکن اس میں تدریجی ترقی ہوتی ہے، پہلے اخلاق درست کراتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ترقی دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص نہر کھودے اور اس کی صفائی کرے اور اس نہر کو کھودتے کھودتے کسی بڑے دریا یا سمندر کے دہانے سے ملا دے، اس نہر میں اگر معمولی خس و خاشاک آجائیں گے تو دہانہ بند نہ ہوگا اور اگر کوئی لغزش صادر ہو جائے تو بہہ جائے گی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عامی کو یہ دیکھ کر غلط فہمی نہ ہو کہ فلاں حضرت سے بھی لغزش و معصیت صادر ہو گئی ہے اس لئے میرے لئے گنجائش ہے اگر کوئی ایسا سوچے گا تو ہلاک ہو جائے گا یہی وہ درجہ ہے کہ بعض صحابہ کرامؓ سے بعض کمزوریوں کا صدور ہوا، مگر حضورؐ کی صحبت بابرکت سے سب کچھ بہ گیا، یعنی انہوں نے ایسی توبہ کی کہ سب گچھ صاف ہو گیا، نسبت اصلاحی میں سالک اپنے نفس کی تہذیب کر لیتا ہے

(۴) نسبت اتحادی :- شیخ مرید کے قلب کے اندر اتر جائے، من تو شدم

لومن شدی کے مصداق بن جائے جو شیخ کے قلب میں آئے وہی مرید کے قلب میں آئے،

اس نسبت میں شیخ اپنی روح کو مترشد کی روح سے متصل کر دیتا ہے اور ان کمالات کا پوری قوت سے اظہار کرتا ہے جو شیخ کی روح کے اندر موجود ہیں یہ نسبت سب سے قوی ہوتی ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ کا واقعہ ہے، جو حضرت مجدد الف ثانیؒ کے شیخ ہیں۔ دنی کے باہر رہتے تھے ایک دن چند جہان آگئے، مقدر کی بات کہ شیخ اس وقت ہی دست تھے اتنا بھی پاس نہیں تھا کہ ضروری مدارات کر سکیں شیخ بہت پریشان ہوئے کبھی حجرے کے اندر تشریف لے جاتے اور کبھی فرط اضطراب میں باہر آتے، میں نے اپنے اکابر کے یہاں دیکھا ہے جب ان کے یہاں کوئی خاص جہان آتا تو اس کا بظاہر اہتمام کرتے حضرت سہارنپوریؒ ایک مرتبہ طویل عرصہ کے بعد تھانہ بھون تشریف لے گئے تو حضرت اقدس تھانویؒ نے دسترخوان پر ۶۲ رکابوں میں کھانا رکھ کر ضیانت فرمائی، حضرت سہارنپوریؒ نے فرمایا کہ اس قدر کیں تکلف کیا؟ تو حضرت تھانویؒ نے جواب دیا، "حضرت کی آمد یہاں بہت کم ہوتی ہے۔"

بہر حال میں یہ قصہ سنا رہا تھا کہ حضرت باقی باللہؒ بہت مضطرب تھے ان کے قریب ہی ایک نانباہی کی دکان تھی، نانباہی پہلے سے شیخ کا مستعد تھا اس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ شیخ جہانوں کی خاطر داری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اس نے فوراً عمدہ خوان حاضر کر دیا، جہانوں نے کھانا کھا لیا، شیخ علیہ الرحمہ اس پر بہت خوش ہوئے اور اس نانباہی سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے عرض کیا کہ حضرت کی دعاؤں سے سب کچھ اللہ کا عطا کردہ موجود ہے، حضرت نے جب امر فرمایا تو اس نے کہا کہ حضرت بس اپنا جیسا کر دیجئے، حضرت خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اور کچھ مانگتا ہوتا، لیکن نانباہی نے اس خواہش و طلب پر امر کر لیا، شیخ اس کو اپنے حجرے میں لے گئے اور توجہ دے کر اپنی روح کو جو جو حال کمالات تھی اس کی روح سے متحد کر دیا اور اسے ان کمالات کا حامل بنا دیا مگر چونکہ یہ انتقال فوری تھا، نانباہی برواشت نہ کر سکا اور تیسرے دن واصل بحق ہو گیا، عرض تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں حجرے سے نکلے تو نانباہی شیخ کی شبیہ بن چکا تھا، حتیٰ کہ صورت میں بھی کوئی فرق نہ تھا فرق تھا تو صورت اس قدر کہ شیخ ہوشمند تھے اور نانباہی مست اس پر ایک مسکری کیفیت طاری تھی، یہ نانباہی تین دن کے بعد واصل بحق ہو گیا۔

ارشاد مستر آیا۔ مگر یہ نانبائی حضرت خواجہ باقی باللہ بن کر مرا چونکہ یہ چیز نانبائی کے اصرار سے دفعتاً وی گئی تھی، اس لئے نانبائی برداشت نہ کر سکا اس عالم فانی میں کمالات عطا کرنے کا قانون تدریح ہے۔

یہاں فغظنی میں حضرت جبریل علیہ السلام نے تین مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دلچسپا یہ درحقیقت نسبت اتحادی حاصل ہونے کے بعد آپ پڑھنے لگے، صوفیاء کی چیزوں کی اصل حدیث میں موجود ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل تھی چنانچہ ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیقؓ کی رائے حضورؐ کی رائے کے مطابق ہوتی تھی، بدر کے قید لیوں کے سلسلے میں دونوں کی رالیوں میں اتفاق تھا، حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عمرؓ نے آکر حضورؐ سے گفتگو کی، جن الفاظ کے ساتھ حضورؐ نے ان کو جواب دیا، جب حضرت ابوبکرؓ نے آکر گفتگو ہوئی تو حضرت ابوبکرؓ نے بھی انہیں الفاظ میں حضرت عمرؓ کو جواب دیا تھا حالانکہ ایک دوسرے کو اس کی خبر نہیں تھی، اسی لئے حضورؐ کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی خلافت بھی ضروری تھی تاکہ دو سال چند ماہ صحابہ کرام حضورؐ کے وصال کے صدرہ کو برداشت کر لیں، حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ٹھیک ٹھیک حضورؐ کی پیروی کی، جب حالات میں استحکام پیدا ہو گیا تو حضرت عمرؓ کی خلافت کی ضرورت تھی۔

نسر آیا۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی صورت و سیرت میں بالکل اپنے شیخ کے مشابہ تھے۔

کبھی شہر اگر دستاؤ نسر آیا ہر حدیث میں آیا ہے، رب مبلغ اوعی من سامع، حضورؐ سے بڑھ سکتا ہے، امام بخاریؒ نے اس پر ترجمہ قائم کیا ہے اور علماء نے اس سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے بڑھ جاتا ہے جیسے امام بخاریؒ اپنے بہت سے شیوخ سے بڑھ گئے تھے، علماء نے مذکورہ بالا حدیث سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ علم کو اپنے اودن سے بھی لینا چاہیے، یہی حال سلوک کا ہے، اگر صبح و شام اور

رات میں کچھ لایا کرو تو بہت سی ترقیات کے دروازے کھل سکتے ہیں۔
ایک مبلغ کا خواب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دظلا بھی آپ کی مجلس میں تشریف
 فرماتے انہوں نے ایک مبلغ کا خواب سنایا جو باہر جماعت میں گئے تھے کہ انہوں نے خواب میں
 حضرت جی (مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ) کو دیکھا، فرما رہے ہیں کہ میرے زمانے میں تبلیغ کی
 اتنی مخالفت نہیں تھی، جتنی مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں۔ پھر فرمایا: "مولانا انعام الحسن
 صاحب اللہ کا ہاتھ ہیں، تم لوگ ان کے ساتھ پورا تعاون کرو!"



اٹھا رہویں مجلس

۱۸ رمضان المبارک

ہر تنقید قابل قبول نہیں ارشادِ سرِ باریا۔ میرے اقوال و افعال قابل احتجاج نہیں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے البتہ تحسیر قابل اعتماد ہے اس لئے کہ مولویوں اور مفتیوں کو میں بار بار لکھا کرتا ہوں کہ فرمایا۔ آج مولانا ابرار صاحب (خلیفہ حضرت اقدس تھانویؒ) نے ایک تنقید کی اور غیبت کی تنقید تھی، ایسی تنقید مجھے اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، کہ یہاں کی تراویح بہت میٹھی ہونی چاہیے حضرت نے فرمایا۔ یہاں کی ہر چیز میٹھی ہونی چاہیے، مجھے اس سے انکار نہیں، البتہ ہر شخص کے مصالح ہو کر تھے ہیں جس کو وہی سمجھتا ہے، مقدمہ اوجڑ" میں لکھا ہے حضرت امام مالکؒ اخیر زندگی میں مدینہ منورہ کے قیام کے باوجود مسجد میں شرکت جماعت کے لئے نہیں جاتے تھے، جب ان سے لوگ دریافت فرماتے تو فرماتے، مجھے عذر ہے بعض وجوہ سے میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا میں نے نظام الدین مرکز تبلیغ یار بار لکھا کہ تمہارے یہاں کسی مسجد میں تراویح ہوتی ہے مگر ایک مسجد ایسی بھی ہونی چاہیے کہ اس میں پانچ چودھ دن میں ایک مسکن ختم ہوا کرے تاکہ وہاں آنے والوں کو بھی پورا قرآن سننے کا موقع مل سکے۔

یہاں پندرہ عشرہ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں تاکہ تبلیغ والوں کو اور مدارس کے چندہ وصول کرنے والوں کو بھی پورا قرآن سننے کا موقع مل سکے

تھانہ بھون حاضری اور ارشاد فرمایا: ایک مرتبہ یہ ناکارہ اور مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر علوم رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون

حاضر ہوئے، ہم لوگ حضرت کے صحن میں کھانا کھانے بیٹھے، حضرت مکان کے اندر سے بہت ہی ہنستے ہوئے تشریف لائے وہ منظر آج بھی آنکھوں دکاؤں میں گونج رہا ہے، حضرت نے فرمایا: مولانا ذکر کیا صاحب آج ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ آپ قاری بھی ہیں، میں نے عرض کیا حضرت بالکل نہیں ہیں تو قاری میں قرآن پڑھا ہوں، حضرت نے فرمایا: مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ آپ قاری نہیں ہیں مگر یہ عورتیں مکان میں بہت ساری جمع ہیں اور متفق اللسان ہیں کہ آپ قاری ہیں۔ اور آپ سے قرآن سننے کی میرے واسطے سے درخواست کر رہی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ بھائی احمد علی صاحب کئی حج

اپنی اہلیہ کے آتے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا کہ حضرت بھائی احمد علی کی اہلیہ تو ان میں نہیں حضرت نے فرمایا: کیسے سمجھا، میں نے عرض کیا کہ تو دایت صحیح ہے پھر میں نے تحفۃ الامتحان اور شرح جزری کا سامان قصہ سنایا اور میں نے کہا کہ حضرت میں مدینہ میں قاری ہوں اور ہندوستان میں نہیں۔

مدینہ پاک میں تجوید فرمایا: ۱۳۵۰ھ میں جب مدینہ پاک ایک سال کے شروع کرنے کا قصد لئے میری حاضری ہوئی تھی تو وہاں کچھ تجوید پڑھنے کا مشق پیدا ہوا، اور المقری الشہیر استاذ الاساتذہ القاری حسن شاعر جو اس زمانے میں معمر تھے اور مکہ مدینہ کے فرار کے مشہور استاد تھے بظان کا شہرہ تھا میں نے ان سے شاطبی شروع کی لیکن، پہلے ہی سبق میں لڑائی ہو گئی اس لئے کہ حضرت قاری صاحب نے یوں فرمایا کہ مطلب سمجھنے کی ضرورت نہیں اشعار حفظ کرو اس ناکارہ نے عرض کیا: اشعار تو ضرور حفظ کر کے سنایا کروں گا، مگر اتنے مطلب نہ سمجھوں اتنے قرآن کے الفاظ کی طرح اس کے اشعار کو یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے حضرت قدس سرہ کو کئی ماہ کے بعد اس قصہ کی خبر ہوئی تو حضرت نے فرمایا، تو نے مجھ سے نہ کہا، شاطبی تو مجھے سمجھا کے میں پڑھاتا۔ قاری صاحب کی شاگردی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی، لیکن ان

کی شفقت و محبت اب تک بھی رہی جب کہی وہاں حاضری ہوئی، تو وہ بہت فخر سے فرماتے کہ میرے نانا گرو رشید ہیں، ان کی عربی تالیف "مختصۃ الاخوان فی بیان احکام تجمید القرآن" کا ان کے حکم سے اردو میں ترجمہ کیا تھا جو بار بار طبع ہوا اور انہیں کے حکم سے طلب کے لئے شرح عربی جزوی کی لکھی تھی،

ارشاد فرمایا:۔ ایک زمانہ میں مدرسہ قدیم کی مسجد میں میں نائب امام تھا، قاری محمد حسین اجڑاڑدی نے ایک مرتبہ میرے حضرت سے فرمایا، مولوی ذکر کیا کہ پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، کہ میری تو ہو جاتی ہے، تمہاری نہ ہوتی ہو تو اعادہ کر لو یعنی حضرت اقدس رضویہم قرآن تیز پڑھتے تھے۔



انیسویں مجلس

۱۹ رمضان المبارک

خانقاہوں کی بربادی پر اظہارِ افسوس
 ارشاد فرمایا۔ میرے ذہن میں
 اودھارس میں اسٹرینگٹ کا سبب
 ایک بات آرہی ہے کہ ہماری
 خانقاہیں برباد ہو رہی ہیں نہ ما پور رہا، نہ تھانہ بھون نہ گنگوہ رہا، خاص طور سے میرے
 مخاطب (مولانا) علی میاں اور مولانا منظور صاحب ہیں (جو اس مجلس میں حاضر تھے) بتاؤ
 ان کی آبادی کی کیا صورت ہو؟ ہم نے سن رکھا ہے اور خوب سنا ہے، یہ میں آخری کیفیت
 کر کے جاری ہوں اور اس کو اپنے سبقوں میں بھی بار بار کہتا ہے کہ دنیا کے لئے ہماری جو کوشش
 ناکام ہو تو بھی کارآمد کیونکر ہم نے کلمہ خیر کہا۔

آج ہمارے مدارس میں ساری اسٹرینگٹ وغیرہ سب اسی خانقاہی زندگی کی کمی سے
 پیش آرہی ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ اگر زمین میں اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں تو قیامت
 آجائے گی یہی حال مدرسوں کی بقا کا ہے، اللہ کا نام خواہ کتنی ہی بے توجہی سے لیا جائے
 اثر کئے بغیر نہیں رہتا، ہم لوگوں میں اخلاص نہیں رہا، اللہ اللہ کرنے کے سلسلے کو بڑھاؤ
 اللہ کا نام جہاں کثرت سے لیا جائے گا وہاں فتنہ نہ ہوگا، اللہ کا ذکر حوادث و فتن میں
 سب سے سب سے پہلے زمانے میں درجہ حدیث میں طلبہ کی ایک تعداد ذکر ہوا کرتی تھی،
 ذکر کو درج دو، ذکر خواہ رہا ہی سے کرو، نقلیں خواہ رہا ہی سے پڑھو مگر اس پر عمل ضرور

کرد، میں نے ریا کو اٹھا دیا، سفیان ثوریؒ کا مقولہ ہے "تعلمنا الدین بغیر اللہ فابی ان یکون الا للہ" علم کو ہم نے غیر اللہ کے لئے سیکھا، مگر علم نے انکار کر دیا، الایہ کہ اللہ کے لئے ہو گیا، میں نے اس کی طرف مولانا قاری طیب صاحب کو بار بار خطوط میں توجہ دلائی ہے اور نظام الدین والوں سے بھی کہتا رہا ہوں، اب نظام الدین میں فاکرین کی جاہلیت منتخب ہوئی ہے۔

حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے عرض کیا، انشاء اللہ یہ سلسلہ چلے گا اس پر حضرت نے فرمایا، آدمی بناؤ۔

ارشادِ نبویؐ: مولوی منفع علی صاحب جو میرے آبا جانا کے شاگرد تھے بعد میں حضرت تھانوی سے ان کا تعلق ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، کہ تیری لیگ کانگریس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، البتہ اپنے دلوں بزرگوں حضرت تھانویؒ و حضرت مدنیؒ کو آفتاب ماہتاب سمجھتا ہوں ان دونوں میں جس کا اتباع کرو مفید ہوگا، ہمارے اکابر حضرت گنگوہیؒ و حضرت نالوتوگیؒ نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اب قاسمؒ درشیدؒ پیدا ہونے سے رہے بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ اللہ کا نام کثرت سے زبان پر رکھو، انشاء اللہ دل و دماغ میں آجائے گا، ہمارے اکابر، طالب علموں کو بیت ہمیں کیا کرتے تھے حضرت گنگوہیؒ اس سلسلے میں محنت تھے کیونکہ حضرت کے دور میں طالب علم واقعتاً طالب علم تھے، طلبہ پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، اب دور میں اس میں سہلی برتی گئی اس دور کے لحاظ سے یہی مناسب تھا، شاید اس کے ذریعے لائن پر لگ جائیں، ورنہ اخبار مینی میں مشغول ہو کر اوقات ضائع کریں گے۔

۱۱ سال اور گزشتہ سال ارشادِ نبویؐ: نصف سے زائد رمضان گزر چکا ہے کچھ کے رمضان میں موازنہ کرو حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظلہ اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کو خاص طور سے مخاطب کر کے فرمایا، میرا ہر سال رمضان میں ایک سوال ہو کر رہا ہے

اس سال پھر یہ سوال ہے کہ گزشتہ رمضان اور اس رمضان میں کیا فرق ہے؟ بھائی ہم نے تو اپنے میں تمہل ہی پایا، سوال برطبعیت آدہ نہیں تھی، مجھے اپنا تنہائی کا رمضان یاد آتا تھا ارشاد فرمایا: مولویو! تم نے بڑوں کو دیکھا ہے بھائی ان بڑوں اور اللہ والوں کو دیکھنے والوں میں بھی اثر ہے مولانا حبیب الرحمن رئیس الاحرار کو بڑے حضرت راجپور سے دھال کے قریب تعلق ہوا تھا، پھر اس چیز نے ان کو بالآخر کھینچ لیا، مگر انوس ان بڑوں سے اب میدان خالی ہے اب بھی ان بڑوں کے دیکھنے والے موجود ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور کلام کو آگے بڑھائیں تو کام آگے بڑھ سکتا ہے ان اکابر کی صورتوں کو دیکھ کر دل میں ایک لوز آتا تھا وہ حضرات ایسے بھلے بھالے چال ڈھال ایسی کہ ان کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھتا کہ یہ کچھ ہیں، میں تمہیں ہر سال لڑکتا ہوں، عنایت سمجھو پھر کوئی لڑکنے والا بھی نہیں ملے گا۔

ارشاد فرمایا:۔ اپنے اکابر کی صورتیں گلدستہ کی طرح میرے سامنے ہیں حضرت تھانیؒ کی صورت، حضرت مدنیؒ کی صورت، حضرت منیؒ جس وقت خوشبو لگا کر حمامہ باندھ کر منبر پر خطبہ کے لئے تشریف لے جاتے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا۔

تنہائی کا دن مبارک میں نے اپنے ابا جان اور حضرت مدنیؒ کو اخیر شب میں ہچکیاں مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے حضرت مدنیؒ اور حضرت راجپورؒ کا شروع میں معمول تھا کہ رات میں تنہا آرام فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت مدنیؒ کے ساتھ آجے کا سفر ہوا رات میں حضرت مدنیؒ نے فرمایا کہ ان کی چلا پانی میرے پاس بے گی اور خدام دوڑ رہیں گے اس پر کسی شخص نے اعتراض کیا تو میں نے کہا کہ حضرت کے ساتھ میرے رہنے میں حضرت کو الجھن عسوس نہ ہوگی ان اکابر کا یہ حال تھا۔

ہمارا کام ہے راتوں کو نہ نایا دلبریں ہماری نیند ہے غو خیال بار ہو جانا
 ارشاد فرمایا:۔ میں نے اپنے اکابر کے ساتھ بے تکلفی بھی رکھی تھی، ایک مرتبہ حضرت مدنیؒ اخیر شب میں ہچکیاں مار کر رو رہے تھے، جب حضرت اس سے فابغ ہوئے تو میں

نے عرض کیا، تین اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے اگر چہ تھی کا ہو جائے گا تو پھر پانچویں آجائے گی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی چار پانچ سال میں مناسبت ہوتی ہے، پھر وہ چل بستی ہے۔
 مرد مومن موت کا خندہ پیشانی ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی صورتوں کو ایسی بناؤ
 سے استقبال کرتا ہے، کہ لوگ دیکھ کر محبت کریں۔

یا دکواری کہ وقت زادن تو ہمہ خندان بندو تو گریاں

ہمچنان ذمی وقت مردن تو ہمہ گریاں شدند و تو خندان

اس وقت کو یاد کرو کہ تمہاری ولادت کے وقت سب ہنس رہے تھے اور توڑ رہا تھا
 اسی طرح تمہاری موت کے وقت یہ ہونا چاہیے کہ لوگ روہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو، ہنستا
 ہوا وہی جائے گا، جس نے کز دہاں کے لئے کچھ تیاری کر رکھی ہو ایک بزرگ کے جب انتقال کا
 وقت قریب آیا اور جنت اور اس کی حوروں کے مناظر سامنے آئے تو انہوں نے ایک شعر پڑھا۔

ان کا ان منزلتانی المحب عندک ما قدر آیت نقد ضیعت ایامی

اگر محبت میں میرا مقام وہی ہے جو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے ایام زندگی کو صنایع
 کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غائب ہو گئیں اور ایک اور چیز سامنے آئی اسے دیکھ کر کھل
 کھلا کر ہنسنے اور چل دیئے۔

میں نے اپنی بیوی بھی صاحبہ کو دیکھا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو مجھ سے چلا کر فرمایا کہ مجھے
 جلدی سے اٹھا کر بھادو، حضور تشریف لارہے ہیں اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، میرے
 دادا مولانا اسماعیل صاحب کا جب انتقال ہوا تو نظام الدین سے دلی تک ساڑھے تین میل
 کا ہجوم لگ گیا تھا ایک صاحب کشف بزرگ نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں
 کہ مجھے جلدی رخصت کرو میں بہت شرمندہ ہوں، حضور مع اپنے صحابہ کے انتظار فرما رہے ہیں۔

نشان مرد مومن یا تو گویم جس مرگ آید قسیم برب ادوت

بیسویں مجلس

۲۰، رمضان المبارک

کار خود کن کار بگذر از گنہار ارشاد فرمایا۔ ریا کی تو قرآن و حدیث میں سخت مذمت وارد ہے، ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے تین اشخاص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک ریا کار عالم بھی ہو گا جب وہ اپنے کارنامے تلمائے گاتو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے مخلوق کے واسطے کیا تھا، مگر اس کے ساتھ میرے ذہن میں ہے کہ حالت اضطراب میں شراب پینے کی سدر متح تک کی شریعت نے اجازت دی ہے میری رائے یہ ہے کہ نفلوں کا گھرنے میں پڑھنا اولیٰ ہے مگر موجودہ دور میں مساجد میں پڑھنا اولیٰ ہے، وہ زمانہ گیا جب حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی مسجد کے منارہ پر منجلیق چلائی گئی وہ منارہ گر گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، یہ مٹی کہاں سے آگئی، اس لئے عمل کرو خواہ ریا ہی سے کرو، انشاء اللہ عمل کی برکت سے اخلاص پیدا ہو جائے گا، موجودہ دور میں اگر مقتدیٰ لوگ اپنے گھرنے میں نوافل پڑھیں گے تو یہ مقتدیٰ ایک بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہم لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مضطر ہیں، ایک صاحب نے عرض کیا، اس طرح مبتدعین کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ دیوبندی کے لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، ان کو حضور کی سنت سے محبت تھیں؟ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا، ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتی چاہیے یہ تو کسی طرح چین نہیں لینے دیں گے ایک تبلیغی جماعت کہیں گئی، وہاں لوگوں

نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے۔ جب جماعت والوں نے سلام پڑھ دیا، تو کہنے لگے کہ دکھلاوے کے واسطے پڑھا ہے۔ دل سے نہیں پڑھا، اس طرح کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔

ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی تھیں، بزرگوں کی بیویاں اکثر اسی طرح کی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں ہر وقت حقوق کی اٹائیگی کی فکر رہتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی کرامت دکھانی چاہی، چنانچہ اپنے مکان کے اوپر پردان کی، ان کی بیوی نے بھی رضنا، میں اڑتے ہوئے دیکھا مگر جب یہ گھرائے تو بیوی نے کہا کہ آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے جو چھت کے اوپر اڑ رہے تھے۔ تیرے میں کیا کمال ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی تھا بیوی نے کہا جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، بھائی یہ بدعتی تو ایسے میں کہ کسی مان کر نہیں دیں گے۔

ایک مشہور قصہ ہے، باپ بیٹے ایک ٹٹولے کر جا رہے تھے، باپ سوار ہو گیا اور بیٹا پیدل چلنے لگا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ کیسا بے رحم باپ ہے خود سوار ہے اور پھول سا بیٹا پیدل چل رہا ہے، باپ اترا گیا اور بیٹے کو سوار کر دیا کچھ دور آگے پہنچے تو وہاں بھی کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا، یہ کیسا ظلم ہے؟ بیٹا سوار اور باپ پیدل، اس کے بعد دونوں سوار ہو گئے، آگے چلے تو وہاں بھی کچھ لوگ ملے انہوں نے کہا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، یہ سن کر دونوں پیدل چلنے لگے کچھ دور آگے چلے تو وہاں ایک جمع نے انہیں دیکھا تو کہنا شروع کیا کہ حماقت کی انتہا ہو گئی ہے کہ سوار ہی ہوتے ہوئے دونوں پیدل چل رہے ہیں، اس پر باپ نے کہا کہ یہ دنیا ہے، ہر صورت میں تنقید کرنے والے ملیں گے۔

بھائی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا کیلئے کام کرتے رہنا چاہیے۔
 طویل لباس کو مشیریت
 ارشاد نسرا یا بغیروں کے لباس، وضع قطع سے احتراز
 خاص مناسبت ہے
 کرنا چاہیے، میں اپنے پڑھنے کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں

کہ ہر فرقہ کے پیشواؤں کا لباس ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، مسلمان، ہندو، عیسائی ہر ایک کے پیشواؤں کا لباس لمبا ہی ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخیت کے لئے طویل لباس کو کوئی خاص تعلق ہے، البتہ ہم مسلمانوں کو اپنے مشائخ و بزرگوں کے طرز کا اسلامی لباس پہننا چاہیے۔ میں دس پندرہ برس پہلے جب تنگ و چست لباس دالوں کو دکھاتا تھا، تو میلنٹو می آٹھا کر ایسے لوگوں کو پچھلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔

اپنے شیخ کے حکم سے تانبی ارشاد فرمایا: بڑے حضرت اقدس رائی پوری ایک حرام نصیبی کا سبب ہے سال حج کے لئے جا رہے تھے تو اپنے خلفاء سے فرمایا جب لغتوں کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو حضرت مہارنجی سے رجوع کرنا اور جب سیاست میں پوچھنا ہو تو حضرت شیخ الہند سے اسی طرح میرے حضرت مہارنجی نے اپنے ایک سفیر حج کے موقع پر اپنے خلفاء کو اپنی عدم موجودگی میں بڑے حضرت رائی پوری کے حوالے کیا تھا، چنانچہ ایک صاحب نے دوسرے شیخ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت جب واپس تشریف لائے تو فرمایا: "یہ کھو گئے"

حضرت تھانوی کا بڑے حضرت مسزایا: حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ حضرت رائی پوری کے بارے میں ارشاد شیخ الہند حضرت مہارنجی کی گود میں بیٹھے جانیں تو خطرہ نہیں، مگر حضرت رائی پوری کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لئے کہ حضرت کا کشت بہت بڑھا ہوا تھا۔

اکیسویں مجلس

۱۱، رمضان المبارک

وداعِ رمضان

قلم مولانا محمد ثانی صاحب مدیرِ عنوان کی یہ نظم مجلس میں پڑھ کر سنائی گئی
مولانا معین الدین صاحب نے بڑے درد و زور سے پڑھی، مجمع پر عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔

سجدہ ریزی کو خدا کے گھر چلے
زاہدان باصفا بڑھ کر چلے
اہل درد و سوز کس کس پہنچ کر چلے
اپنے دامن کو گلوں سے بھر چلے
جھاڑ کر دامن کو اپنے گھر چلے
چشم تر آئے تھے دامن تر چلے
بوجہ عصیاں کالے سر پر چلے
مکس لئے آئے تھے اور کیا کر چلے
سر چھپانے کو مددِ اختر چلے
ہر طرف تم لوز برساکر چلے

رحمتِ حق آئی قسمت در چلے
نہمتوں سے گود بھرنے خوش نصیب
داہوئے در بزمِ رحمت کے تمام
گلشنِ رحمت کی ہر دم سیر کی
رہ گئے غم مہم ہم ہی کم نصیب
’شیخ کی مانند اس کی بزم میں
تقدیرت کی نہ کچھ ہم کر سکے
ہائے سے حسرتِ نفسی دائے غم
نزد شامِ چاندنی پھیب کی پڑی
او رحمت کے شبِ دروزد و عمر

تم سے ملتی تھی دلوں کو تازگی
تم چلے ارمان سارے مرچلے
الغراق اے ماورضان الفراق
ذختم دل پر کیا لگے نشتر چلے
آنے رحمت کو لئے ہر سال تو
تیری رحمت کی ہوا گھر گھر چلے
ایک جھونکا تیری رحمت کا ادھر
بہر الطابت اے کرم گستر چلے
ہوں نہ ہوں یہ لطف کے دن پھر یہ
اور دودر بادہ کو شہ چلے
اور بھی کچھ اور بھی کچھ اور بھی
جانے کب در بند ساقی کرچلے

ساقیا اب لگ رہا ہے چل چلاؤ

”جب تلک بس چل سکے ساغر چلے“

ذوق و شوق ہو تو ہر منزل
ارشاد نسرا یا: کہ جو چیز دل میں جم جاتی ہے اس کا کرنا
آسان ہو جاتی ہے
آسان ہو جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ سینا دالے دو ٹانگوں
پر کھڑے رہ کر صبح کر دیتے ہیں اگر تم یہ کہیں کہ فلاں بزرگ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز،
پڑھی ہے رات بھر تہجد پڑھتے تھے تو لوگ اس پر حیرت کرتے ہیں، اصل ذوق و شوق ہے اخیر عشرہ
شروع ہو رہا ہے۔ اگلے رمضان کی خبر نہیں، ملتا ہے یا نہیں اس لئے پچھلے دو عشرے کی کوتاہی
کو ددر کر لو۔

سماح و عرس وغیرہ کی حقیقت
ارشاد نسرا یا: سماح و عرس وغیرہ کی ابتداء
صحیح تھی مگر بعد میں اس میں بہت سی بدعات گھس آئیں اس لئے علماء و مفتیوں کو بدعت و ناجائز
کہنا پڑا۔ عرس ابتداء میں نظام الادقات کی طرح کی ایک چیز تھی جیسے دارالعلوم دیوبند و مدد سے منظم
علوم و دلوں جگہوں پر بخاری شریف متعین گھنٹے میں پڑھائی جاتی ہے مہولت کے پیش نظر نظام الادقا
بنایا گیا یہ بدعت نہیں ہے میں نے حضرت گنگوہی کے ددر میں دیکھا کہ وہاں روز عید تھی، کبھی،
حضرت سہارنپوری کی آمد ہوتی، کبھی حضرت شیخ الہندی کی اور کبھی حضرت مدنی کی تشریف آوری
ہوتی تھا۔ مہارے زیارت کرتے عرس کی ابتداء اس طرح ہوتی کہ شیخ کی دفات کے بعد ان کے خلفاء و

ارادتمند سال میں ایک دن تعارف و ملاقات و حلقہ اثر بڑھانے کے لئے جمع ہوتے تھے اور اپنے شیخ کی تاریخ وفات ہر ایک کو یاد رہتی ہے میرے چچا جان کی وفات بروز چہار شنبہ صبح کی نماز کے پہلے ہوئی تھی ان کے سب مریدوں کو یہ یاد ہے۔ بہر حال ابتدا میں یہ چیز اچھی تھی مگر بالآخر سومات نے ان کو بدعت بنا دیا۔

اسی طرح سماع بھی اکثر مشائخ پشتیہ کا سننا ثابت ہے مگر اس کے کچھ شرائط میں جن کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں تحریر فرمایا ہے اس میں بہت سی خرافات پیدا ہوئیں اس لئے حرام کہلایا، دلی کا ایک گویا اتحادہ حج کو گیا، وہاں ایک بدوی نے حدیث غسانی شروع کر دی اس کا ادنیٰ بھاگا اور یہ گریا کہنے لگا، اللہ کے رسول پر قربان لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے جب کہ حضور نے اسی لئے گانے کو حرام تسلط دیا، اگر ہمارا گانا سنتے تو منع نہ فرماتے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ کوئی اچھا قصیدہ سنتے تو جھوم اٹھتے، تذکرۃ الرشیدی میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کو چکل کے پینے کی آواز پر وجد آ گیا۔

بڑوں پر تکبیر کرنے میں جلدی ذکر و معتقد ہونا اور بات ہے لیکن نیکو و مخالفت نہ کرو کیونکہ اگر وہ اللہ کے مقرب ہیں تو ان کی مخالفت کرنے والوں سے حق تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ وہی عادی و دنیا افتد اخفتہ بالمغرب الخ۔ تنقید کا حق ان کے معاصر کو ہے بے تحقیق حکم نہ لگاؤ، باریک فرق ہے۔

کسانیکہ یزداں پرستی کنند
با آواز دو لابل مستی کنند

یزداں پرست اچھی آواز کے محتاج نہیں ہوتے وہ ادا پرست ہو جاتے ہیں جو نسلی ادا پسند آجائے اور دل کو بھا جائے۔

حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ بھی شماع کے قائل تھے ان کے سماع کی کیفیت
لے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سماع کی چار شرطیں تھیں ۱۔ سماع ازاہل ہوا و شہوت

یہ تھی کہ امیر خسرو کچھ اشارے سنائے۔ اس پر سلطان جی کو ہر چند منٹ پر کیفیت پیدا ہوئی اور ختم ہو جاتی
 کبھی امیر خسرو کے ساتھ مل کر چند آدنی پڑھتے، قاضی ضیاء الدین صاحب جو اس زمانے میں دہلی
 کے مفتی اعظم تھے ان کو جب اس کا علم ہوا تو اس پر شدت سے نکیر کی، حضرت سلطان جی نے
 سنا یا میں منذر ہوں سماع بعض امراض کا علاج ہے جب قاضی صاحب کی مخالفت
 بڑھی تو سلطان جی نے فرمایا کہ اگر حضور سے اجازت دلو اور دل کہ میں منذر ہوں تب تو مانجئے
 گا۔ قاضی جی نے کہا، پھر میں کیا ضرورت؟ چنانچہ خواب میں حضور نے اگر فرمایا، کہ یہ منذر
 ہیں، قاضی صاحب نے خواب ہی میں عرض کیا کہ حضور ظاہر شریعت پر عمل کروں یا خواب
 پر، صبح ہوئی تو سلطان جی نے پوچھا کہ اب تو پیچھا چھوڑ دو گے، قاضی صاحب نے فرمایا
 کہ حضور کی طرف سے حجاب نہیں ملا، اسکو ت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر شریعت پر عمل کرنا چاہیے
 جب قاضی صاحب مرض الوفا ت میں مبتلا ہوئے، تو سلطان جی عیادت کے لئے تشریف
 لائے، قاضی صاحب کے مکان پر اگر دستک دی، خادم دروازہ پر آیا اور دریافت کیا، کہ
 کون؟ سلطان جی نے نام بتلایا، خادم نے جا کر خبر دی تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ آخر عمر میں
 کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ اخصاص کی بات تھی، سلطان جی نے کہا کہ ایسا گستاخ
 بدعتی نہیں، بدعتی اپنے بدعت سے توبہ کر کے آیا ہے۔ یہ خبر جب قاضی صاحب کو ملی تو انہوں
 نے اپنا عمامہ بھیجا کہ اس پر قدم مبارک رکھ کر آئیں، سلطان جی عمامہ سر پر رکھے ہوئے قاضی صاحب
 کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قاضی صاحب نے شیخ المشائخ سلطان جی کے سامنے منذر جہ ذیل
 شعر پڑھا

آناں کہ خاک را بنظر کمیہ کنند
 آیا بود کہ گوشہ چہ شے باکنند

(باضافہ حضرت مفتی محمود صاحب غلط)

بیتھاشیہ (۲) سمع مرد تمام باشد زن و کودک نباشد (۳) سموع بزل و فحش نباشد (۴) آکر سماع
 مثل چنگ درباب در میان باشد (النفاس فیہا صلا)

بے تحقیق حکم لگانا ناجائز ہے ارشاد فرمایا: کہ بے تحقیق کسی پر حکم لگانا اگر تمہیں کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سارق ہے تو اس کو اپنے کمرے میں نہ جانے دو مگر بلا تحقیق حکم نہ لگاؤ اور نہ اسے سارق کہو، اس کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔

فضائل درود کی ایک "فضائل درود" ہر سال حضرت کی مجلس میں ایک مرتبہ حکایت پر ایک اہم تنبیہ پڑھی جاتی ہے البتہ اس سال اس میں کے لکھے ہوئے، درود شریف ہر شب جمعہ میں پڑھے جاتے تھے اور کبھی اس کے ساتھ ملا جانی "حضرت نالوتوی" کی لغت بھی پڑھی گئی، آج عشاء کے بعد کی مجلس میں "فضائل درود" کی ایک حکایت پڑھی گئی، اس میں بلند آواز سے درود شریف پڑھنے پر مغزت کا ذکر آیا تھا، حضرت نے ارشاد فرمایا، اس قسم کی باتیں دقتی ہوا کرتی ہیں، مالک کو جس ادا پر پیار آجائے بخش سکتا ہے، بعض دفعہ منہ سے کوئی جملہ ایسے اخلاص سے نکل جاتا ہے جو اللہ کو پسند آجاتا ہے اس پر معاملہ فرمادیتا ہے، اسی طرح سے اس حکایت میں بلند آواز ہوئی تھی جو اللہ جل شانہ کو پسند آگئی اور انکی مغزت ہو گئی، اس کو طریقہ دعا عادت نہ بنانا چاہیے، ویسے درود شریف جتنا وقت میسر ہو خوب پڑھتے رہو۔

فضائل درود میں ملا جانی کی لغت پڑھی جا رہی تھی، اس میں "ذخروماں چراغ افغان نشینی" آیا ہے۔ محترم مولانا منور حسین صاحب مدظلہ نے اس میں ترمیم فرمائی: "ذخروماں چراغ افغان نشینی" دو سال سے عشاء کے بعد کی مجلس میں درود و تحیات روزانہ سنانے کا معمول بن گیا ہے۔



بانیسویں مجلس

۲۲ رمضان المبارک

ذاکرین و مجاہدین کیلئے اکمالی ارشاد منہایب ارشاد الملوک امداد السلوک یہ ارشاد کا مطالعہ ضروری ہے دونوں کتابیں ذکر کرنے والوں کے لئے بالخصوص جن کو میں نے بیعت کی اجازت دی ہے بہت غمزدار سے پڑھنا چاہیے۔ میں نے اکمال کے شروع میں لکھ بھی دیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا الحاج سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ بھی اپنے خاص لوگوں کو امداد السلوک کے مطالعہ کی تاکید کرتے تھے، اس ناکارہ کے نزدیک بھی ان دونوں رسالوں کا مطالعہ ذاکرین کے لئے بہت مفید ہے، حضرت مدنی، امداد السلوک اور الاعتدال کو سفر میں اپنے کسب میں رکھتے تھے جو باتیں تم مشائخ سے اور جمعہ سے سنا چاہتے ہو وہ ان دونوں میں آگئی ہیں اس لئے اپنے سے بیعت کا حلق رکھنے والے احباب کو تاکید کرتا ہوں کہ اس ناکارہ کے فضائل کے رسالہ کو اہتمام سے مطالعہ میں رکھیں، اور ذاکرین کو ارشاد الملوک و اکمال ایٹم کو خاص طور سے مطالعہ میں رکھنا چاہئے اور جن احباب کو اس ناکارہ نے بیعت کی اجازت دی ہے، ان کے لئے حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی، نور اللہ مرقدہ کی تربیت السالک اور حضرت گنگوہی کے مکاتیب جو مکاتیب رشید کے نام سے مطبوع ہیں، مطالعہ میں رکھنا مفید ہے۔

یہاں بامقصد آنے ارشاد نہ لیا۔ یونس سلیم صاحب (جو اس وقت نائب وزیر ریلوے تھے) کے یہاں آنے سے خوشی ہوئی، اس وجہ سے نہیں کہ وزیر ہیں بلکہ وہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر کچھ کرنے کے لئے یہاں آئے تھے ایک تجربہ کی بات ہے کہ اپنے ماحول میں آدمی سے کام نہیں ہوتا یہاں رمضان میں کچھ کرنے کے لئے اگر کوئی آئے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اپنے گھر میں کام نہیں ہوتا، احتکاف بھی دشوار ہے، ضروریات لگی ہوئی ہیں کسی دن ہوئے بھائی یونس سلیم صاحب کا پیام آیا تھا کہ وہ ملاقات کے لئے آنا چاہتے ہیں، جو وقت ملے گا اس میں ملاقات کریں گے میں نے سمجھا کہ دستور کے مطابق ۱۰، ۵ منٹ کے لئے آئیں گے مگر معلوم ہوا کہ اذان ظہر سے آدھ گھنٹہ پہلے آگئے ظہر کی سنتوں سے فراغت کے بعد میں نے ملاقات کے لئے انہیں بلایا میں نے کہا کہ چنگاڑوں کی مہمانی ہے آؤ اور لٹک جاؤ، آپ چاہیں تو ظہر سے عصر تک ذاکرین کے مجمع میں بوریا پر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

بوریا نشینی کو ترجیح ارشاد نہ لیا۔ کہ دلی میں ایک مرزا ثریا جاہ رہتے تھے ہمارے اکابر سے ان کے تعلقات تھے، انہوں نے میرے دادا سے درخواست کی تھی، "میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے صاحبزادے مولوی یحییٰ سے کرنا چاہتا ہوں" میرے دادا صاحب نے کہا کہ ہم نفتراؤ کو آپ سے کیا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ مولوی یحییٰ کی پرورش میرے ذمے ہے گی، مرزا صاحب کی صاحبزادی تیسرے جہاں سے بھی والد صاحب واقف تھے، بہت حسین و جمیل تھی، جب دادا صاحب سے مرزا صاحب نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے منسوب کیا کہ مولوی یحییٰ سے پوچھ لوں۔ حالانکہ دادا صاحب جانتے تھے کہ انکار کر دیں گے، جب والد صاحب سے دریافت کیا تو والد صاحب نے فرمایا، ان سے نکاح کے بعد بوڑھے پر بیٹھنا مشکل ہے، چنانچہ نکاح نہیں ہوا، مگر وہ بے چاری میرے بڑوں اور میری بہت محسن رہیں۔ چنانچہ بچپن میں جب میں نظام الدین جاتا تو مجھ سے غیر معمولی محبت کا اظہار کرتیں انہوں نے میرے

اباجان سے کہلوا دیا کہ آپ نے مجھ سے نکاح تو نہیں کیا، اب میں مولوی زکریا سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہتی ہوں اور یہ میری انتہائی آرزو ہے والد صاحب نے اور فرمایا کہ اس سے پوچھ لوں جب مجھ سے دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ میں ان کا پانڈن کہاں کہاں اٹھاتا پھردں گا یہ میں نے اس لئے کہا تھا کہ میں نے بچپن میں ان کے گھر کا ماحول دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان میں تو عورتیں گویا ڈیڑھ خضم ہوا کرتی ہیں۔ والد صاحب میرے اس جواب کو پسند فرمایا، اور فرمایا، میرے اور تمہارے جواب میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ تمہارے جواب میں تکبر کی بوٹھکتی ہے، (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، آپ بیتی ص ۱)

یکسوئی کا رمضان ارشاد فرمایا:۔ جب سے یہاں بازار لگنے لگا مجھے اپنا یکسوئی کا رمضان اور گزشتہ سال مدینہ منورہ کا رمضان بہت یاد آ رہا ہے میں نے یہ یکسوئی رامپور سے لی ہے بڑے حضرت رامپورؒ ۲۹ شعبان کو سارے خدام سے مصافحہ کر لیتے اور بڑی معصوم ادا میں فرماتے گویا رڑ ہے ہیں کہ رمضان بعد ملاقات ہوگی۔ وہاں مجمع یہاں سے زیادہ ہوتا تھا۔ پنجاب کے لوگ کثرت سے آتے تھے پانچ سو پچھتو کا مجمع ہوتا تھا۔ حضرت جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو خدام در سے نیا ت کر لیتے، میرے حضرت کے یہاں مہمان زیادہ نہیں ہوتے تھے، حضرت تھانوسیؒ کے یہاں مجمع ہوتا تھا مگر خانقاہ سے کھانے کا نظم صرف خواص کے لئے ہوا کرتا تھا اور لوگ اپنا اپنا نظم خود کرتے تھے خانقاہ کا دستور چھپا ہوا تھا، اس میں ایک اصول یہ تھا کہ دو ڈاکرین کو مل کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں، کسی کو چائے وغیرہ کی دگرت کرنے کی اجازت نہیں تا آنکہ اجازت مل جائے مگر درخواست پر اجازت مل ہی جاتی تھی، اس لئے کہ مل کر کھانے میں دقت صنایع ہوتا، ہمارے بڑے حضرت رامپورؒ کے یہاں مہمانوں کیسے نظاری کا دستور نہیں تھا، اس کا نظم اپنے طور پر لوگ خود کرتے تھے البتہ کھانے کا اجتماعی نظم حضرت کی طرف سے ہوتا تھا، رامپور کی دل اور کھانا ایسا ہوتا تھا کہ چوتھائی پیٹ سے زیادہ نہیں کھایا جاسکتا تھا۔

دہاں حکیم امیری کی پھینکی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔
 سنا لیا: اگر کسی کو یہاں کا کھانا پسند نہ ہو تو بازار سے منگوا کر کھائے، مگر کسے دبا کے کاٹ
 نباشد" پر عمل پیرا ہونا چاہیے، دیکھو پلیرا آدھا رمضان گزر گیا اب تھوڑا سادقت باقی رہ گیا ہے۔
 بات نہ کرو۔

میرا رمضان تیس برس تک ایسا گزرا ہے کہ صرف عشا، بعد تھوڑی دیر کے لئے ملاقات ہو سکتی تھی
 اگرچہ یہ ملاقات عام ہوتی تھی اور بڑے حضرت را پورٹی کے یہاں مخصوص خدام کو عشا بعد اتنی دیر چکے،
 بیٹھنے کی اجازت تھی، جب تک کہ مولانا عبدالقادر صاحب دو ایک پنجان سادسی چائے حضرت کو
 پلاتے تھے، حضرت سبحان اللہ، الحمد للہ، کہہ کر بیٹے تھے۔ بس مجلس ختم ہو جاتی اور عمری میں حضرت کا
 ایک خدام عبدالرحیم تھا، وہ بہت اصرار کرتا تو ایک دو چوپھر فی سنی کھالیتے، لوگ کہتے ضعف ہو جانے
 کا، حضرت فرماتے، بھائی ضعف نہیں ہوگا، نمیرا بھی یہی تجربہ ہے۔
 اس کے بعد رمضان بھی بخار کی طرح آتا ہے یہ قصداً رمضان میں روزانہ ایک ستر کن
 ختم کرنے کا معمول بیان فرمایا، جن کو اس سے پہلے نقل کیا جا چکا ہے۔

دارجدید کی مسجد میں ارشاد فرمایا: میرے دارجدید میں اعتکاف کی ابتداء اس
 اعتکاف کا آغاز ۱۰ طرح ہوئی کہ جس سال ۱۰ مولانا محمد یوسف صاحب کا
 انتقال ہوا، اسی سال نظام الدین سے ۲۰، ۲۵ آدمی یہاں آئے اور کہا کہ ہم یہاں اعتکاف کرنا چاہتے
 ہیں، میں نے سہارنپور میں کبھی اعتکاف نہیں کیا تھا، البتہ نظام الدین میں اس سے پہلے اعتکاف

۱۰۰ بمبئی کے مشہور حکیم امیری صاحب کے صاحبزادے محترم حکیم سعد رشید صاحب امیری بھی
 اسال حضرت اقدس کی خدمت میں پورے ماہ مبارک کے اعتکاف کے ارادے سے حاضر ہوئے تھے اور
 پورے چھینے کا اعتکاف کیا تھا، ان سے حضرت اقدس رضی اللہ عنہم نے پہلی کانٹو کھینے کیلئے فرمایا تھا چنانچہ انکے لٹو کے
 مطابق پہلی تاریخ گئی کیونکہ اکثر لوگوں کو مددے کی خشکایت تھی حکیم صاحب کا قیام سورت میں ہے اور اس علاقے کے شہر طیبہ۔

کیا تھا۔ اعتکاف کے لئے وہاں سہولت تھی میں نے ان لوگوں سے کہا، مدرسہ قدیم کی مسجد میں، جگہ نہیں ہے تم لوگ مہمان خانہ میں رہو یا سہارنپور کے مرکز میں جا کر اعتکاف کرو مگر انہوں نے یہاں اعتکاف کرنے پر اصرار کیا اور یہ طے ہوا کہ باری باری سے اعتکاف کریں گے اس کے بعد ہم نے دارعبدید کی مسجد کو ۱۳۸۵ھ سے اعتکاف کے لئے طے کیا اس کے بعد سے یہاں اعتکاف کا سلسلہ چل رہا ہے (حق تعالیٰ شانہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے)

میرے یہاں آج سے پچیس سال پہلے پلوان اور مولوی عبداللہ کرسی والے نے رمضان میں آنا شروع کیا تھا، اور ان کے علاوہ اور کچھ لوگ آجاتے تھے، ۲۵، ۳۰، آدمیوں کا مجمع ہر سال رہتا تھا۔

شیطان کبھی اہم کام سے ہٹا کر ارشاد فرمایا:۔ کبھی کبھی شیطان آدمی کو غیر اہم چیز میں مشغول کر دیتا ہے مطلبہ و تعلیم کے زمانے میں کثرت لواقف میں مشغول ہونا کوئی اچھی چیز نہیں۔ میرے چچا جان کے یہاں نقلوں کا غلبہ تھا اور والد صاحب کے یہاں تسلیم کا غلبہ تھا۔ والد صاحب گنگوہ میں مینران سے مشکوٰۃ تک تہا مدرس تھے، طلبہ کی تعداد تقریباً اتنی تھی، بیسوں سبق خود پڑھاتے تھے اور پھر جماعت کے طلبہ کو نیچے کے اسباق دے لکھتے تھے، میرے بچپن کا قصہ ہے کہ اس نابکار کو بزرگی کا جوش ہوا، اور مزب کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ کے حجرے کے سامنے لمبی نقلوں کی نیت باندھ لی، ابا جان نے ایک زور سے تھپڑ مارا، اور فرمایا کہ سبق نہیں یاد کیا جاتا، اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا کہ خود تو پڑھی نہیں جاتی، دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے مگر جلد ہی ہی سمجھ میں آ گیا کہ بات صحیح تھی اور وہ نقلیں بھی شیطانی حربہ علم سے روکنے کے لئے تھیں۔

تیسویں مجلس

۲۳، رمضان المبارک

دعا کے درجات ارشاد فرمایا: "ارشاد الملوک" آسان ہے اور "امکال ایشم" ذرا
 اپنی ہے، امکال میں عمر کے بعد دعا کا جو مضمون ہو رہا تھا، کہ "اپنے مولیٰ سے دعا دو سوال کرنا کچھ عمدہ
 اور معتبر حال نہیں، پسندیدہ حال یہ ہے کہ تجھ کو حُسنِ ادب عطا ہو جائے"۔ اور اس کے بعد یہ عبارت
 ہے: "یسا اوقات حسن ادب عارفین کو ترک سوال کی راہنمائی کرتا ہے، اس لئے کہ قسمت ازلی پر مجبور
 ہوتا ہے، اور ذکر کی مشغولی سوال کی مہلت نہیں دیتی" الخ۔ ارشاد فرمایا: بات تو بالکل ٹھیک
 ہے، مگر لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ افضل و اعلیٰ حالت یہی ہے
 کہ ہر امر میں دعا کرتا رہے، جیسے کہ حضورؐ کی شان تھی "دعا کے تین درجات ہیں، ایک مبتدی کا
 مانگنا، مبتدی کے لئے ضروری ہے کہ خوب خوب دعا کرتے رہے اور مانگا کرے ایک متوسط کا
 درجہ ہے، ہم نے بیچین میں ایک قصہ سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خورد نے جب آگ میں
 ڈالا تو انہوں نے فرمایا: "علمہ بحالی حسبی بسوا لی: حق تعالیٰ کا میری حالت کا علم میرے
 سوال کے لئے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے یہی مناسب تھا، سب سے اونچا درجہ
 عاشق کے مانگنے کا ہے، یہ مانگنا عشق کی خوش آمد کے لئے ہوتا ہے اس میں ایک لذت و لطف کی
 شان ہوتی ہے، یہی حضورؐ کی شان تھی، حضورؐ کا عمل سب سے اونچا ہے۔"

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، صلوة الاستسقاء پڑھی گئی، مگر بارش

نہیں ہوئی کسی نے جا کر کہا کہ خلقت مر رہی ہے۔ آپ بارش کے لئے دعا کریں، انہوں نے کہا کہ میری بلا ہے۔ ہر شخص کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ناز کرنے کے لئے گلاب جیسا سبز چاہئے ہر ایک کے لئے مناسب نہیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ بعض دفعہ ایسی باتیں سنتے تھے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے جو باتیں یہ کہتے ہیں، اگر ہم کہنے لگیں تو گردن ناپ دی جائے ہر شخص کا ایک منصب ہوتا ہے ان بزرگ سے بارش کی دعا کے لئے جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میری اللہ میاں سے لڑائی ہو رہی ہے، پھر خدام سے فرمایا میری لنگی دھوپ میں لے جا کر ڈال دو وہ اس کو سوکھنے نہیں دیں گے چنانچہ خدام نے دھوپ میں ڈال دیا، ابراہیم اور خب بارش ہوئی انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے کہا تھا کہ سوکھنے نہیں دیں، بھائی محبت میں ناز و خحرے سب بر عمل ہیں اگر ہم کہیں تو مفتی کفر کا فتویٰ دیں گے

عین الرضا عن کل عیب کلیلۃ کما ان عین السخوط تبی المسایا
میرے دوستو! مالک سے مانگو اور اس طرح لقیے مانگو جیسے حضورؐ نے مانگا، خوشامد

میں لذت ہوتی ہے۔

کیمیا اگر کا قصہ سنایا۔ ہم نے ایک قصر سن رکھا تھا، ایک بادشاہ تھا اس کو کیمیا کی دھت تھی، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اس کی دھت تھی وہ راستہ چلتے زمین میں جڑی بوٹی کی تحقیق و تفتیش کرتے چلتے ہیں ان کے ساتھ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے جس کو کیمیا کی دھت ہو جاتی ہے اس کو کھلنے پینے اور کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے ایسے آدمی کی تلاش کیسے لے کہا جو کیمیا کا فن جانتا ہو، ان لوگوں نے ایک مقام کا پتہ بتایا اس کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے کیمیا کا فن آتا تو میری بیستہ حالت کیوں ہوتی؟ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آگئی چنانچہ اس نے اس کو واپس کر دیا، مگر وزراء نے کہا کہ اس کو یہ فن آتا ہے۔ بادشاہ کو کیمیا کی دھت تو تھی ہی وہ اپنا بھیس

بدل کر سقا کے گھر گیا اور اس سے ملاقات کی اور کہا کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ فلاں جگہ دیکھا تھا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اس لئے میں آپ کی خدمت کے لئے آ گیا ہوں اب سقا کے ساتھ پانی بھرنے کی خدمت انجام دینے لگا، شام کو اس نے سقا سے کہا کہ تمہارا پاؤں دبا جا رہا ہے ہوں جب پاؤں دبا نا شروع کیا تو بٹھے کو مزہ آ گیا اس نے کہا کہ میں تمہاری مزدوری دو چار آنے دینا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی غرض نہیں، البتہ اس کے اصرار کے بعد اس کے یہاں روٹی کھا لیتا تھا، اس طرح بادشاہ جینے دو جینے خدمت کرتا رہا، بے عرض خدمت کی بڑی قدر ہوتی ہے، خواہ مدرسہ کا کام ہو یا اللہ میاں کا، دو تین مہینے کے بعد سقا نے کہا کہ مجھے کیمیا کافن آتا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں حدیث میں بھی آیا ہے "ازہر فیما عند الناس یحبک الناس" جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے نیاز رہو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، جو کچھ مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا کچھ نہ لیا جائے بلکہ دنیا دانیہا سے جتنا اپنے دل کو ہٹا دے گا اتنا ہی دنیا تمہارے پاس، ذلیل ہو کر آئے گی، قرآن و حدیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے اور بزرگوں کے لطف و نعت میں بھی ہے، اس بڑھے نے کہا سیکھ لو، مگر اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں بہر حال باصرار سقا نے اس کو کیمیا کافن سکھا دیا، جب یہ سب سیکھ گیا تو وہاں سے بھاگ آیا اور یہ بڑھا اس کو گالیاں دینے لگا کہ اس نے میرے ساتھ دعا کی۔ بادشاہ نے دوسرے روز دبا کر کیا دوسپا ہی بھیج کر اس سقا کو بلایا، سقا نے پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے ہی اس فن کو کیوں نہیں بتایا، اس نے کہا حضور! کیمیا کا نسخہ پاؤں دبا کر ہی آدے: "جہانی اگر یہ اللہ کے واسطے ہو تو بہت ہی لذیذ ہے، حضور! اگر گڑھا عاشق و محبت کا تھا، خواہ وہاں سے لے یا نہ لے یہ دعا کی تفصیل ہے۔ ارشاد فرمایا۔ ان چند لائق میں اپنے واسطے مانگو، خصوصیت سے امت کے واسطے مانگو اس میں اپنی عشق بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، شیطان کے چکر میں پھنس کر اپنے آپ کو ذلیل کیا۔

چوبیسویں مجلس

۲۴، رمضان المبارک

علی گڑھ کے ڈاکٹروں کی آمد آج علی گڑھ سے وہ غیر مسلم ڈاکٹر جنہوں نے حضرت اقدس کی آنکھوں کا علاج کیا تھا، اپنے رفقاء کے ساتھ اربعے دن میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاجی نعیر الدین صاحب کے ہمراہ نیاز مندانہ حاضر ہوئے دوسرے دن واپس چلے گئے، تراویح و نماز کا منتظر دیکھنے کے لئے بیٹھے سہے، حضرت اقدس نے اپنے دست مبارک میں مسکانِ محمدی اٹھا کر انہیں بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، صرف نماز تراویح میں ایک جہینہ کے اندر تین مرتبہ یہاں ختم کی جاتی ہے، اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے۔

ارشاد فرمایا۔ آج میں نے اپنے ڈاکٹر کو رمضان المبارک کا منتظر دیکھنے کے لئے یہاں بلایا تھا۔ انہوں نے علی گڑھ میں ہماری بہت خاطریں کیں، ہم ان امیروں کو کھلا پلا کر کیا بدلہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک میڈک کسی کنوئیں میں رہتا تھا۔ اتفاقاً اس میں ایک سمندر کی ٹھیلی آگئی اس نے کہا کہ تیرا گھر بہت چھوٹا ہے، میڈک نے چھلانگ لگائی اور کہا کہ شاید تیرا گھر اتنا بڑا ہو، اس نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا ہے۔ اس نے دوبارہ دس بارہ چھلانگ لگائی اور ہر بار دو انگلی اور پوچھو جاتا اور کہتا کہ شاید تیرا گھر اتنا بڑا ہے، ٹھیلی کہتی کہ وہ تو بہت بڑا ہے ہم امیروں کی کھانے پینے سے جہانی نہیں کر سکتے اس لئے کن کے یہاں عمدہ سے عمدہ کھانا ہوتا ہے۔

میں نے حاجی نعیر الدین کو کھسا کہ تم اپنے ڈاکٹر کو یہاں لے آؤ میں انہیں ایک ایسی چیز کی سیر

گراؤں کا جو انہیں کہیں اور کوئی مسلمان نہیں دکھائے گا، مگر یہ آمد بھائی لوئس سلیم صاحب کی طرح ہر چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں کا منظر دیکھا، ذکر کا حلقہ دیکھا، بالآخر ترائیج کا منظر دیکھا، اس کے بعد یہاں سے ہو کر واپس گئے۔

سنریا، علی گڑھ میں ایک نوجوان ڈاکٹر تھا اس سے ہماری دوستی ہو گئی تھی وہ روزانہ میرا بلڈ پریشر دیکھا کرتا تھا اور دیر تک دیکھتا اور باتیں کرتا، اس نے بھی سہارنپور آنے کے لئے کہا تھا مگر کسی وجہ سے نہیں آسکا، بھائی میں علی گڑھ و مراد آباد والوں کا ممنون ہوں، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے لئے سب سے بہتر کٹرے کا گوشت ہے، اس کے بعد مرغ کا، حاجی عظیم اللہ اور نصیر وغیرہ نے مرغ کے بہت ہدیہ کئے۔ ہم تمہاری خاطر میں کھانے سے نہیں کر سکتے، ہماری خاطر یہ ہے کہ یہاں قیام کا ایک دن اور بڑھاؤ، کام اپنے ماحول سے نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔

ایک تنبیہ ارشاد فرمایا دارالعلوم و منظم العلوم کے طلبہ ڈاکٹر ڈالون کو سن کر دوڑ پڑتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس نے بلیاں پال رکھی تھیں اور ان کو خوب سدھا رکھا تھا، ایک دن بادشاہ نے بزم منشاء و قانم کیا تو ان بلیوں کو شمعیں دے دیں جب کوئی شاعر کھڑا ہوتا تو یہ نہایت بوڈ شمعیں لے کر کھڑی رہتیں۔ ایک صاحب کو ڈیپٹی سو بھی انہوں نے لا کر دو چھوڑیئے چنانچہ وہ ساری بلیاں دوڑ پڑیں اور ان کا جن منتشر ہو گیا، یہی حال ہمارا ہے جب نفس و شیطان سے کشش کا معاملہ پیش آتا ہے تو ساری بزرگی ختم ہو جاتی ہے۔

کام انہماک سے ہوتا ہے ارشاد فرمایا: بذل الجہود" کا جب میں پروف دیکھتے تھا نہ بھون جایا کرتا تھا تو وہاں ظہر سے عصر تک حضرت اقدس تھانویؒ کی مجلس ہوتی تھی اور صبح ۱۰ بجے تک ڈاک لکھا یا کرتے تھے ۶ بجے دن میں حملہ کا وقت تھا وہاں ایک لیٹر بکس تھا، تھلیہ چاہئے والے اس میں پرچہ ڈال دیتے تھے اور سردی میں بیٹھ جاتے تھے، ترتیب سے انہیں بلایا جاتا تھا اور تھلیہ ہوتا۔ ان اوقات میں کسی کو سردی میں جانے کی اجازت نہیں تھی جانے پر ڈاکٹرنٹ پڑ جاتی ایک دن موقع پا کر میں نے حضرتؒ سے عرض کیا کہ حضرت ظہر سے عصر تک پروف دیکھتا ہوں یہاں

کہ کبھی حضرت کی مجلس سے غائب رہتا ہوں اس پر حضرت اقدس نے فرمایا تم تو یہاں نہیں رہتے
مگر میں تم کو دیکھتا رہتا ہوں اس وقفہ میں ۲۵،۲۰ مرتبہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں اور رشک کرتا
ہوں کہ کام اسی طرح انہماک سے ہوتا ہے۔

سرمایہ: "بذل" کی کتابت کے زمانے میں ایک داروغہ صاحب جو میرے حضرت کی اہلیہ کے
عسزیتے تھے وہ حضرت کے پاس آئے، لمیم شمیم سوئیڈ لوٹیڈ تھے، حضرت کے قریب آکر بیٹھ گئے میں نے
موقع دیکھ کر شذرات لکھنا شروع کر دیا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ صاحب اٹھنے کے بعد مجھ پر
بہت ناراض ہوئے باہر جا کر بھائی منظر ناظم کتب خانہ سے جہان کے قریب کے رشتہ دار تھے کہا کہ بزرگوں،
کے پاس بیٹھنے والوں کے اخلاق ایسے خراب ہو کرتے ہیں بھائی منظر نے میری طرف سے صفائی پیش کی
کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت مشغول رہتا ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو آپ بیتی" صفحہ ۱۲۹ ج ۱)

یہاں کا ماحول اپنے
مقام پر قائم ہے
کے بعد اکثر لوگ شکایت لکھتے رہتے ہیں کہ وہاں سے آنے
کے بعد وہ اثرات نہیں رہے لیکن اگر یہاں کا ماحول اپنے مقام پر قائم کر دو تو وہ اثرات
باقی رہیں گے یہاں پر ماحول کا اثر ہے۔ معمولات کی پابندی ترقیات کا زینہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت
شیخ الحدیث حضرت مہارنپوری، حضرت تھانوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ ملاقات وغیرہ کے
بعد حضرت تھانوی نے ان دونوں حضرات سے اجازت لی کہ تھوڑی دیر کے لئے بیان القرآن
لکھنے جا رہا ہوں اس وقت میرا ہی معمول ہے۔ چنانچہ تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد
واپس آگئے مگر طبیعت کا بوجھ بھگا ہو گیا۔ میرا بھی صبح کا وقت ایسا ہی ہوتا ہے حضرت رجب
حضرت مدنی اور چچا جان کے علاوہ کسی اور کا آنا گوارا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رانور علی تشریف
لائے اور دیر تک ان کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اچانک سر میں درد ہونے لگا میں مجلس سے اٹھا
حضرت کا کشف مشہور تھا حضرت نے دریافت فرمایا، کہاں جا رہے ہو۔ میں نے عرض کیا، ابھی
تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں میں اٹھ کر اوپر گیا اور چند سطریں لکھیں تو سر کا درد جاتا

سہا، واپس آیا تو بصر دریافت فرمایا کہ کہاں گئے تھے، میں نے عرض کیا کہ سر میں درد ہو رہا تھا، حضرت نے فرمایا ایسا سبھی کو ہوتا ہے اپنا معمول پورا کر لیجئے میری آمد پر جب ایسا ہو تو مطلع کر دیجئے۔

حضرت گنگوہیؒ نے حضرت حاجی صاحبؒ کو ایک خط تحریر فرمایا کہ کبھی اپنے شاگرد علی محمد گنگوہیؒ سے ملنا ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ شمولیت کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

ایک آدمی میں تین اشخاص ارشاد فرمایا: یہ قے سنانے کے نہیں ہیں، لیکن اپنے قے سنانے میں ہی خیال ہے کہ شاید اللہ کے کسی بندے کو نفع پہنچ جائے، صبح کا کام اب ہوتا نہیں۔ مگر اس وقت اب بھی اگر کوئی آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ پھاڑ کھاؤں۔

مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کے ایک وکیل صاحب دوست تھے جو میرٹھ کے رہنے والے تھے وہ ایک مرتبہ کاندھلہ آئے واپسی پر مولانا احتشام نے کہا کہ سہارنپور حضرت شیخ الہند صاحبؒ سے بھی ملاقات کرتے جائیے گا، چنانچہ وہ یہاں صبح کے وقت میں آئے، ملاقات و مصافحہ کے بعد میں نے کہا کہ کہاں سے آتے ہو انہوں نے کہا کہ کاندھلہ سے، میں نے کہا کہ اس وقت تو میں بات نہیں کر سکتا، پرابھیجے ملاقات ہونگی، بڑے حضرت راہپوریؒ کے ایک خلیفہ منشی رحمت علی صاحب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مولوی کا دلغ اس وقت خوب چلتا ہے جب دسترخوان ہو کسی اور کا اور انتظام ہو مولوی کا، میرا بھی یہی حال ہے دوپہر کے دسترخوان پر میری طبیعت خوب چلتی ہے دوپہر کے کھانے میں میں نے وکیل صاحب کو بلایا، وہ آئے میں نے ان سے کہا کہ تم وکیل ہو بتاؤ اگر تم شلین دیکھنے میں مشغول ہو اور کوئی تم سے اگر بات کرنا چاہے تو خم پسند کر دو گے یہ حال دسترخوان پر ان سے خوب بے تکلفی رہی کھانے کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب عصر بعد ملاقات ہوگی عصر بعد کا منظر بھی انہوں نے دیکھا وہ دوسرے دن واپس میرٹھ گئے وہاں سے اسی دن انہوں نے مولوی احتشام کو خط لکھا، کہ آپ نے مجھے ایک ایسے آدمی کی زیارت کرائی کہ اس ایک آدمی میں مجھے تین آدمی نظر آئے۔ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ کس آدمی کے پاس مجھے صبح دیا، مولویوں کے یہاں اخلاق نہیں ہوتے، اگر دوپہر کا

وعدہ نہ کیا ہوتا تو اسی وقت وہاں سے چلا آتا مگر دوپہر کو میں نے محسوس کیا کہ میرا بہت بے تکلف دوست ہے جس سے ہمیشہ کا پلاڑنہ رہا ہے عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک تیسرا آدمی ہے جو شیخ وقت معلوم ہوتا ہے انہوں نے لکھا کہ میں آپ کا بہت مومن ہوں کہ آپ نے مجھے ایک آدمی میں تین آدمی دکھا دیئے۔

اوقات کا تعین ارشاد مندرجہ ذیل: اپنے کاموں کے لئے اوقات مقرر کرو۔ اس کے ذریعہ چھوٹے بڑے کسی کی پرواہ نہ ہونی چاہیے، بعض لوگ اخلاق کا مذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی آجائے تو اخلاق برتنا چاہیے، پس اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت تضاد حاجت کی صورت پیش آجائے تو کیا اس کا عند نہ کرو گئے؟

کیسے گلے قریب کے کیا طعن ازباہ تیرا ہی دل نہ چاہے تو باتیں ہزاریں
 یہ سکا عہد کر لو کہ معمولات کو کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ ترقیات کا زینہ ہے، ہمارے اکابر کا یہی معمول تھا۔ حضرت گنگوہیؒ سے دیکھنا شروع کیا تھا کہ حضرت کا وقت پر کیوار بند ہو جایا کرتا تھا۔
 بیہر من حسن است اعتقاد من پشت



پچیسویں مجلس

۲۵ رمضان المبارک

آج کی مجلس میں اپنی مدرسے کے ابتدائی دور اور سب سے پہلے کے سبق کا مرکز الآرار قصہ اور علی گڑھ کی ملازمت کی تجویز اور تقسیم جامدادیں بڑھانے کے سفر کے واقعات سنائے گئے آپ بیتی ۲۷ میں یہ سارے واقعات زیادہ، تفصیل سے آچکے ہیں اس لئے یہاں پر حذف کرتا ہوں، اور ناظرین اس کے لئے آپ بیتی ۲۷ کا مطالعہ کریں!!

اپنی جمنجھانہ کی جامدادی سے بے تعلقی کا اظہار
یہ واقعہ آپ بیتی ۲۷ میں نہیں آسکا ہے اس لئے اس کو نقل کر رہا ہوں۔

ارشاد فرمایا:۔ ہماری ایک بڑی جامدادی جمنجھانہ میں تھی، وہاں سے کچھ لوگ مہارنپور آئے انہوں نے بتایا کہ آپ کی ہمارے یہاں ایک بڑی جامدادی ہے جس پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ اس کی ملکیت لغتاً ایک لاکھ ہوگی ہم لوگ آپ کو تیس ہزار روپے نقد دینا چاہتے ہیں۔ اس پر تصدیق کرنا ہمارا کام ہے، آپ ماسٹر محمود صاحب کے والد وغیرہ سے ہمارے حالات کی تحقیق کر لیں صرف ایک مرتبہ بیع نامہ پر دستخط کے لئے عدالت جانا ہوگا۔ مگر میں نے انکار کیا کہ میرے بس کا نہیں، عدالت کے قضاے طویل ہوتے ہیں، مجھے اس چکر میں پڑنے کی فرصت نہیں وہ لوگ اصرار کر کے واپس چلے گئے۔

چھبیسویں مجلس

۲۶ رمضان المبارک

”آج شام کو کھانے کے وقت ایک بہت بڑا مجمع بغیر اطلاع کے آگیا تھا جس کی بنا پر اکثر قدیم حضرات اور خدام کھانے سے رہ گئے اور ان کا بعد میں نظم کیا گیا، حضرت اقدس کو جب معلوم ہوا تو نگرانی کا اظہار فرمایا:“

لایح بقدر ضرورت و بر محل ارشاد فرمایا: میں نے ایک قصہ اپنے والد صاحب اچھی چیز ہے، اور نہ بری سے سنا تھا۔ ایک صاحب بڑے عالم و بزرگ تھے انہوں نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی، اے میرے مالک! اگر تو ایک لالچ کو اٹھالے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، اسی کے سبب آدمی ملتا پھرتا ہے۔ مختلف شہروں میں تجارتیں کرتا ہے اور اس کے لئے دعائیں کراتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم خلدی میں کون دخل دینے والے؟ انہوں نے عرض کیا بیشک آپ مالک ہیں، مگر ایک لالچ ختم ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں تم سے تین دن کے لئے اٹھا لیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ پوری دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ مجھے تو آپ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے تین دن کے لئے اٹھا لینا چاہتا ہوں وہ بزرگ استاد تھے سبق پڑھا ہے تھے، مگر سے آدمی آیا کہ آج سقا پانی بھرنے نہیں آیا

انہوں نے ایک طالب علم کو سفاک کے گھر بھیجا مگر وہ کسی طرح تیار نہیں ہوا، اس کے بعد وہ دوسرے سقوں کی خوشامد کرتا رہا، مگر کوئی تیار نہ ہوا اتنے میں گھر سے آدمی آیا کہ آج بھنگن بھی نہیں آئی اتنے میں ایک آدمی اور گھر سے آیا کہ بازار میں کوئی دکاندار سامان دینے کے لئے تیار نہیں اب بہت پریشان ہوئے اور دعا کی، اے میرے مالک! ایک دن میں میں تو قبول گیا۔

تین دن تک بہت مشکل ہے۔ کیونکہ کسی کو ان سے لالچ و احتیاج نہیں رہی)

معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں، اس لئے ”اکمال ایتم“ میں لالچ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لالچ نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت اور بر عمل ہو اسی طرح غصہ بری چیز ہے، مگر اپنے عمل پر جائز ہے۔

اضافہ: امام ملازجی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ محققین نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ”اذانہ کے لئے نہیں آئے، بلکہ امامہ“ کیلئے تشریف لائے ہیں ہتسراں مجید نے ”والکاظمین الخیظ“ فرمایا، اور یہ غصے کو پنی جانے دے ہے، امام عنسانی فرماتے ہیں: ”والفاقدین الخیظ“ نہیں کہا گیا کہ ان میں غصہ نہیں ہوتا بلکہ مومنین کی شان یہ بتائی گئی کہ غصہ کی موجودگی کے باوجود وہ اس کو ضبط کرتے ہیں اور محل پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔

بھڑکتی نہ تھی خود بخود داگ ان کی
شریعت کے قبضے میں تھی باگ ان کی

جہاں کر دیا گرم گرائے وہ
جہاں کر دیا نرم نرم گرائے وہ

موسمی پھل اپنے موسم میں
نقصان وہ نہیں ہے کہ جو چیز جس موسم میں پیدا ہوتی ہے وہ اس میں نقصان وہ نہیں ہوتی۔ میری بھی یہی رائے ہے کسی موسمی چیز پر تنقید کرنا گویا تخلیق پر تنقید ہے، مالک کے ہر کام میں حکمت ہے بشرطیکہ اس کا استعمال صحیح ہو، البتہ غلط استعمال سے وہ غلط شمار کی جائے گی۔

موت کا مراقبہ میرے دوستو! دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، مگر مرنے میں کوئی اختلاف نہیں اس پر پہلا ایمان ہے مگر جو زندگی دائمی ہے اس کے لئے کام کرنے کی یہی فرصت نہیں، روٹی کے لئے وقت نکل آتا ہے مگر ذکر کے لئے وقت نہیں نکلتا، ہندوستان و پاکستان کی تقسیم نے ہمیں سمجھا دیا کہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، حج کے سلسلے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ اس میں پورا نقشہ موت کا بے کپڑے آنا کہ ایک لنگی و چادر پہنی پڑتی ہے حاجی کو کوئی اسٹیشن تک پہنچانے جاتا ہے کوئی بمبئی تک پہنچا کر واپس چلا آتا ہے، رپے پیسے جا بجا سب ساتھ چھوڑ دیں گی۔

ارشادِ سنن مایا: گھنٹہ کی آواز سن کر ایک ندا آتی ہے۔

غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی

گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھڑی

ہمیں ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے کہ عمر ختم ہوتے ہی بزرگوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سوتے وقت ہمیں اس کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ جانے والی ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے، موت کو خوب یاد کرو، حدیث میں بھی آیا ہے: اخذ کرو اهلًا من الذات "ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: تیرا، اس کو تعجب ہوا تو فرمایا تیرا نہیں تو میرا ہی ہے، بیلہ کی موت یہ ساری چیزیں عبرت کے لئے ہیں، ہم پر غفلت کے پڑے پڑے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقاق، کتاب الزہد، پڑھتے وقت دھیان نہیں کرتے، فقہی بحث تو خوب ہوتی ہے مگر ان کو یونہی اڑا دیتے ہیں، سوتے وقت آدمی کو تھوڑا سا موت کا مراقبہ بھی کر لینا چاہیے۔

ستائیسویں مجلس

۲۷ رمضان المبارک

اسباب کا اختیار کرنا ارشاد فرمایا: ایک صاحب تقسیم سے پہلے بیٹالہ توکل کے منافی نہیں میں ملازم تھے اور ہمارے حضرت راپوروی سے بیعت تھے انہیں تبلیغ سے بھی جوڑ تھا، ایک مرتبہ ایک شب کے لئے وہ میرے یہاں مہمان ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی فضائل صدقات دیکھ کر میں نے ملازمت چھوڑ دی، میں نے ان سے کہا کہ اس میں تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے ہمارے اکابر ملازمت تو چھڑواتے نہیں۔

حضرت تمھانوسی کانپور میں ملازم تھے، ان کا خط حضرت گنگوہی کے نام آیا کہ میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں تو حضرت نے منع فرمایا، دوبارہ اس سلسلہ میں پھر خط آیا، تو اس مرتبہ بھی حضرت نے منع فرمایا، میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ جب وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیوں منع فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے لکھ دو میری رائے منع ہی کی ہے، تیسری مرتبہ خط آیا کہ میں نے ملازمت چھوڑ دی اور تمھانہ بھون آگیا ہوں، اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور بڑی دعائیں دیں۔

ہمارے اکابر کہیں یہ رائے نہیں دیتے کہ مسلمان بالقصد اپنے نفس کو توکل مستحب کے امتحان میں ڈالے، ہاں جن اصحاب کی طبائع قومی پاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ مشاق و صوابا پر صبر کر سکتا ہے، اس کو اشارتاً ایسا فرمایا کرتے ہیں کہ اسباب معیشت سے مستغنی ہو کر توکل

بن کر بیٹھ جاؤ۔

ارشاد فرمایا: میرے چچا جان نے اسباب کے طور پر کبریاں پال رکھی تھیں، اتفاقاً سب مر گئیں، فرمایا مقدر کی بات اسباب اختیار کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ اس نہیں آتے! حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں اپنے اور اپنے والد صاحب کے منامات کو لکھا ہے بڑی اچھی کتاب ہے بصورت کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، اس میں چالیس منامات ذکر کئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک اسباب کی درخواست کی تو آپ نے میری طرف ایک توجہ فرمائی جس سے میرا دل تمام اسباب سے سرد ہو گیا، نہ تجارت، نہ بیوی نہ اولاد کسی سے کوئی علاقہ نہیں رہا پھر دوبارہ توجہ ٹٹلی تو ظاہر اسباب کے ساتھ باہر باطن ان سے الگ ہو گیا۔

میرے پیارے ملازمت وغیرہ ضرور کرو حکم ہے مگر دل اس میں نہ لگاؤ بلکہ تقدیر پر اعتماد کرو، اس صورت میں اگر تنخواہ کم ہوگی، جب بھی پریشانی نہ ہوگی، مالک سے مانگنے کی عادت ڈالو۔

ارشاد فرمایا: بڑوں کے زمانے میں یہ اخبارات و لغویات نہیں تھیں، اکابر کی سوانح و لفظیات خوب پڑھو، میرے لفظیات چھپوانے کے قابل نہیں جب تک کسی مفتی کو دکھانہ لو یہ کتابیں جو یہاں مجلس میں پڑھی جا رہی ہیں ان کو خوب غور سے سنو بھائی دنیا کمانے سے میں منع نہیں کرتا۔ مگر موت کا مراقبہ کرتے رہو ہمارے بڑوں نے ہی نسخہ بتایا ہے۔ غم امروزی کے بجائے غم فردا کرو، بھائی اب دو دن اور باقی رہ گئے ہیں، بچھ کر لو۔

کاروبار زندگی میں مشغول رہ کر ارشاد فرمایا: ”مترقاۃ شرح مشکوٰۃ“ میں ملتا بھی آدمی ولی بن سکتا ہے علی قاری نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ حج کو گئے وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر زارت قطار رٹ رہا ہے یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قلب کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ایک لمبے کے لئے بھی اللہ سے واصل نہیں تھا۔ اس کے بعد بتی گیا۔ ایام معنی تاجسوں کی شدید مشغولیت کے ہوتے ہیں وہاں میں

نے ایک تاجر کو دیکھا کہ اس نے ہزاروں کاکپڑا فروخت کیا جب میں اس کے قلب کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنی اس مشغولیت میں بھی ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ سے غافل نہیں تھا۔
 ارشاد فرمایا: ایک مرتبہ میرے حضرت "بنل" لکھو لے ہے تھے میرا ذہن کہیں اور تھا۔ فرمایا
 "من باتو مشغول و تو با عمر و زید"۔ میں پانی پانی ہو گیا۔

سنا دیا۔ تقسیم سے پہلے یہاں سہارا نپور میں ملائی میں کثرت سے فتنہ رات آتے تھے اور عجیب
 عجیب صدائیں لگاتے تھے میں اس زمانے میں رمضان میں سویا نہیں کرتا تھا اب تو معدودہ ہوں معلوم
 نہیں وہ کہاں گئے ان کی صدائوں میں کبھی بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔
ذکر اگر آداب سے کیا جائے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ذکر یا لہجہ افضل ہے، یا ذکر
تو رذائل دور ہو جائیں گے بالسر؛ جواب میں ارشاد فرمایا۔ میرے نزدیک وہی
 افضل ہے جو میں کرتا ہوں، میری بات یاد رکھو، اندر سے جوڑ لگاؤ اسی کو نسبت کہتے ہیں، اسی کو
 یادداشت کہتے ہیں۔

از در دوں شوا آشنا و از بیرون بے گانہ شو

ہمارے اکابر کے یہاں تو یہی ہے کہ ذکر اگر پوسے آداب سے کیا جائے تو سارے رذائل
 خود بخود نکل جائیں گے، پہلے زمانے میں ایک مدت دراز تک رذائل کو رذائل کہنے میں وقت
 صرف ہوتا تھا اس کے بعد ذکر بتایا جاتا تھا۔ مگر حضرت حاجی صاحب اور ہمارے اکابر نے دیکھا
 کہ اتنی طویل مدت کا صرف کرنا موجودہ دور میں مشکل ہے اس لئے پہلے ذکر ہی تجویز کرتے تھے،
 بشرطیکہ ذکر ذکر ہوا، ذکر کے مختلف درجات ہیں اسی اعتبار سے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔

آج تراویح کے بعد حدیث مسلسل "باتر و المار" کو پڑھ کر لوگوں کو اجازت مرحمت فرمائی اور جمع
 میں پھارے تقسیم کئے گئے۔

اٹھائیسویں مجلس

۲۸ رمضان المبارک

سہارنپور کی دینداری ارشاد منسرایا :- میری نوجوانی میں ایک ستیاچ کلکتہ سے چلے۔ تیرہ ماٹھ سال ہوئے ہوں گے ان کا سہارنپور بھی اترا تھا وہاں انہوں نے اتر کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ نام تو میں نے نہیں سنا تھا مگر اسٹیشن پر چاروں طرف داڑھیاں ہی داڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ مکہ ہے لوگوں نے بتایا کہ اس کے چاروں طرف اکابر کی خانقاہیں ہیں۔ گنگوہ، تھانہ بھون، ولیو بند وغیرہ اس پر یہاں سے جا کر اس نے ایک مضمون لکھا تھا، کہ میں نے ہندوستان میں بھی ایک مکہ دیکھا ہے۔ میرے بچپن میں غیر مسلموں کو بھی رمضان المبارک میں راستے میں کھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ کچھ بھاری کے حکام پنچ وغیرہ پر دے میں کیا کرتے تھے اس قدر رمضان کا احترام تھا، مولوی منبعت علی صاحب وکیل تھے اور میرے ابا جان کے شاگرد تھے اخیر میں مفتی محمود صاحب سے ہا یہ پڑھی تھی۔ مجھ سے بہت اچھے تعلقات تھے انہوں نے مجھے ایک زور دار خط لکھا کہ آپ کا گھر سہارنپور میں مارے باغیوں کے ٹھیرنے کی جگہ ہے حضرت مدنی، مولانا عطاء اللہ شاہ بھاری وغیرہ سب یہیں ٹھیرتے تھے وہ زائد انگریزوں سے سخت مخالفت کا چل رہا تھا، انہوں نے اپنے خط میں سیاست کے بارے میں میری رائے معلوم کی تھی، میں نے ان کو خواب دیا کہ سیاست تو میں جانتا نہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ جس شہر کو لوگ کہ سمجھتے تھے، وہاں طاقت کے زور سے دین مٹایا جا رہا ہے اور جہاں اپنی حکومت ہے وہاں اپنے ہاتھوں سے مٹایا جا رہا ہے ایک

صاحب بنارس سے پیدل حج کے لئے روانہ ہوئے اور یہ طے کیا کہ ہر چند قدم پر دو رکعت نماز پڑھوں گا ان کا کراچی تک جانا تو معلوم ہے اس کے بعد کی خبر نہیں وہ جہاں قیام کرتے وہاں ان کے اعتراضات کے لئے آتے رہتے وہ سہارنپور آکر ٹھہرے تو ان کے ایک عزیز جو باہر تھے وہ آگرہ سے ملاقات کے لئے آئے انہوں نے سہارنپور کے کسی حجام سے داڑھی مونڈنے کے لئے کہا تو اس نے کہا کہ آج تک تو میں نے کسی کی داڑھی نہیں مونڈی،

سنایا۔ غبر سے کئی حجام بیعت تھے جنہوں نے داڑھیاں مونڈنا چھوڑ دیا۔ دین اگر پکا ہو جائے تو سب آسان ہے۔ یہ سکھ اپنی داڑھیاں چھوڑتے ہیں اور اسلام میں تو یہ شکر میں داخل ہے۔ سکھوں کے بارے میں ہم نے تو یہ نہیں سنا کہ ان کے کسی افسر نے داڑھی مونڈی ہو۔

حضرت گنگوہی کا نماز عید ارشاد فرمایا:۔ میں نے حضرت گنگوہی کے بچے عید کے لئے تشریف لے جانا بلکہ نماز پڑھی ہے۔ حضرت عید گاہ باللی پر تشریف لے جاتے حضرت شیخ الہند بھی باللی اٹھانے والوں میں شامل ہوتے، حضرت مجھے بھی اپنی باللی پر تھاکر لے جاتے تھے، حضرت کاسمید عمامہ اور چو غاڑا ہی عجیب معلوم ہوتا۔ بعضوں پر لباس سجے اور بعض پر نہیں۔ شایع پر خوب سمجھا تھا۔ حضرت تھانوی کو دیکھا۔ بڑے حضرت رائے پوری اور حضرت جھوٹے زائید جی کو دیکھا۔ جمال اندر کی چیز ہے جو مباحث سے چمکتا ہے، صاحبین پوچھنے سے جمال بہت آسان ہے۔ حضرت مدنی کے ساتھ اکثر میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے۔ جب وہ خطبہ کے لئے منبر پر تشریف لے جاتے تو بہت بھلا معلوم ہوتا۔ متبنی کا شعر ہے۔

حسن المحاضرة محبوب بتطیلت

رفق البدن اذہ حسن غیر محبوب

شہر کا حسن بناوٹ کا اور دیہاتی حسن قدرتی ہوتا ہے۔ اللہ کا جھہرہ یہ کرم ہے کہ بزرگوں کو اور ان کے آپس کے تعلقات کو خوب دیکھا،

حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی ارشاد فرمایا۔ مولانا عمران خان بھوبلی کی سہارنپور تشریف آوری، صاحب کا بھوپال سے نصف خط

آیا کہ حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی ضرورت سے سہارنپور آنا چاہتے ہیں حضرت کے وہاں
 عزیز واقارب بھی ہیں اور معتقدین بھی ہیں لیکن حضرت اپنی بعض مصالح کی بنا پر وہاں قیام
 کا ارادہ نہیں رکھتے اور مدرسے میں قیام چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے کا انتظام حضرت خود
 فرمائیں گے، آدمی اپنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے جو چاہے، جب چاہے کھائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ میں
 آپ کی جانب سے نیابتاً دو کالٹا پیشکش کر چکا ہوں، مگر حضرت نے بنبر اس شرط کے قیام منظور نہیں
 فرمایا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور نہ ہو تو قیام کا کہیں اور انتظام کیا جائے، میں نے اس کے جواب
 میں لکھا کہ سر آنگھوں پر ضرور تشریف لائیں، لیکن میری طرف سے درخواست ہے کہ اس شرط پر نظر ثانی
 کی گنجائش ہو تو ضرور فرمائیں، ان کا جواب آیا کہ اس پر نظر ثانی کی بالکل گنجائش نہیں۔ میں نے
 لکھا کہ ضرور تشریف لائیں اور جو شرطیں حضرت منظور فرمائیں۔ اس زمانے میں مدرسہ کا جہان خانہ یہ
 بڑا کمرہ نہیں تھا بلکہ اس کے بالمقابل کے کتب خانہ کا چھوٹا کمرہ جہان خانہ تھا جو اب کتب خانہ کا جزو
 بن گیا۔ اس میں حضرت اقدس راجپوریؒ کا قیام تھا۔ مولانا عمران خان صاحب کا تارا آیا کہ کل حضرت
 صاحب پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اس تار پر مجھے سناٹا سا آگیا اس لئے کہ جہان خانہ کا وہی ایک کمرہ
 اور اس میں حضرت راجپوریؒ کا قیام، حضرت سے یہ کہنا کہ تشریف لے جائیں ایک بہت اہم جہان
 آر ہے ہیں بہت مشکل اور حضرت شاہؒ کی آمر پر ان سے یہ عرض کرنا کہ آج تو جہان خانہ خالی نہیں۔
 مدرسہ کی سہ درسی میں قیام کریں، کل شام تک خالی ہو جائے گا، اس سے نامہ دشوار، لیکن یہ ناکارہ حضرت
 راجپوریؒ کے کشف و کرامات کو بار بار دیکھ چکا تھا۔ حضرت نے اگلے دن صبح کو از خود کہا کہ اجازت ہو تو
 آج واپسی کا خیال ہے حالانکہ وہ دن حضرت راجپوریؒ کے قیام کا تھا۔ تین دن کے ارادے سے تشریف
 لائے تھے، حضرت کے اس ارشاد پر غیرت کے ساتھ ہنسی آگئی اور میں نے کہا کہ حضرت ضرور تشریف لے
 جائیں، حضرت نے ضرور اور ہنسنے کی دج لو چھی، تو میں نے سداقتہ سنا دیا۔ حضرت نے تھوڑے سے
 ٹکڑے ناچہرے سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سے کیوں تکلف کیا۔ مجھ سے بے تکلف کچھ دینا چاہیے تھا۔
 چونکہ تار میں کسی طریق کی تعین نہیں تھی اس لئے اسٹیشن پر کوئی نہ جا سکا کہ وقت معلوم نہ تھا۔ لیکن کھانا

مرح اور بے مرح دونوں طرح کا دوا آدمیوں کے بقدر تیار کر لایا۔ ظہر تک انتظار رہا، جب میں ظہر کی نماز پڑھ کر واپس ہوا، اس زمانے میں جلدی سے مسجد سے آنا ہوتا تھا تو مولانا سیدی صاحب کھنجاڑ مسجد کے در میں ملے، ان سے پہلے کی واقفیت تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا قیام بھوپال میں ہے۔ ان سے مصافحہ پر میں نے حضرت شاہؒ کے متعلق دریافت کیا انہوں نے کہا کہ تشریف لے آئے مسجد میں ہیں، میں صاف پوچھ گیا، حضرت شاہ صاحبؒ سے نماز سے فراغت کے بعد اٹھ کر مصافحہ کیا، مصافحہ کے بعد میں نے عرض کیا کہ کھانا تو نہیں کھایا یہ بات میں پہلے مولانا سیدی صاحب سے معلوم کر چکا تھا، حضرتؒ نے فرمایا کھایا تو نہیں ہے مگر ابھی کچھ رغبت بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ظہر تک اگر رغبت نہیں ہے تو پھر لب ہوگی، جناب کی شرط کے خلاف تو ذرا صبر نہیں، لیکن ہم طالب علموں کو تکلف تو آتا نہیں، بے تکلف عرض ہے کہ کھانا پر ہمیری دے دے پر ہمیری یعنی مرح دے مرح کا تیار ہے جو میں نے احتیاطاً تیار کر لایا تھا۔ حضرتؒ نے کچھ سکوت فرمایا۔ میں نے مولوی سیدی سے کہا کہ تمہاری تو کوئی شرط نہیں، تم تو کھالو اور حضرتؒ کو رغبت ہوگی تو ایک آدھ لقمہ نوش فرمائیں گے۔ مجھے اس وقت کا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قسم سے زائد ضحک آمیز فقرہ خوب یاد ہے، کہ بہت اچھا۔ تو میں نے دوسرا قسم دہی بیٹھے بیٹھے کہا کہ حضرت دوسری درخواست اور ہے کہ میرے پال تو اس وقت حدیث پاک کا سبق ہے یہ مولوی شفیق گنگوہی شہم بھوپال ان سے آپ بھی واقف ہوں گے اس وقت ان کا قیام سہارنپور میں مستقل تھا اور حضرت شاہ صاحب کے متقدّم تھے، یہاں موجود ہیں حضرت تو مہمان خانہ تشریف لے چلیں یہ مولوی شفیق صاحب دہی کھانا لاکر حضرت کو کھلا دیں گے۔ انشاء اللہ عصر بعد نماز کا اس پر حضرت نے بہت اظہارِ مسرت فرما کر بہت اچھا بہت اچھا فرمایا اور یہ بھی منسپایا، ایسی بے تکلفی بہت اچھی۔ میں مولوی شفیق کو ساتھ لاکر ان کے ہمراہ دونوں طرح کے کھانے روانہ کر کے اپنے کام میں لگ گیا، حضرت نے کھانا کھا کر آرام فرمایا، عصر میں ملاقات ہوئی میں نے تحقیق کی حضرت نے کچھ کھوایا یا نہیں معلوم ہوا کہ چونکہ ظہر کے بعد کھانا ہوا تھا اس لئے اس وقت رغبت نہیں ہے اس وجہ سے اس وقت کوئی انتظام

نہیں فرمایا، عصر کے بعد چائے کی مجلس میں شرکت ہوئی، کچھ میرے گستاخانہ فقرے کچھ حضرت کے شفقت آمیز فقرے ہوتے رہے۔ مزہب کے قریب میں نے عرض کیا حضرت میرا معمول سالہا سال سے صرف ایک وقت کھانے کا ہے، شام کو تو رہے نہیں اس لئے صبح کو انشاء اللہ آپ کی معیت میں کھاؤں گا اور اس وقت مجھے تو مشغولی ہے اور آپ کو بھی اپنے اور اور وظائف میں مشغولی ہوگی، اس لئے اور پر تشریف لے جائیں، میں تھوڑا سا کھانا بھائی بھائی کی نیت سے صبح دوں گا۔ آپ کو، خواہش ہو تو آپ بھی نوش سہا لیں، اس پر پھر تبسم فرمایا اور اور پر تشریف لے گئے، میں نے حسب معمول بروسی شفیق کے ہاتھ کھانا بھیج دیا، معلوم نہیں نوش فرمایا یا نہیں نوش فرمایا۔ میں نے پھر دریافت نہیں کیا۔ صبح کی چلے میں میں نے حضرت کے لئے دو انڈے بنوائے، حضرت نے انڈوں کے خلاف بڑا زور دیا و معظ فرمایا میں نے وہ رکابی اٹھا کر اور چھپے سے لے بٹاتے ہوئے عرض کیا کہ یہ قول شاذ ہے، اطباء لیزان لڈاکٹر مریویہ تیمک والے اجما عاً اس کے کھانے پر متفق ہیں، چائے سے فراغ کے بعد میں نے کہا کہ حدیث کا ارشاد ہے "الضیافۃ ثلاث" لہذا تین دن تو آپ بمقتلئے حدیث آپ میرے مہمان ہیں، اس کے بعد آپ آزاد مہموں کے حضرت بہت ہنسے اور فرمایا "میں نے پہلے ہی سے سن رکھا تھا، تقدیر ہی ہوگئی" ایک ہفتہ سے ناہ حضرت کا قیام رہا اور میرے مہمان رہے۔ دوسرے دن سے میرے سبق کے اندر بھی بہت اہتمام سے تشریف لے جانے لگے۔ یہاں یہ حضرت کی طبیعت ایسی لگی کہ جانے کے وقت فرمانے لگے، آپ کے پاس سے جانے کا بھی نہیں چاہتا، اسباق میں بھی بہت دعائیں دیتے اور سرت کا اظہار فرماتے یہاں کے تشریف بری کے بعد ابتداء بہت سے خطوط بلانے کے آتے رہے۔ مگر مقدر کی حاضر می نہ ہو سکی اور حضرت کا وصال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی ارشاد فرمایا: مجھے مولانا مناظر احسن گیلانی سے ایک ملاقات،

کی زیارت کبھی نہیں ہوئی مگر ان کا اسم گرامی کثرت سے سنتا رہا۔ اور ان کے علمی و تالیفی حالات بھی مجھے معلوم ہوتے رہے وہ دارالعلوم دیوبند

کے نمبر تھے اور مجلس شوریٰ میں ہمیشہ تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ناظم صاحب مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے پاس آدھی پونچھا کہ مولانا مناظر احسن حیدرآبادی تشریف لائے ہم نے میں اندر وہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان کا نام سن کر بہت فرحوب ہوا ملاقات کا بالکل جی نہیں چاہتا تھا اس لئے کہ میں بڑے آدمیوں سے ملاقات کرتے ہوں ہمیشہ گھبراتا رہا لیکن چونکہ پیام یہ تھا کہ وہ تجھ سے ملنے آئے ہیں اس لئے فوراً حاضر ہوا مولانا مرحوم نے بڑے تپاک سے اٹھ کر مصافحہ و معالقبہ کیا اور فرمایا کہ "تجھ سے ملنے کا کئی سال سے بہت ہی اشتیاق تھا، اس لئے کہ میری جسمانی ملاقات اگرچہ کہ نہیں ہوئی مگر روحانی ملاقات روزانہ ایک گھنٹہ ہمیشہ رہتی ہے جب ۔۔۔ اللوکب الدردی طبع ہوئی ہے۔ ترمذی پڑھانے کے لئے ایک گھنٹہ اس کا مطالعہ بہت اہتمام سے کرتا ہوں گویا آپ کی مجلس میں رہتا ہوں۔ یہ کتاب طالب علموں سے زیادہ مدرسین کے لئے زیادہ مفید ہے۔ ترمذی پڑھانے والے کئے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں، اھ بلکہ جہاں تک یاد ہے ایک دو گھنٹہ کے بعد چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر ڈیڑھ بجے وہ آئے تھے اور ۶ بجے واپس دلیر بند تشریف لے گئے۔



انتیسویں مجلس

۲۹ رمضان المبارک

یہاں کے اثرات کو
بانی رکھنے کی صورت اور بار بار کہتا رہا ہوں اور اہتمام سے کہوں بھائی دیکھو جہاں

میں نے نسبت کی چار تہیں بتائی تھیں ان میں ایک نسبت انوکھی ہے جو بہت جلد غائب ہو جاتی ہے یہاں سے جانے کے بعد دو تین مہینے تک کثرت سے خطوط آتے رہتے ہیں اور ان میں قدر شکر کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں رہنے کی جو برکت تھی وہ اب معلوم نہیں ہوتی، یہ احوال کا اثر ہے۔ میرے پیارے امیرے معمولات بہت محدود و مختصر ہیں، زیادہ نہیں وہ اگر پابندی سے کرتے رہو گے تو ان کا اثر وہاں بھی معلوم ہو گا میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ بے ضرورت بات نہ کرو، تو اصلاً ارشاد فرمایا۔ اپنی حالت مجھے معلوم ہے، بھائی افضل رائے پور گئے تھے، معلوم ہوا کہ وہاں حافظ عبد العزیز صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ رمضان میں انتہائی مشغول رہتے ہیں اس سے خوشی ہوئی، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ رمضان پوری کیسویں سے گزارو اگر پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہو تو میں نے اجازت دے رکھی ہے ایک صاحب نے اس پر اعتراض کیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بخاری کی حدیث سے حضور نے دس دس دن کے اعتکاف کی نیت شب قدر کے تلاش میں کی تھی، حضور کی اتباع کرو کہ دس دس دن کی نیت کر لیا کرو۔

میں خواہشمند ہوں کہ اجازت نہیں دیتا ارشاد فرمایا: ابتدائی نسبت انوکھی تو بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے، اگر اجازت کے بارے میں ایک اصول ہے جو اپنے واردات بتاتا

ہے اور اس کا خواہشمند ہوتا ہے اس کو میں اجازت نہیں دیتا، خواہ اس کے حالات کتنے ہی اچھے ہوں، حدیث میں بھی آیا ہے "انلاقول من طلب منکھ الامارۃ" جو امارت کا طالب ہو میں اس کو امیر نہیں بناتا، میں نے اپنے اکابر کی پانچ بیڑھیاں دیکھی ہیں، حضرت گنگوہیؒ سے لے کر اب تک کے حضرات کو دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا جن صاحب کی اجازت میں خواہش کا شائبہ بھی شامل رہا ان کی بات نہیں چلی اور جن پر اجازت نہ ہوئی گئی ان سے خوب کام ہوا۔

"خطائے بزرگاں گرفتن خطا است کا مطلب ارشاد منسٹریا بٹن کی چیزوں پر اعتراض نہ کرو، اگر تمہاری عقل مانے تو مان لو اور نہ ان کو اللہ کے حوالے کر دو، جن کو اجازت دہی گئی اور جس بزرگ نے اجازت دہی وہ دونوں ذمہ دار ہوں گے۔ اس طرح کے بجا سوالات سے نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا، ایک بزرگ تھے وہ مخلوق سے بھاگتے تھے یہاں تک کہ بالآخر وہ عاجز آگئے اور ان کے ارد گرد کافی عجم جمع ہو گیا اور زمانہ بڑھتا رہا ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ میرے حجرے کے قریب کوئی نہ آئے چاروں طرف اس کی اطلاع کر دہی، خدام کو منع کرنے سے اور تحقیقات کی دلچسپی ہوتی ہے، چنانچہ ۱۲ بجے شب میں ایک عورت نہایت حسین و جمیل آئی تو ان کے حجرے کے کیوار خود بخود کھل گئے، وہ اندر داخل ہوئی اور کیوار بند ہو گئے۔ باہر ایک شور و ہنگام برپا ہو گیا، ہم نے لیگ دکا ٹرکیس کے دور میں دیکھا ہے کہ ایک ہی آدمی کے بارے میں زندہ باد و مردہ باد کے نعرے بدلتے رہے بہر حال ان بزرگ نے صبح کے وقت کیوار کھولے تو سارا مجمع منتشر ہو گیا تھا، صرف ایک آدمی رہ گیا تھا، اس نے کہا حضرت میں نے آپ کے لئے پانی گرم کر رکھا ہے، ان بزرگ نے دریافت کیا، کہ تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پیر بنا کر رکھا ہے، نبی نہیں بنایا! اس کے جواب سے وہ بہت خروش ہوئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو اجازت دے دہی، اجازت میں تعلقات کو بھی دخل ہوتا ہے ان بزرگ نے کہا کہ عجم بہت تمہا میں نے دنیا سے کہا کہ تم اس صورت میں میرے پاس آ جاؤ وہ آگئی تھی دنیا کے عورت کی صورت میں آنے کے بہت سے قصے ہیں، مفتی صاحب کے ڈر سے بعض قصے نہیں سناؤ۔

جو دنیا سے تعلق رہتا ہے ارشاد فرمایا۔ ایک سیاح تھا۔ وہ سیاحت کرتا ہوا
 اسکے پاس یہ ذریعہ ہو کر آئی ہو ایک جنگل بیابان میں پہنچا وہاں ایک مسجد تھی،
 اس کے تینوں کونے پر تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے، یہ جا کر چوتھے کونے پر بیٹھ گیا اور ان لوگوں کی
 فریخت کا انتظار کرتا رہا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور خوب بھوک لگی تھی اتنے میں ایک خوبصورت عورت،
 (دنیا) جو عورت کی صحبت میں آئی، کھانے کا خزانہ سر پر لے گئی، اس عورت نے اگر تین خزانوں مسجد
 کے تینوں کونوں پر لا کر رکھا، کھانے کی خوشبو پوری مسجد میں پھیل گئی، اس نے ہر ایک کے سامنے لپیٹ پیالے
 وغیرہ لگائے اور ہر ایک سے خوشام کرتی رہی کہ حضرت کھانا کھالیں مگر کوئی متوجہ نہیں ہوتا تھا، اس آدمی
 کو تعجب ہوا تھا کہ کیا بات ہے، بہت خوشام کے بعد مہر ایک کا ہاتھ دھلایا۔ پس ان لوگوں نے
 کھانا شروع کیا اور تھسی نکال نکال کر اس عورت کے منہ پر پارتے جاتے تھے اس نے اپنے دل میں کہا
 کہ ایسا کیوں ہوا ہے مگر جہنمی ہونے کی وجہ سے خاموش رہا چنانچہ ان تینوں نے کھانے سے فریخت حاصل
 کی تو اس عورت نے ان کے ہاتھ دھولے اور نہایت عمدہ نکال کے ان کے ہاتھ صاف کئے اس کے بعد وہ اس
 آدمی کے پاس آئی اور کہا کہ کھانا کھا لو اور جلدی کرو اس نے بھی ہلکی سے اس عورت کو مارنا شروع کیا تو
 اس نے طمانچہ کھینچ کر اس کو لنگایا تو سیاح نے کہا کہ یہاں کا یہ دستور نہیں ہے، اس عورت نے کہا کہ میں
 ہوں دنیا، یہ لوگ مجھ سے بے تعلق تھے۔ اس لئے مجھے ان کی خوشام کرنی پڑی، اور تم شروع سے گھوڑے
 تھے اس لئے تمہارے لئے یہی ہے (حدیث میں دنیا کے عورت کی صورت میں آنے کا ذکر ہے)
 اس نے کہا، کہ چونکہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوئے، اس لئے ان کی برکت سے یہ بھی اس طرح
 مل گیا ورنہ تجھے کوئی نہ پوچھتا، ہم القوم لا یشقن بہم حلیسم۔ نے خانے کا غروم بھی غروم
 نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال عطر فروشن کی طرح
 ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے اور برے ہنشین کی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی بھٹی جھلانے والے کے پاس بیٹھے یا تو وہ تمہارے کپڑے جلائے گی یا تم اس کا دھول پانگے

تیسویں مجلس

یکم شوال - عید مبارک

عید کی نماز کا اعلان: ۲۹ رمضان المبارک کو رویت ہلال کا ثبوت ہو گیا۔ اس لئے اعلان کیا گیا کہ یہاں مسجد میں عید کی نماز ۷ بجے ہوگی، اور عید گاہ میں ۱۱ بجے ہوگی۔ ارشاد فرمایا: ایک زمانہ ایسا تھا جب کہ میری عمر ۸ سال کی تھی، عید کی خوشی دو تین دن پہلے سے شروع ہو جاتی تھی، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ تمنا رہتی ہے کہ کاش ۲۹ کے بجائے ۳۰ کا چاند ہو جاتے، حج سے فراغت کے بعد لوگوں کو گھر بہت یاد آتا ہے، وہاں میں نے بہت سہمایا کہ یہاں کے ایام کو غنیمت سمجھو، مگر منیٰ سے واپسی کے بعد واپس جانے کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، وہی منظر آج یہاں ہے۔

مولانا نور محمد صاحب ام المجلد کے ناظم اعلیٰ تھے، وہ رات پور رہا کرتے تھے کہ گوٹھے، مگر بات میں مسخوین تھا وہ اگر بڑے حضرت لام پوری کو منا جاتے، کہ فلان نے چاند دیکھا، اور فلان نے دیکھا، دس بارہ آدمیوں کے نام گنا جاتے، حضرت فرماتے کہ تم نے بھی دیکھا تو کہتے نہیں **مرنی حقیقی حق تعالیٰ ہے** ارشاد فرمایا: حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ **شیخ صرف سبیلہ ہے** نے جس وقت تھا نہ بھون میں قیام فرمایا، اس وقت وہاں سہ درہ نہ تھی، حضرت میاں جیو نور محمد چھنجاوی قدس سرہ العزیز بھی وہاں تشریف لایا کرتے تھے، وہاں ایک خاندان تھا ان کی زمین ضبط ہو گئی تھی، اور وہ لوگ شش کر رہے تھے حضرت

میاں جیو کے پاس وہ لوگ دعا کے لئے آئے، تو حضرت میاں جیو نے فرمایا، کہ میرے حاجی کو بیٹھنے کی تکلیف ہے، یہاں ان کے لئے سہ دری بنوادو میں دعا کروں گا، انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا، وہ مقدمہ الہ آباد میں جا کر موافق ہو گیا، جس کی اطلاع ایک خاص خط سے ہوئی، انہوں نے حضرت میاں جیو سے ناز کرہ کیا، تو حضرت نے فرمایا، کہ وعدہ بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت سہ دری بنوانے کی قوت نہیں، آدمی بنوادیں گے، حضرت نے فرمایا، بہت اچھا آدمی ہے، پھر الہ آباد سے ہاضابلہ حکم آئی، تاحیات تو معاف تمہارے بعد پھر ضبط، پھر انہوں نے آکر حضرت سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا تمہیں لے نو آدھا کیا ہے، میں کیا کروں؟

فرمایا ان عندنا عبدی، کے مطابق اللہ جل شانہ معاملہ فرماتے ہیں، پیر بھی کچھ نہیں، تربیت کرنے والا اللہ ہے۔

دیور حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہوتی کیا ہم کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

بیعت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب میں تربیت کا سبب بنایا ہے، حق تعالیٰ ہر ایک کی تربیت کرنا چاہیں، وہ دین و دنیا دونوں دینا چاہتے ہیں، خوب مانگو، اس کریم کے ہاں کمی نہیں۔

اخلاص و خوشامد سے مانگنے کی لذت فرمایا: حق تعالیٰ بے حساب دینا چاہتا ہے

دعا کا نِعْمًا دیکھنا محض دریا کی مٹی سے لے کر بادشاہ کا قصہ سن چکے ہو، اخلاص و خوشامد سے مانگنے میں لذت ہے، تبلیغ والوں کی ان باتوں کا میں مخالف ہوں، جو یہ کہتے ہیں، کہ ایک چلہ لگا دو تو فلاں کام ہو جائے گا، یہ کہو کہ اخلاص سے کام کرو، پھر دیکھو۔

ایک مولوی صاحب کہیں وعظ کے لئے گئے، انہوں نے اپنے وعظ میں کہا، وہ دریا ستر و آخرت

اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پردس گنا بارہ دینا میں اور ستر گنا آخرت میں ملتا ہے، بھائی ہم مولویوں

کی صورت بھی صورت سوال ہے، ایک غریب آدمی تھا، اس نے محنت و مشقت سے ستوروپے اکٹھا کئے

تھے، اس نے پوری رقم لاکر مولوی صاحب کو دے دی اور واپس جا کر منتظر رہا کہ کب ایک ہزار ملتے ہیں

رات میں جہاں ذرا کھٹکا ہوا، وہ سمجھتا کہ شاید کہیں سے کوئی رقم لارہا ہے۔ بالآخر صبح ہوئی، اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور ہڑکی شکایت ہو گئی، دست آنے شروع ہو گئے، شام تک یہی حالت رہی چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اس دعوے مولوی کو بہت برا بھلا کہا، مولوی صاحب یہاں سے دغظکام کر آگے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے گھروالوں سے کہا، مجھے جنگل میں ڈال دو، چنانچہ ڈال دیا گیا۔ وہاں وہ ڈھیلے سے استنجا کرتا رہا اور ریت سے کھڑج کھڑج کر ٹھیکے نلاش کرتا رہا، بالآخر اس کو ایک موٹا ٹھیکہ ملا۔ اس کو کھودنے میں ایک آواز سی آئی۔ اس کو سن کر اس کے جان میں جان آئی، اور کھودا تو اس کو روپے کی ایک ہانڈی مل گئی۔ اس میں ایک ہزار روپے تھے۔ بہت خوش ہوا، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مولوی صاحب دغظ کہنے آئے، تو اس نے ان سے کہا، مولوی جی! تمہاری بات تو سچ ہے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا تھا، کہ اس راستے میں اس قدر مصیبت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے؟

روپے کا نشہ ارشاد فرمایا: بتورپے میں ایک بوتل شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایک جام تھا، وہ ایک بادشاہ کی حجامت بنانے کے لئے اس کے سر پر لے بیٹھا اور کچھ منٹا رہا تھا کہ گھر کے گھر ہی میں ہو جائے میرا لڑکا اور ان کی لڑکی، یعنی دونوں کی شادی ہو جلتے، بادشاہ کو سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا کہ اس جام کو پھانسی دی جلتے۔ ایک تجربہ کار وزیر نے کہا، کلا بھی اس کو سزا نہ دیں، دوسری جگہ بیٹھ کر حجامت بنوائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ تو یہ جام خاموش رہا۔ اس کے بعد پھر اس وزیر نے کہا کہ اب پہلی جگہ تشریف لائیں، وہاں بیٹھنے کے بعد وہی قصہ پیش آیا۔ اس وزیر نے کہا کہ آپ کے سر پر لے خزانہ پوشیدہ ہے، یہ اس پر بیٹھنے کا اثر ہے۔ چنانچہ اس جگہ کی کھودائی ہوئی، تو خزانہ برآمد ہوا۔

ارشاد فرمایا: جو کچھ آخرت کے نیک میں جمع کرنا ہے، جمع کر دو، یاد نظر رہی، بدکرداری ہر طرح کی معاصی میں علماء و مشائخ مبتلا ہیں، غیبت کو تو ہم لوگ کچھ سمجھتے ہی ہمیں اعتدال کا باپ قابل مطالعہ ہے

کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی
بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا

اکابر کے طریقہ کو لازم پکڑو۔ ارشاد فرمایا:۔ ہم اے بزرگوں کی ایک ایک ادا دانتوں سے پکڑنے کے قابل ہے۔ جب سے میں نے سنا ہے، مکہ حضرت گنگوہی قدس سرہ، تیس تاریخ کو الم تکلیف سے تراویح پڑھتے تھے، اگر آج چاند نہ ہوتا، تو میرا بھی ارادہ تھا، کہ عبدالرحیم سے کہوں کہ الم تکلیف سے تراویح پڑھاوے۔

فرمایا: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد لامحصى احسانات ہیں، اس لئے کثرت سے درود پڑھتے رہو، اور کلمہ سوم کا درود رکھو۔

عید کی صبح کو نماز سے پہلے حضرت اقدس مدنیو ضہم نے حدیث مسلسل بالا ولینہ کو پڑھ کر ہر سال کے دستور کے مطابق اس کی اجازت مرحمت فرمائی، عید کی نماز حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی مدظلہ نے پڑھائی، حق تعالیٰ اس رشد و ہدایت کے سرچشمہ حضرت اقدس مدنیو ضہم کے سائے کو بائے سرہوں پر بانی رکۃ نادر قائم و دائم رکھے، آمین۔

ضمیمہ ”آئندہ کے صفحات پر ۱۸۸۷ء کے رمضان المبارک کے لفظیات کو خصوصیت سے نیز اس کے علاوہ کے لفظیات کو بھی ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں اللہ کے کلمات کو حذت کر لیا ہے اور مضامین میں ترتیب قائم کر دی ہے“

تبلیغی جماعت اور مدارس:۔ تبلیغی جماعت سے حضرت اقدس مدنیو ضہم کا جو سرپرستی کا تعلق ہے، اس کو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے سوا سخی یوسفی جمعیہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

”حضرت شیخ الحدیث صاحب کی سرپرستی، فکر مندی و دل سوزی صاحب سوا سخی اور دعوت تحریک کے جسم و جان و رگ و ریشہ میں اس طرح بیوست ہو گئی ہے۔“ سوا سخی گل میں جس طرح ہادو سحر گاہی کا نام

حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا:۔ میں نظام الدین کی تبلیغ کا بہت معتقد ہو گیا ہوں، چچا جان

کے زمانے میں کم اور مولوی یوسف مرحوم کے دور میں اس کا بہت معتقد ہو گیا ہوں۔ اس لئے اپنے تمام متعلقین کو ہدایت کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اس میں تعاون کیا جائے۔ صحیح بخاری میں شب قدر کے سلسلے میں آیا ہے: "قدر تو اطات"۔ خوابوں کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اسی طرح تبلیغ کے سلسلے میں بھی بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشرات ہیں۔ تبلیغ کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے، کہ تبلیغ والے ملائس کے مخالف ہیں مگر یہ بات صحیح نہیں، مجھ سے کلکتہ و بمبئی کے سینکڑوں آدمیوں نے بیان کیا، کہ ہمارا علماء ملائس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس کام کے ذریعہ تعلق پیدا ہوا، اس کام کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے بلکہ لاکھوں آدمیوں نے شراب چھوڑ دی اور تائب ہوئے چونکہ اس کام میں بہت سے شرابی وغیرہ تائب ہو کر گئے ہیں اس لئے ان کی طرف سے بے اعتدالیاں ہوجاتی ہیں، ان کو مناسب انداز میں ٹوکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر تم یہ نہ کر سکو تو ہم کو لکھو، ہم نوٹسے بڑوں کو ٹوکتے ہیں، مجھے اپنے چچا جان سے تبلیغ کے بارے میں کئی چیزوں میں اختلاف تھا، مگر وہ فرماتے تھے کہ جتنا تبلیغ کا یہ مخالف ہے اور کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود جتنا نفع اس سے پہنچا اور کسی سے نہیں، ایک مرتبہ چچا جان نے خواب دیکھا کہ آگے آگے چچا جان اور ان کے بچے ہیں ہوں اور میرے بچے حضرت بہار پوریؒ اس خواب کو چچا جان نے حضرت رامپوری سے بیان کیا۔ حضرت نے اس کی تعبیر بتائی کہ آپ کی لقویت حضرت شیخ بے سے ہے اور ان کی پشت پر حضرت بہار پوریؒ ہیں۔

ارشاد فرمایا: ہمارے یہاں سکوت ہے اور نظام الدین کے حضرت کے یہاں حرکت، حضرت مولانا العالم صاحب مدظلہ نے ایک خواب سنایا کہ کسی بزرگ نے خواب میں فرمایا کہ تبلیغ صرف زبان و فاع و کاغذ سے نہیں چلے گی، بلکہ مجاہدے اور جان و مال کو سچھا اور کرنے اور دعاؤں سے چلے گی، حضرت اقدس نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا۔

مشاجرت صحابہ کرامؓ کو نبیؐ کی طور پر ارشاد فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی تعلیم کے لئے تکمیل دین کے لئے پیش آئے مبعوث ہوئے تھے، اور یہی ضرورت نبیؐ کی ہوتی ہے کہ امت کے لئے جو احکام نازل ہوں وہ ان کو علی جامعہ پہنکا کر جاری کر جلتے تاکہ بعد والوں کو یہ

کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ان پر عمل کیسے ہو سکتا ہے ایسی حالت میں قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو شان نبوت کے منافی نہیں، ان کا صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر میں صبح کی نزا کے لئے آنکھ نہیں کھل سکی یہ واقعہ ایک مرتبہ توفیقاً پیش آیا۔ اور محققین کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ دو تین مرتبہ پیش آیا۔ چونکہ یہ فعل شان نبوت کے منافی نہ تھا، اس لئے حضور کی ذات سے صادر ہوا، اسی طرح نماز میں سہو ہو جانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار پیش آیا، جس کے بارے میں خود حضور کا ارشاد ہے۔

”انی لا ائیی ولیکن انی الخ“ (موطا مالک) میں بھولتا نہیں ہوں، بلکہ بھلایا جاتا ہوں۔ تاکہ سنت (طریقہ) جاری کر جاؤں، حضرت بریرہ کے قصہ میں آیا ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو خرید کر آزاد کرنا چاہتی تھیں مگر حضرت بریرہ کے آقا اپنے لئے ولاد کی شرط لگاتے تھے جب حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اشتری واشترطی بعض علما نے اس روایت میں اشترطی پر کلام کیا ہے کیونکہ بیع میں اس طرح کی شرط لگانا ناجائز ہے جبکہ دوسری روایت میں ”الولاء لمن آگیا ہے، مگر میری رائے ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ایک بیع باطل ہے اور ایک بیع فاسد و حنفیہ کے نزدیک شرط لگانے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، مگر مفید ملک ہے اس حدیث سے بیع فاسد کا جواز بتایا گیا ہے۔

اس طرح کے افعال حضور سے بیان جواز کے لئے تعلیماً صادر ہوتے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو پورا ثواب ملتا تھا۔

اسی طرح جو افعال شان نبوت کے منافی تھے وہ صحابہ کرام سے کرائے گئے! انہوں نے خود اس کے لئے اپنے کو پیش کیا کہ ہمارے ذریعہ اپنے دین کی تکمیل کر لیں، ہم سنگسار ہونے کے لئے تیار ہیں، ہاتھ کٹوانے کے لئے تیار ہیں۔ ان افعال کی قیامت میں کمی نہیں، حضرت عائشہ و حضرت فاطمہ کو سنگسار کیا گیا۔ اور ان لوگوں کے ذریعہ دین کی عملی تکمیل کی گئی۔

تو مشق ناز و عالم کہ میری گردن پر

اسی طرح صحابہ کرام کے مشاجرات، جنگ جمل و صفین وغیرہ سب تکوینی طور پر پیش آتے حضور کے زمانے میں حکومت پر لڑائی کرنا کفر تھا۔ کیونکہ جس جانب حضور کا فیصلہ ہوتا، وہ قطعاً تھا

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت میں اس کا موقع دیا گیا کہ حضورؐ کے وصال کے صدرے کا صحابہ کرامؓ سے منحل ہو جائے اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں فقہی لحاظ سے دین کی تکمیل کی گئی۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں اختلافات شروع ہوئے۔ حضرت علیؓ کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں تاکہ دونوں طرف کے اصول و ضوابط معترض و جود میں آجائیں۔ اور اس طرح دین کی تکمیل ہو سکے، ہم نے صحابہ کرامؓ کو نہیں سمجھا۔ وہ ہم کو حکومت و سیاست کے اصول وغیرہ ہر چیز کے دیکھلا گئے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو الامتدال ص ۲۲۹

علماء کا اختلاف اچھی چیز ہے ارشاد فرمایا: میرے والد صاحبؓ فرماتے تھے کہ علماء کا اور مخالفت بری ہے ۱ اختلاف اچھی چیز ہے۔ میں نے نکتہ سے حدیث کی کتاب پڑھانی شروع کی تھی اور آج تک ہر سبق میں اس کو میان کرتا ہوں۔ راجح کل معذوریوں کی وجہ سے سبق کا سلسلہ بند ہو گیا ہے میرے والد صاحبؓ ایک قصہ سنایا کرتے تھے۔ ایک صاحب بڑے عالم بلکہ علامہ تھے سینکڑوں شاگرد اور ہزاروں مرید تھے، ان کا ایک لڑکا تھا۔ لیکن اس نے کوئی علمی کمال نہیں پیدا کیا جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا کہ جب تم سے کوئی مسئلہ دریافت کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اس مسئلہ پر علماء کا اختلاف ہے۔ بلکہ جماع کے وقت کی دعا تک میں اختلاف ہے کہ ازار بند کھولنے سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں، مدت حمل، نماز جنازہ کی تکبیرات تک میں علماء کا اختلاف ہے اس لئے ضابطہ تو انہوں نے صحیح بتایا، اختلاف ائمہ مجھے پسند ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا مقولہ گذر چکا کہ صحابہ کرامؓ کے کسی مسئلہ میں اتفاق سے مجھے نئی خوشی نہیں ہوتی، جتنی اختلاف سے کیونکہ اختلاف کی وجہ سے گنجائش رہتی ہے یہ اختلاف بڑی مبارک چیز ہے۔ البتہ مخالفت بری چیز ہے۔ میرے والد صاحبؓ کو حضرت گنگوہیؒ اور حضرت سہارنپوریؒ سے جو تعلق تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ مگر بعض مسائل میں ان حضرات سے اختلاف بھی تھا۔ میرے حضرت سہارنپوریؒ بعض لوگوں سے خود فرماتے ہیں کہ فلاں چیز میرے نزدیک جائز نہیں لیکن مولوی کبھی صاحب کے نزدیک جائز ہے۔ تیرا دل چاہے اوپر جا کر ان سے پوچھ لو، اولاس کے موافق عمل کرو، خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرتؓ کے آخر رمضان المبارک میں شعبان کے گڑ بڑ سے یہ بخت شروع

ہوئی کہ آج مطلع صاف ہے، تیس روزے پورے ہو جانے کے بعد اگر شام کو رویت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ حضرت کا ارشاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں جس شہادت پر ملا تھا، بعض وجوہ سے شرعی عجت نہ تھی، اس لئے روزہ ہے، اور میرا ناقص خیال تھا کہ وہ حجت شرعی سے صحیح تھی، اس لئے کل کا روزہ نہیں ہے، دن بھر سجت رہی، شام کو چاند نظر نہ آیا، حضرت نے طے فرمادیا، کہ میں روزہ رکھوں گا میں نے عرض کیا میرے لئے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آگیا، ہونو روزہ رکھو ورنہ نہیں، بالآخر حضرت کا روزہ تھا اور میرا افطار، حضرت کے خادم میں متعدد ایسے تھے جنہوں نے افطار کیا اور متعدد دن روزہ رکھا، حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا، کہ تم نے افطار کیوں کیا، گو مجھے اب تک قلع ہے، کہ میں نے اپنی سمجھ کو حضرت کی رائے کے مقابلہ میں کیوں قابل اعتنا سمجھا، مگر حضرت نے ذرا بھی اشارہ کنایہ نہ کیا، بلکہ نصیب ہی فرمائی۔

چار رکعت نماز میں میں نے اختلاف ائمہ کو مشکوٰۃ شریف کی تدریس کے زمانے میں شمار کیا تھا، تو ان کی تعداد سوادوسویس گئی تھی، بخاری کی تدریس کے زمانے میں ان کی تعداد پونے تین سو بیس گئی ہوگی، جزو اسباب اختلاف ائمہ حضرت کا مستقل رسالہ ہے جواب طبع ہو چکا ہے، الامتدال میں بھی اس پر گفتگو فرمائی ہے۔

فرمایا، علامہ شعرانی نے اپنی کتاب میزان الکبریٰ میں ائمہ راہبہ کے مذاہب کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہر امام نے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے کہا ہے، جس کو لوگ اختلاف سمجھ رہے ہیں، مگر نقل مذاہب میں ان سے نسخے بھی ہوا ہے۔

فرمایا، رام پور میں ایک دعوت تھی اور وہاں فتنہ بھی کھڑا سب اکابر نے شرکت فرمائی۔ مگر عین وقت پر حضرت تھانویؒ نے انکار کر دیا، لوگوں کو متعجب ہوا، حضرت نے فرمایا کہ ان اکابر کو اپنے علوشان کے باوجود ان مفسد کا علم نہیں، جو مجھے معلوم ہیں، اس لئے سدا للباب میں حاضر نہیں ہوا۔

نوٹ، ایک طالب علم نے دو قرآن ختم کر کے حضرت اقدسؒ کو ایصالِ ثواب کیا تھا، اس پر حضرت نے اظہارِ مسرت فرمایا، مولانا عبد المنان دہلوی نے عرض کیا، کہ میں نے اسی طرح ایک طواف حضرت رائے پوریؒ کے لئے کیا تھا، حضرت سے ذکر کیا تو فرمایا اس کو ذکر نہ کرنا چاہیے، اس میں

انہارا احسان ہے حضرت اقدس نے بھی اس کی تصویب فرمائی۔

اپس کے اختلافات ارشاد فرمایا:۔ آج جمعیت و مشاوریہ وغیرہ سے اخلاص سے جس راستہ میں راہ اعتدال کو چاہا اختیار کرو، آپس میں ایک دوسرے پر تنقید نہ کیا کرو، گاندھی نالیہ

کے حالات سے سبق لو، دونوں میں تضاد تھا مگر ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ ہمارے اکابر میں تضاد تھا۔ مگر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت مدنی کو ایک مرتبہ دتی جانے کی حکومت برطانیہ کی طرف سے ممانعت تھی، حضرت کو وہاں جانے پر اصرار تھا۔ فرمایا دتی جاؤں گا، قانون توڑوں گا۔ شعور ہوا، چنانچہ دتی کے لئے رطابہ ہوتے۔ مظفر نگر پہنچے تھے کہ راستے میں آنا لے گئے اور میدھے جیل خانہ پہنچا دیئے گئے۔ اس واقعہ کا علم جب حضرت تھانویؒ کو ہوا تو ظہر کے بعد کی مجلس میں حضرت مدنی کی گرفتاری پر نہایت ہی رنج و غم اور تعلق کا اظہار فرماتے ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ ایسا معلوم نہیں تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی سے مجھے اس قدر محبت ہے۔ اس پر ایک شخص نے حاضرین مجلس میں سے عرض کیا کہ حضرت وہ تو از خود گئے تھے حضرت تھانویؒ قدس سرہ نے فرمایا آپ مجھے اس فقرے سے تسلی دینا چاہتے ہیں حضرت امام حسینؑ بھی تو پزیر کے مقابلے کے لئے از خود تشریف لے گئے تھے، پزیر نے ان کو جبراً تو قتل کیا تھا۔ لیکن حضرت امام حسینؑ کا غم ساری دنیا آج تک نہیں بھولی۔

حضرت مدنی ہر سبقت بلکہ اس سے زیادہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، ایک مرتبہ لہانگ تشریف لائے اور فرمایا، تمہارا دشمن کرنے آیا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے ان مبارک ہونٹوں سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے فرمایا، کہ تمہارے بھون جارا ہوں، اور تمہارے ساتھ میں نے عرض کیا کہ میرے سر میں بال نہیں، یہ وہ زمانہ تھا، جب الاعتدال کھلی گئی تھی، زمانہ عیاشی و اختلاقی کا تھا فرمایا، ہمارے اکابر میں تو وہی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مدنی تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا۔ خانقاہ بند تھی، باہر مسجد میں آرام تھا۔ صبح حضرت تھانویؒ کو اطلاع ہوئی، تو فرمایا کہ اگر آپ کی آمد کی اطلاع پہلے سے ہوتی، تو میں کسی کو اسٹیشن بھیجتا۔ یہ ہمارے اکابر کے حالات تھے مولانا عطاء اللہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے کہ یہ مکان مشترک پبلٹ فارم ہے۔ مولانا عطاء اللہ

صاحب اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی احترازی تھے۔ یہ سب میرے ہی یہاں جہاں ہوتے تھے۔ حضرت تھانویؒ بھی اپنی علالت سے پہلے میرے یہاں جہاں ہوتے تھے۔ حضرت سہارنپوریؒ کو پتا بڑا جھانی سمجھتے تھے

اسی وجہ سے میرے ساتھ تعلق تھا، اور میرے والد صاحب سے بھی بے تکلفی کے تعلقات تھے۔ جب حضرت سہارنپوری سمرقند کے لئے تشریف لے گئے، تو میرے والد صاحب کے نام حضرت تھانوی کا خط آیا، کہ ہر ماہ ایک مرتبہ تم جھکو زیارت کرا یا کرو، ایک مرتبہ والد صاحب نے حضرت کو سہارنپور آنے کی دعوت دی، حضرت کے ہاں قانون و ضابطہ بہت تھا، جواب آیا کہ میں ادھر سفر پر آ رہا ہوں، سہارنپور سے تھانہ بھون تک میرا اور میرے خادم کا کر یہ دینا پڑے گا، اور ایک ہانڈی آڑو کی دال دینی پڑے گی، حضرت کو آڑو کی دال بہت پسند تھی اور میری والدہ صاحبہ بہت اچھی پکاتی تھیں، والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت کا جو دستور تھا، اس میں مبراٹ جاری ہوگی یا نہیں؟ تو جواب اپنی شفقت سے دیا کہ ضرور جاری ہوگی، اس کے بعد سے مستقل قانون ہو گیا، کہ سہارنپور میں میرے ہی جہان ہوتے تھے، میری وجہ سے یہاں کی آمد تو یاد نہیں، البتہ اگر کسی ضرورت سے سہارنپور آمد ہوتی تو میرے ہی جہان ہوتے۔

فرمایا، ایک مرتبہ مولانا ظفر احمد تھانوی شیخ الاسلام پاکستان میرے ہاں جہان ہوتے، یہ سنا، اختلاف کا تھا، اتفاقاً آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہیں، مجھے فکر ہوئی کہ دوپہر کو دونوں کو دسترخوان پر ایک ساتھ کس طرح جمع کروں، مولانا ظفر احمد صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہیں پہلے انہیں کھانا کھلا دوں، کیونکہ حقوڑی دیر کے بعد واپس چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ کے لئے دسترخوان بچھاؤں گا! انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اختلاف سیاسی ہے، حضرت ہمارے دینی پیشوا ہیں، ہم تو ساتھ کھانا کھائیں گے، پھر میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت نے بھی فرمایا، کوئی حرج نہیں ساتھ کھانا کھائیں گے، چنانچہ دسترخوان پر دونوں حضرات تشریف لائے، ادھر ادھر کی بے تکلفی کی باتیں کرتے رہے مگر سیاست کا کوئی ذکر تک نہیں کیا۔

ارشاد فرمایا، جمعیت و مشاورت کی لڑائیاں تجھے اچھی نہیں لگتیں، ایک صاحب نے اپنا خواب سنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ غصہ میں ہیں اور فرمایا ہے میں کہ علی میاں بھی میرے ہیں اور اسعد میاں بھی میرے ہیں، آنکھ کھل گئی، میں نے کہا کہ تعبیر واضح ہے، دونوں مخلص ہیں، تم لوگ آپس میں لڑائیاں کر کے اپنی عاقبتیں خراب نہ کرو، یہ اختلاف ولیسا ہی ہے، جیسے لیگ و کانگریس کا تھا، اگر کوئی ان میں سے کسی راستے

کو اخلاص سے اختیار کرنا چاہیے تو کر لے، ورنہ میری طرح الگ تھلگ ہو کر تسبیح پڑھتا ہے۔

ارشاد فرمایا، ار علماء کا اختلاف اگر کسی مسئلے میں ہوتا ہے تو گنجائش نکل آتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز

کا مقولہ ہے کہ جس مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ہوتا اس میں مجھے تنگی نظر آتی ہے۔

ہمارے اکابر کی طبائع میں تضاد تھا ارشاد فرمایا، میں نے اپنے اکابر کو خواب دیکھا، ان کی طبائے

مگر اس کے باوجود ایک تھے میں تضاد تھا، مگر سب ایک تھے، ہر ایک دوسرے کی چیزوں کو

سزا سزا، حضرت اقدس تھا، نووی کے یہاں قرابین کا زودیا، خالقہ میں ایک بڑی سخی قاعد کی لٹکی رہتی تھی حضرت

رائے پوری کے یہاں تو اہنغ کا غلیہ تھا، حضرت تھا، نووی ایک مرتبہ رائے پور تشریف لے گئے تو فرمایا، اللہ اکبر

یہاں کے پتہ پتہ سے تو اہنغ ٹپکتی ہے، بڑے حضرت رائے پوری کے زمانے میں ہر شخص اپنے کو دوسرے

سے کمتر سمجھتا تھا، بڑے حضرت کے زمانے کے بعد مولانا شاہ عبدالقادر صاحب، منشی رحمت علی صاحب

دیگر چیکے، حضرت کے زمانے میں معلوم نہیں ہوتا تھا، کہ یہ بھی کوئی چیز ہیں، حضرت رائے پوری و حضرت

مدنی کے یہاں دلداری و نرمی تھی۔

اللہ والوں سے ڈرتے ہونا چاہیے ارشاد فرمایا، میرے والد صاحب کے انتقال پر اللہ نے

مجھے بہت صبر دیا تھا، چنانچہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا، کہ باپ کے انتقال پر پانچ یا سب ختم ہو گئی ہیں، شایہ کسی

لئے خوشی ہوتی ہے، انتقال کے بعد کثرت سے جہان آئے، میں نے کوئی ایک ڈیڑھ سو روپے کی پوٹیاں منگو کر

لوگوں کو کھلائیں، ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور مخلص خدام میں سے تھے، وہ بڑے صاحب کشف

تھے کشف قبور میں بہت بڑھے ہوئے تھے، وہ والد صاحب کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبور پر حاضر

ہوئے والد صاحب نے ان سے تین باتیں فرمائیں۔

(۱) والد صاحب کے مخالفین بہت تھے، فرمایا کہ مولوی ذکر کیا سے کہہ دیجئے کہ ان کی فکر یہ کرو یہ خود

اپنا نقصان اٹھائیں گے۔

(۲) والد صاحب پر قرض بہت تھا، اس کے مانگنے والے بہت تھے، والد صاحب نے فرمایا کہ اس کی

فکر نہ کرو (الحمد للہ سب ادا ہو گیا)

(۳) بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی ہے۔

ارشاد فرمایا، کہ مخالفت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں کہ سب اس کی تعریف کریں، یا سب اس کی نازت کریں، دنیا جو چاہے سمجھے، مگر اللہ سے معاملہ صاف رکھو، لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ نہ دیکھو، بلکہ اللہ سے مانگو، اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔

لوگ سمجھیں مجھے محرم و قار و تمکین وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل رہا

میرے حضرت بہار پوری نے اپنے سگھڑے کے سفر حج کے موقع پر مولانا عبداللطیف صاحب کو مدینہ کا ناظم تجویز کیا تھا، حضرت اقدس کے ساتھ سفر میں میں بھی تھا، حضرت کے مدارینہ منورہ قیام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت ناظم صاحب کی شکایات لکھیں، میں ان کو غلط سمجھتا تھا، اس لئے وقتاً فوقتاً تردید کرتا رہتا تھا، حضرت اقدس رائے پوری بھی اس سفر میں حج کے لئے تشریف لائے تھے جب واپس ہوتے لگے تو حضرت نے ان کے ذریعہ ناظم صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ فلاں فلاں سے معاملہ اچھا رکھنا، جب مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری نے ناظم صاحب کو یہ پیغام پہنچایا، تو انہوں نے تردید کی کہ یہ شکایات بالکل جھوٹ ہیں، جن لوگوں کی ناظم صاحب ملازمت کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی شکایات لکھی تھی کہ ہم لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔

عین الرضا عن کل عیب کلیلۃ کہا ان عین السخط قبل المسادیا
بہر حال حضرت رائے پوری کو جب حقیقت حال کا علم ہوا، تو انہیں عجیب تاثر ہوا، مجھے جب یہ معلوم ہوا، تو اس موقع پر اپنے والد صاحب کی بات یاد آگئی کہ اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہے، میرے حضرات نے یوں فرمایا، ان اللہ والوں کو اگر کسی بات سے تکدر پہنچا دیا ہو جائے تو آدمی کو مصیبت میں پھانس دے، بڑے حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی صحبت اکیس ہے، بشرطیکہ دل میں کوئی خدشہ نہ آئے اس کی تفسیر سے نزدیک ہے کہ دل میں تنقید کا جذبہ نہ پیدا ہو۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص کے معتقد ہو باقی یا مرید ہو جاؤ، حضرت مدنی سے کسی نے ایک صاحب کی شکایت کی، تو حضرت نے فرمایا، بھائی تقصیر سے اس زمانے میں کون خالی ہے، یہ چودھویں صدی ہے، اکابر بھی اسی صدی کے ہیں، ہر رنگ سے اعتقاد ضروری نہیں، مگر ان کی مخالفت نہ کرو، من مادی لی ولیاً

فقد آذنتہ بالہرب، اگر تمہارا کسی بزرگ سے میل نہیں ہے، تو ان کے پاس نہ جاؤ، مگر مخالفت نہ کرو۔
 وَاللَّيْلِ بِجَلَدٍ مِّنْهُ مِمَّنْ لَمْ يَلْمِزْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُم مَّا كَانَتْ لَكُمْ فِيهِ عِلْمٌ مِّنْ قَبْلُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 کہتا ہوں کہ حضرت گنگوڑی کے دور سے یہ دیکھتا چلا آ رہا ہوں، ہر ایک کے لئے کلمہ خیر کہتا ہوں، پارٹی سے الگ ہو
 اکابر کے حالات معلوم کرنے کا اشتیاق ارشاد فرمایا، میرا ہمیشہ کا یہ دستور رہا ہے کہ بزرگوں
 کے معمولات معلوم کرنا رہتا ہوں، چنانچہ فضائلِ رمضان میں میں نے اپنے اکابر یا خصوصاً حضرت رائے پوریؒ
 حضرت سہارنپوریؒ حضرت مدنیؒ کے معمولات دیکھے ہیں، ان بزرگوں کے حالات سننے کا میرا بہت ہی چاہتا
 ہے، کتابوں میں ان کے حالات پھول کے گلہ رستہ کی طرح معلوم ہوتے ہیں، الامتدال میں ان کے حالات
 لوگ تو جیسے نہیں سنتے، حالانکہ یہ بہت اہم ہیں۔ ان بزرگوں کی طبائع میں اختلاف تھا، مگر اس میں مجھے
 بڑا مزہ آتا ہے میرے والد صاحب کا بھی ان اکابر کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، حضرت رائے پوریؒ کے
 ساتھ عظمت اور حضرت تھانویؒ کے ساتھ بے تکلفی کا

ہر گلے سازنگ و بونے دیکر است ارشاد فرمایا: سر رحیم بخش صاحب جو دیاست پہاڑ پور
 کے اہم ذمہ دار تھے، ہمارے اکابر سے ان کے تعلقات تھے، اکثر ان حضرات کو بلایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت
 سہارنپوریؒ، حضرت تھانویؒ، حضرت شیخ الہند کو اپنے ہاں مدعو کیا، جب یہ حضرات تشریف لے گئے، تو سر
 رحیم بخش صاحب نے ہر ایک کے لئے الگ الگ تہانہ پیش کیا، ان دونوں بزرگوں نے قبول فرمایا، مگر حضرت
 تھانویؒ نے فرمایا، کہ آپ کے ہم لوگوں پر یہ بہت احسانات ہیں، اس کی ضرورت نہیں، مگر جب انہوں نے بہت
 اصرار کیا، تو حضرت تھانویؒ نے فرمایا، جب آپ نے ہم کو بلایا تھا، اسی وقت مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ کچھ ہدیہ
 دیں گے، اس میں اشتراکِ نفس ہے، اس لئے واپس کر رہا ہوں، ہمارے اکابر کے حالات عجیب ہیں، انہوں نے
 بالکل تامل نہیں کیا، واپس لے لیا۔

”حجّ محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھائے گی“

چنانچہ یہ حضرات جب وہاں سے واپس ہونے لگے، تو انہوں نے ایک ملازم ساتھ کر دیا، اور اس کو
 ایک لٹافہ دیا، اس میں رقم بھی تھی اور خط بھی تھا، اور اس سے کہہ دیا کہ تین چار شیشن کے بعد حضرت

متافونی کو منہ دنیا، حضرت جو جواب دیں وہ مجھے بتا دینا، چنانچہ اس نے حضرت کو تین چار اسٹیشن کے بعد اس لفافہ کو پیش کیا۔ حضرت نے عوشی سے قبول کر لیا۔

بڑوں انتہا اس وقت اچھا معلوم ہوتا ہے ارشاد فرمایا، ہم نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ مشہور ہے جب آدمی میں کوئی ذاتی کمال ہو کہ گیدڑوں کا سوار کہا کرتا ہے۔ پندرہن سلطان بود تو دوسرے گیدڑ کہتے ہیں، تراچہ تراچہ ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے، کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر آدمی میں کوئی کمال نہ ہو تو والد صاحب کیسے تھے، ہوتے رہیں ۷

بتدہ عشق خندری ترک نسب کن جاتی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چہ نیت

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ہا سے میں اللہ میاں نے کہہ دیا۔ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اٰهْلِکَ ۷

بڑوں سے انتہا اب اسی وقت اچھا معلوم ہوتا ہے، جب آدمی کچھ ہو، مثلاً، مشک آنت کہ خود ہوید

پریشانی کا سبب کوئی ایک ڈاکٹر صاحب ایک مقدمہ میں پریشان تھے حضرت نے ارشاد فرمایا

معصیت ہوتی ہے اللہ کی قدرت کے کارخانے عجیب ہیں، میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک مہینہ

ہوا خط لکھا تھا جب آدمی کوئی کام نہیں کرتا تو بیٹھ کر سوچا کرتا ہے، ایک قصہ ہے ایک آدمی نے ایک ملازم رکھا

دو دنوں ایک سفر پر روانہ ہونے ان کے ساتھ ایک گھوڑا تھا، اس نے ملازم سے کہا کہ دور کا سفر ہے، آدمی رات

میں جاگوں گا اور آدمی رات تم جاگو، گھوڑے کے بائے میں فکر ہے، کہ کہیں چوری نہ ہو جائے میں سوتا ہوں،

جب آدمی رات ہو جائے تو تم مجھ کو جگا دینا، چنانچہ ایک منزل پر وہ آدمی رات تک سوتا رہا، اور آدمی کو

از خود اٹھ گیا، دیکھا تو ملازم سو رہا تھا، اس نے ملازم سے کہا کہ تم سو رہے ہو ملازم نے کہا کہ نہیں، میں پڑا ہوں

سوچ رہا ہوں، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھریاں چتے کھاتی ہیں تو میرے دودھ

کہاں سے آتا ہے، تو ٹوی دیر کے بعد اس نے بھی کہا کہ میں یہی سوچ رہا ہوں، اتنے میں معلوم ہوا کہ گھوڑا پڑ

ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کا پریشانی کا خط آیا، میں نے سوز کراں کو جواب لکھا کہ زندگی میں کسی پر ظلم تو

نہیں ہوا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ عرصہ ہوا، میں نے ایک بے قصور کو قید کر دیا تھا،

ما اصابکم من مصیبت فجا کسبت ایدیکم الخ ۷

فرمایا: میرے پیارے خدا کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آج کل مجلس میں میں نے الاعتدال شروع کر رکھی ہے۔ آج کل زبانوں پر لگائیاں اور بانگائوں کے سبب لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آدمی کو خدا کی طرف سے ڈھیل ملتی رہتی ہے جب آدمی توبہ نہیں کرتا، تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ یہ کوئی جرم تو نہیں کہ مصیبت آئے، ہم سوچتے نہیں۔

اکثر مصائب کا سبب فرمایا: اکثر زبانوں کی بے احتیاطیوں کے سبب مصیبتیں آتی ہیں۔
زبان درازیاں ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے **هل يكب النار الا حصائد السمسم**۔
 زبان درازوں کے سبب اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا حضورؐ کے ارشادات بہت اہم ہیں۔ ہم مولوی پڑھتے پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ایک حدیث ہے: **احببکسکھونا ما عسی ان یکون بخیفک لعماماتک**۔ اگر تمہاری کسی سے دوستی ہو تو ہلکی ہلکی، ممکن ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی سے عداوت ہو تو اس میں بھی اس کا خیال ہے کہ شاید کسی دن اس سے دوستی ہو جائے۔ آج کل لوگوں نے راہ اعتدال چھوڑ دی ہے۔

”آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا“

حضرت اقدس بہت کثرت سے اپنے سبق میں بیان فرماتے تھے کہ یہی قرآن و حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تھا۔ اور یہی ہمارے زمانے میں بھی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ صحابہ کرامؓ کا ان پر ایمان فلیس و حقیقی تھا اور ہمارا زبانی ان حضرات کو حضورؐ کے ارشادات و قرآن پر اتنا یادہ قطعی یقین ہوتا تھا کہ اس میں کسی قسم کے تردد کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کی زبان پر سب کچھ ہے۔ اور وہ ہیں کچھ بھی نہیں اس قسم کے مختلف واقعات سناتے رہتے تھے۔ سبق کے علاوہ یہ مضمون اور اس کے نظائر حضرات کی مجالس میں بہت کثرت سے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

ہمارے مدرسہ منظر ہر علوم کے باتوں میں ایک حافظ فضل حق صاحب تھے جن کے صاحبزادے

حافظ زندہ حسین مرحوم تھے۔ ان کا حکیمہ کلام اللہ کے فضل سے تھا، درحقیقت انہوں نے اپنے والد حافظ فضل حق صاحب سے اس کو لیا تھا۔ حافظ زندہ حسین صاحب کو دیکھنے والے نواب بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اسی لئے میں بھی ان کا نام لیا کرتا ہوں، حافظ فضل حق صاحب حضرت مولانا منظر صاحب نانوتوی نور اللہ مزملیہ کے جاں نثاروں میں تھے اور انہیں کی کوشش سے مدرسہ مظاہر علوم قاضی کے محلہ سے یہاں آیا تھا۔ ایک روز حافظ صاحب حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت اللہ کے فضل سے آج رات اللہ کا غضب ہوگا۔ حضرت مولانا ہنس پڑے اور پوچھا، حافظ جی! اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی! آج رات تین چار چور میرے مکان میں داخل ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر بیٹھ گیا، اور میں نے ان سے پوچھا ارے تم چور ہو؟ کہنے لگے، ہاں ہم چور ہیں، میں نے کہا سنو! میرے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ سہارنپور کے روسا میں میرا شمار ہے اور مدرسہ کا خزانہ بھی میرے ہی پاس ہے اور یہ سالاس کوٹھری میں ہے، جس پر تم بیٹھے ہو وہ مدرسہ کے خزانچی بھی تھے، اس میں صرف چھ پیسے کا معمولی نالا لگا ہوا ہے۔ مگر یہ نالا تم سے کیا تمہارے باپ دادا سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ صبح تک بھٹکتے رہو حضرت جی! میں تو جا کر سو گیا، اور وہ صبح تک بھٹکتے رہے، میں نے ان سے کہا کہ میں نے مولوی جی حضرت مولانا منظر صاحب نانوتوی سے سنا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے اور میں نے اس مال کی پوری زکوٰۃ دے رکھی ہے بلکہ اس سے کچھ زیادہ پس اللہ کے فضل سے وہ صبح تک بھٹکتے رہے، حافظ جی فرمایا، کہ میں تو سو گیا۔ یہ بھی حافظ صاحب کے یقین و اطمینان کی بات تھی، ورنہ گھر میں چوروں کی موجودگی میں کون سو سکتا ہے، حافظ جی نے کہا کہ جب سحر کے وقت میں بیارہ ہوا۔ تو دیکھا کہ وہ بھٹوک رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں سے کہہ تمہارے باپ سے بھی نہیں کھلے گا۔ چنانچہ وہ چور بھاگ گئے۔

ارتداد فرمایا: کہ مرزا پور بلیوں میں انگریزوں کی پہلے کثرت سے تجارتی کوٹھیاں اور نیگلے تھے جن میں وہ آکر کبھی کبھی رہا کرتے تھے۔ ورنہ عام طور پر وہ کلکتہ، بمبئی یا دہلی رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں آگ لگ گئی ایک انگریز کا مسلمان ملازم بھاگا ہوا دہلی آیا اور اپنے افسر سے کہا کہ وہاں سارے مکانات میں آگ لگ گئی ہے اور

وہ جل رہے ہیں، آپ کا مکان بھی جل گیا ہوگا۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ بدستور اپنے کام میں مشغول رہا۔ اور اس نے کہا کہ میرا مکان محفوظ ہے کیونکہ میں مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہوں اور میں نے سن رکھا ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ جو دین محمدی کے مطابق زکوٰۃ نکالے اس کے مال ہر طرح کی آفات سے محفوظ رہتا ہے اس لئے میرا بنگلہ محفوظ ہے، چنانچہ بعد میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہاں سارے بنگلے جل گئے سوائے اس انگریز کے بنگلہ کے، یہ قصہ بچپن میں میں نے سنا تھا۔

ارشاد فرمایا: یقین و اعتقاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے بابو عیاض مرکز نظام الدین کے ایک مبلغ کا قصہ ہے کہ شکرہ کے ہنگامہ میں جو فیہ امت صغریٰ دئی میں برپا تھی، ایسی حالت میں یاہر کسی کی آمد و رفت مشکل اور دشوار تھی اس زمانے میں میرا قیام بھی نظام الدین میں تھا۔ راشن سٹری منڈری میں ملتا تھا، جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، سارے سکھ آباد تھے۔ بابو عیاض اس کو لینے کے لئے تنہا سٹری منڈری گئے وہاں ایسی میں انہوں نے ایک ٹانگہ کیا، اس پر تین سکھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں اشارہ کرنے لگے کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے، بابو جی نے ان کی باتوں کو سن کر کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو تین کے بجائے نہیں ہوتے، جب بھی تم لوگ میل کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ سکھ حیرت زدہ و مرعوب ہو گئے، اور آپس میں بائیں کرنے لگے جب نظام الدین قریب آیا تو اس وقت بھی بابو جی نے کہا کہ اب بھی جو کرنا چاہتے ہو کر لو، آگے میل علاقہ ہے مگر وہ خاموش رہے، نظام الدین پہنچ کر بابو جی ٹانگے سے اترے، تو ان سکھوں نے کہا کہ لا جی! ہم تمہیں مار تو نہیں سکے لیکن ایسی حالت میں اس طرح بے خوف ہو کر کس طرح بات کر رہے ہو؟ بابو جی نے کہا کہ یہ میں کھڑا ہوں، اب بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی، جب انہوں نے آکر ہم کو یہ قصہ سنا، تو ہمیں بھی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا، حضرت جی! آپ نے دعا بتلائی تھی اللہم! ناخصل فی حوزہ و غوزہ من شد و رھم! میں جب کہیں جانا تھا، تو آتے جاتے ہر وقت یہی دعا پڑھتا ہوں۔ اس لئے اطمینان تھا۔

ارشاد فرمایا: اگر واقعی یقین و اعتقاد سے عمل کیا جائے، تو اب بھی ان دعاؤں

میں وہی تاثیر ہے۔

اضافہ از مرتب:

آج بھی ہو جو ہر اسیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا

نام ٹیل کی قصہ ارشاد فرمایا: کہ اللہ کے مجھ پر اور ہر شخص پر بہت سے

احسانات ہیں۔ "ذات تعدد والنعمة افنت له تحصرها" اور اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ہے، کہ مع را پس کے اختلافات کے باوجود لوگوں کو مجھ پر اعتماد رہا ہے، چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی تبلیغ نور اللہ مرقوفہ کے انتقال کے بعد لکھنؤ ندوۃ العلماء میں ایک تبلیغی اجتماع رکھا گیا، مولانا علی میاں اور مولانا منظور نعمانی کی آمد چچا جان کے زمانے سے تھی۔ یہ حضرات دل و جان سے چچا جان کے معتقد تھے اور مولانا یوسف سے بھی ایسے ہی رہے ان لوگوں کی کوشش سے ندوۃ میں تبلیغ آتی، آج کل مظاہر و دیوبند سے زیادہ وہاں تبلیغی کام ہوتا ہے۔ البتہ علی گڑھ سے کم ہے جو واقعہ میں سنا جا چاہتا ہے، وہ اس زمانے کا ہے کہ جب مشافعت وغیرہ شروع نہیں ہوتی تھی اور ریاست کے میدان میں ان دونوں حضرات نے قدم نہیں رکھا تھا۔ جب ان دونوں نے اس میدان میں قدم رکھا، تو میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارے پس کا یہ کام نہیں ہے بلکہ کے واقعات سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی، ازت مگر ملکی حالات سے یہ مجبور تھے مولانا یوسف صاحب سے ان سارے واقعات کے باوجود بعض چیزوں میں ان حضرات کو اختلاف بھی تھا۔ وہ یہ کہ مولانا یوسف صاحب کے یہاں کوئی نظام نہیں تھا اور یہ حضرات نظام و قواعد سے کام کرنا چاہتے تھے، میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ لکھنؤ کے اجتماع سے پہلے علی میاں انہیں بڑی عقیدت سے تشریف لاتے۔ اور کہا کہ ہم لوگ اجتماع کر رہے ہیں۔ اور یہ طے کیا گیا ہے کہ جماعتیں پہلے آجائیں اور مولانا یوسف صاحب تیسرے دن اجتماع میں شریک ہوں، تا کہ اس سے پہلے ہم لوگ وہاں کی فضا کو سہوار کر دیں، میں نے مولوی یوسف سے کہہ دیا کہ جلسہ میں تیسرے دن شریک ہونا، میں نے قصداً علی میاں کا نام نہیں بتایا۔ مگر شاید وہ سمجھ گئے، وہ ہمیشہ میری باتوں کا لحاظ کرتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ مولوی یوسف تیسرے دن شریک ہوتے اور ان کی پہلی

ہی تقریر میں متونام آئے، سب کو تعجب ہوا، یہ ایک اصولی بات ہے کہ کام قواعد سے ہونا چاہیے مگر اکثر بے قاعدہ ہی ہوتا ہے علی میاں جب مصرتیلینج کے لئے گئے تو ان کا خط آیا کہ یہاں آکر سب قواعد مانتے ہو گئے

انسان کے مقدر میں جو کچھ ارشاد فرمایا میں نے شکہ کے اس پاس ایک رسالہ التقییر ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے پر کھا تھا کہ جو آدمی کے مقدر میں ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، ورنہ اس سے کم ملتا ہے اس میں نے بہت سی مثالیں سکھی تھیں، میرے مکان کے سامنے جو نیا مکان ہے، وہاں پر لیک پرانا مکان تھا۔ شہر میں جو ڈپٹی کلکٹر آتا تھا۔ اس میں رہتا تھا۔ ایک خانہ سارہ تھا وہ نہیں بدلنا تھا اس سے میرے تعلقات ہو گئے تھے۔ اس سے میں پوچھتا تھا کہ کیا بچتا ہے، وہ بتاتا تھا کہ میں یہ چیزیں کھانا ہوں، اگر اللہ نے کرم فرمایا اور کوئی دینی تقویٰ عمل فرمایا تو پیرین کر کھائے گا یا ڈپٹی کلکٹر بن کر ورنہ خانہ سارہ بن کر کھائے گا، تعویذوں کی بدولت ہر آنے والے کے گھر کے حالات پوچھ لیتا تھا کہ کیا آمد ہے اور کیا کھاتے ہو، وہ یہ سمجھ کر کہ تعویذ میں اس کی ضرورت ہے۔ سب بتلا دیتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بیج یہاں آیا اس کی والدہ بیمار رہا کرتی تھیں، وہ میرے یہاں تعویذ لینے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گھر میں کیا بچتا ہے۔ اس نے کہا کہ ارہر کی دال اور روٹی، والدہ صاحبہ بیمار ہیں۔ ایسی صورت میں اور کیا ہے گا۔ اس زمانے میں ملکنتہ سے ایک اخبار نکلتا تھا اس میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ ایک انگریز جو ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا ایک گھنٹہ میں ہزاروں کی آمدنی کرتا تھا۔ لیکن اس کی صحت خراب تھی، ڈاکٹروں نے اس کے لئے ارہر کی دال کا پانی بے نمک کے تجویز کر رکھا تھا اس رسالہ میں میں نے لکھا تھا کہ کار پر چڑھنا اگر مقدر میں ہے تو حضرت جی بن کر بیٹھے گا۔ یا الیڈ بن کر چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت راتے پوری دلی تشریف لے گئے، تو ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰

زائد ہوتی تو دھوئی کے یہاں کپڑے بھجوائے گا اور اگر سو، ڈیڑھ سو روپے آمدنی ہوتی تو اسی اعتبار سے ضروریات زندگی بڑھاتا جائے گا۔

ایک ربتیس کا لڑکا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ لڑکا منچلا تھا۔ اولاد کو اپنی ریاست کا سبھی گھمنڈ تھا۔ گلستان کا ایک شعر آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ مقدر میں ہو گا وہ مل کر رہے گا۔

اس لڑکے نے اپنے استاد سے کہا، مولوی صاحب! اگر میں کھانا نہ کھانا چاہوں تو کون مجھے کھلاتے گا؟ غرور و گھمنڈ تو تھا ہی، ماں کے پاس آیا اور کہا کہ کتاب بھوٹی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر مقدر میں ہے تو بھجواتا کھا کر کھانا ملے گا۔ اب میں کھانا نہیں کھانا، مجھے کون کھلاتے گا۔ ماں نے اپنی محبت سے اس کی خوشامد کی مگر وہ خفا ہو کر گھر سے باہر قریستان میں شام کو چلا گیا۔ ماں کو فکر ہوتی کہ کہاں ہے، تلاش کر لیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہاں قریستان میں ایک درخت کے نیچے ہے، چنانچہ ماں نے شام کو نہایت خوشبو طر پلاؤ پکایا اور رات میں اس کے قریب لے کر گئی اس کی بہت خوشامد کی مگر کسی طرح کھانے کے لئے تیار نہ ہوا، اور نہ وہاں سے گھرا آیا۔ بالآخر ماں وہاں سے واپس آگئی خوشبو اس کے پاس آ رہی تھی، آدمی رات کو ڈاکوؤں کی ایک جماعت آ رہی تھی وہ آپس میں کہتے لگے۔ اچھی یہاں پلاؤ کی خوشبو آ رہی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکا ہے اور اس کے قریب پلاؤ ایک برتن میں رکھا ہوا تھا۔ ان سمجھوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ پلاؤ کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا آپ لوگ کھالیں مگر ان ڈاکوؤں کو اس جواب سے شبہ ہوا کہ کہیں اس میں زہر نہ ملا ہو۔ اس لئے اس لڑکے کو پہلے اس میں کھالینا چاہیے، جب اس سے کھانے کے لئے کہا تو اس نے انکار کیا۔ ان کو اس سے اور بھی شبہ بڑھا۔ ایک نے چوٹا نکالا اور ایک گال پر لیک جوتا لگایا کہ کھاف اس نے کھایا۔ پھر دوسرے گال پر لگایا کہ دھڑ سے کھاف پھر تیسرا لگایا کہ نیچے سے بھی کھاف غرض جوتا لگا لگا کر چاروں طرف سے اور اندر کا پلاؤ بھی اس کو کھلایا۔ اس کے بعد ان سمجھوں نے کھایا۔ وہ لڑکا خالی برتن لے کر ماں کے پاس آیا۔ اور کہا کہ ماں! پلاؤ بھی کھایا۔ اور جوتے بھی کھائے۔ کتاب سمجھ میں آگئی۔ اب پڑھنے جاؤں گا۔

ارشاد فرمایا: میرے دوستو! یہ سننے کی چیزیں نہیں۔ کیوں مالداروں اور مدرسہ کے ہتھیوں

کی خوشامد کرتے ہو؟ ہر دانہ پر رکھا ہوا ہے کہ یہ کس کے منہ میں جائے گا۔

کابل سے ایک صاحب نے انگور کی ایک ٹوکری ایشاد کے ایک صاحب کے یہاں ہدیہ بھیجی، انہوں نے لاہور اپنے ایک دوست کو بھیج دی، وہ صاحب میرے چچا جان کے مرید تھے انہوں نے مستقل ایک آدمی کے ذریعے چچا جان کے پاس نظام الدین بھیجی اور چچا جان نے اس کو میرے پاس بھجوا دیا۔ میں نے مولوی نصیر کی پہلی بیوی کے پاس اس میں سے چند دانے بھیج دیئے۔ پھر میں نے غور کیا کہ اللہ نے اس اجنبی گناہ کے پاس بھیجے گا کس طرح انتظام فرمایا اور اس کے مقدر کا حصہ کس طرح پہنچایا۔

ارشاد فرمایا: ہم نے برسہا برس ہر روز کی ہر ہر دانہ پر غور کی ہوئی ہے جس کے جو مقدر میں ہوگا وہ اگر ہے گا کاش یہ باتیں ہمارے دل میں آئیں۔

ایک صاحب ایک مسجد میں گئے اور ملا سے کہا کہ رات میں تمہاری مسجد میں گنڈا لٹا چاہتا ہوں، ملا کو نئے آدمی کی فکر ہوتی ہے۔ ملا کے پاس حملہ سے کھانا آیا تھا۔ اس نے ان صاحب کو کھانے میں شرکت کی دعوت دی، انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، کہ میں مرغ پلاؤ کھایا کرتا ہوں۔ تم اپنا کھانا کھاؤ، ملا کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ مرغ پلاؤ کے انتظار میں رات بھر بھوکے رہو، دیکھو کہاں سے تمہیں مرغ پلاؤ ملتا ہے۔ نصف رات کو ایک آنے والے نے اگر مسجد کے دفنے کو دستک دی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب طباق میں مرغ پلاؤ لٹے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی منت مانی تھی جس کو پورا کرنے کے لئے اس وقت لائے تھے۔ چنانچہ ملا حیران، ان صاحب کو جگایا، انہوں نے کھانا کھایا۔ اور اس میں ملا بھی شریک رہا۔ صبح کو بچے ہوئے حصہ کو ملاتے کہا کہ ساتھ لپٹے جاؤ، راستے میں ضرورت پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری جو روزی ہے وہ مل کر ہے گی جیسے یہاں ملتی ہے۔

نوٹ: یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب عارف باللہ اور متوکل تھے۔ ایسے لوگوں کے اس طرح کے

بکثرت واقعات ہیں۔

ارشاد فرمایا: ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک مسجد میں آکر ملا سے کہا کہ میں مسجد میں اعتماد کتنا چاہتا ہوں۔ ملا نے کہا کہ اعتکاف تو کرو گے مگر کھاؤ گے کیا؟ انہوں نے فرمایا روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ملا سے مناظرہ ہوتا رہا، اتنے میں امام صاحب بھی آگئے۔ جو کچھ پڑھے لکھے تھے۔ وہ بھی

اس مناظرے میں متلا کے ساتھ ہو گئے۔ بالآخر بزرگ مسجد سے باہر آئے، مسجد کے نزدیک ایک ہوٹل والے کے یہاں جتنے دن کا اعتکاف کرنا چاہتے تھے۔ ان کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ چنانچہ وہ مسجد میں واپس آئے اور امام و ملا سے کہا کہ میل نظم ہو گیا ہے۔ امام صاحب خوش ہوئے انہوں نے کہا اچھا آپ میری مسجد میں اعتکاف ضرور کریں، اس پر ان بزرگ کو غصہ کو آیا اور امام کے منہ پر ٹھوک کر چلے آئے کہ ایسی مسجد کے امام کیے بچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا اور نہ یہاں اعتکاف کروں گا جس امام کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر اعتماد نہ ہو اور ہوٹل والے پر اعتماد ہو۔

بے شک دنیا والوں کی یہ باتیں دل میں اتارنے کی ہیں، ہمارے اکابر بزرگ اسباب کا حکم نہیں دیتے، بلکہ بیفرماتے ہیں دینے والا مالک کو سمجھا جاتے اور تھوڑا بہت ہاتھ مار لیا جاتے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے رسالہ امداد الثمین میں تحریر فرمایا ہے: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی سوال کیا کہ توکل و اسباب میں کیا افضل ہے؟ آپ نے ایک روحانی توجہ مجھ پر ڈالی، اس کا یہ اثر ہوا کہ دنیا کے اسباب میں سے کسی چیز سے تعلق نہ رہا حتیٰ کہ اہل و عیال کی طرف بھی التفات نہ رہا۔ طبیعت ہٹ گئی، گویا توکل نام کا ظہور ہوا اس کے بعد دوسری بار آپ نے توجہ ڈالی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ باطن تو دہلیز رہا، البتہ ظاہر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مضمون حضرت گنگوہی نے بھی بیان فرمایا ہے اس لئے میرے دوستوں بہت غور سے اس کو دل میں اتاری تم حضرات اسی مقصد کے لئے یہاں آئے ہو۔ خاص طور سے علامہ کرام کو خطاب فرمایا، اس کے بعد کہیمیا اور کاقد بنایا، جو اس سے پہلے گذر چکا ہے۔

ارشاد فرمایا: ایک کہانی میں ہے اپنے والد صاحب سے سنی

تقدیر و تدبیر کی لڑائی

تھی، ایک مرتبہ تقدیر و تدبیر کی آپس میں لڑائی ہوئی، تدبیر

کہنے لگی، لوگ بدترینی و بدسلیقی سے کام کرتے ہیں اگر کوئی انتظام سے کھائے تو کیوں بیمار ہو، اور اس کے فوائد بتائے تقدیر سستی رہی، آخر میں اس نے پیچھے سے کہا بشرطیکہ میں بھی ساتھ ہوں، درمیان میں ایک کہانی اور سن لو، ایک صاحب گھوڑا خریدنے گئے تھے، وہاں ان کے ایک دوست مل گئے۔ ان سے کہا کہ کل ہم گھوڑا خریدیں گے انہوں نے کہا انشاء اللہ تو وہ کہنے لگے کہ انشاء اللہ کیا کرے گا۔ کل تو میں گھوڑا

خریدیں گا۔ رات میں سوتے۔ کسی نے جیب کا ٹلی دوسرے دن بانڈا لگا۔ تو یہ افسوس کرتے ہوئے وہاں سے واپس آئے۔ کسی نے پوچھا کہاں سے آرہے ہو کہنے لگے انشا اللہ گھوٹا خریدنے گیا تھا۔ انشا اللہ جیب کٹ گئی۔ انشا اللہ گھوٹا فوسس کرتے ہوئے واپس جا رہا ہوں۔ بہر حال تقدیر نے کہا کہ لشتر طیکہ میں بھی ساتھ ہوں، دونوں میں مناظرہ ہوا، اور تین دن کی شرط قرار پائی کہ دیکھا جائے کہ کون غالب آتی ہے۔ ایک آٹھن چھلی فروش تھا۔ تدریر آدمی کی صورت میں اس کے پاس آئی۔ اور کہا کہ تم کیوں مائے مائے پھرتے ہو میں تمہیں ایک میرا دیتا ہوں اس کی قیمت کوئی یاد شاہ دے سکتا ہے یا کوئی بہت بڑا جوہری اور اس سے تم کو لاکھوں مل جائیں گے، اس نے سوچا کہ پہلے تہا لوں اور کپڑے بدل لوں، جب یاد شاہ یا جوہری کے پاس آتا گا۔ دریا کے کنارے اس موٹی اور کپڑے کو رکھ کر تہا رہا تھا کہ دریا میں جوش آیا وہ موٹی اور کپڑے سب پانی میں چلے گئے۔ اس نے رونا چلانا شروع کیا۔ چنانچہ دوسرے دن تدریر بھر آدمی کی صورت میں آئی اور اس کو سونے کا ہار دیا، اور اس کو بہت ناکیا کردی کہ کل کی طرح حماقت نہ کرنا۔ دیکھو ہانا نہیں یہ بڑا قیمتی ہار ہے۔ چیل لال چیرکو گوشت سمجھتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جس سال چچا جان کا انتقال ہوا، اس سال میں رمضان کا اعسکاف کرتے نظام الدین گیا، ۲۹ رمضان کو مغرب کی پہلی رکعت میں میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اٹھارہ دن تک خوب بنجارا تار ہا۔ اس سے پہلے میں دور کی عینک بھی لگانا تھا اور سر پر عامہ بھی رہتا تھا۔ حضرت مثنیٰ کی اقتدار میں سردی میں کھدر کا اور گرمی میں ملل کا کتنا ہوتا تھا، پھولوں کا شوق تھا۔ اجاب کثرت سے لایا کرتے تھے، میں اپنے کالے ڈوٹے میں پھول ڈال کر سر پر عامہ باندھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح عامہ باندھ کر ابو داؤد شریف پڑھانے چلا چیل آئی۔ اور اچک لے گئی، پھول بھی گر گئے اور دور جا کر ڈوٹے بھی چھوڑا، بخاری شریف پڑھانے والے ایک بچے کے ہار کا قصبہ جانتے ہوں گے بہر حال چیل آئی، اور ایک جھپٹ مار کر ہار لے آئی، تیسرے دن تدریر بھر آئی اور اس سے کہا کہ تم بڑے نالائق ہو اور اس کو خوب زبرد و تہذیب کی اور نصیحت کر کے تلو رو پے دیتے کہ اس سے تجارت کرو چنانچہ وہ اپنے کپڑے میں باندھ کر گھر آیا معلوم ہوا کہ اہلیہ محترمہ کسی اور کے گھر گئی ہیں۔ اس نے جلدی سے جوہے کے درمیان سے آگ ہٹا کر اس میں رو پے رکھ کر نبوی کی تلاش میں چلا گیا۔ اس زمانے میں رو پے

چاندی کے ہو کرتے تھے، اتنے میں پڑوس کی ایک عورت آگ لینے آئی اور سب کچھ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی، یہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ روپے غائب ہیں، پریشان ہوا۔

اب ندیر کی ناکامی ظاہر ہو گئی، بیوی نے کہا کہ یہ سب کچھ چھوڑو، گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے پھلی مار کر لایا اور جلاتے کے لئے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا، وہاں ایک گھونسلہ ملا، اس میں وہ چیل والا ہار مل گیا، مائے خوشی کے شور کرتے ہوئے گھرا آیا، پڑوس نے سمجھا شاید میری چوری کا حال معلوم ہو گیا، اس نے لاکر تنوروپے واپس کئے اور کہا کہ کہیں اس طرح رکھا کرتے ہیں، جب پھلی کا پیٹ پھاڑا تو اس میں موقی بھی مل گیا، اس پر تقدیر نے کہا کہ ہمارا کام تو چکیوں میں ہوتا ہے۔

میرے دوستوں! ایسا بضرورت اختیار کرو، مگر مالک پر نظر رکھو، دینے والا وہی ہے، میں یہ

نہیں کہتا کہ ایسا اختیار نہ کیا جائے، مگر اس کو مقصود واصل نہ سمجھو۔

مجاہد **اللہ سفر حج کے انتظام** اور ارشاد فرمایا: مقدس میں جو ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، میں مدرسہ کی تنخواہ نہ لینے کا واقعہ نے اتنی مرغی کھائی ہیں شاید ہی کسی بزرگ یا رئیس کو

نصیب ہوتی ہوں گی، سنا کہ میں حضرت اقدس سہارنپوریؒ کے ساتھ سفر حج میں جانا ہوا، پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا، عین وقت پر اللہ نے انتظام فرمادیا، میرا سفر ایسا ہی ہوا ہے کہ چار ماہوں یا نہیں پندرہ شعبان کو وہاں قرعہ میں نام رکھ دیا جاتا ہے، جس کا نام رکھ دیا جاتا ہے وہ جا کر رہتا ہے۔

۱۹۰۷ء میں میرا سفر حج کا ارادہ بالکل نہیں تھا، چونکہ حضرت سہارنپوریؒ کا ایک سال کے لئے

حجاز مقدس میں قیام کا ارادہ تھا، شعبان ۱۳۲۷ء میں حضرت قدس سرہ نے اپنی غیبت کے لئے جو انتظامات کھوائے اس میں اس سببہ کار کو صدر مدرس بنایا، اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب مرحوم کو ناظم سببہ کئے، اتفاقاً اس سحر بر کو دیکھنے کا موقع مل گیا، بناوٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو دیکھ کر میں چکر اگیا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، صدر مدرس کے فرائض بہت سخت تھے، حضرت کے سفر میں چار پانچ دن باقی رہ گئے تھے، میں نے موقع پا کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت بدل کا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے بغیر تو میں کچھ نہیں سکتا، اور تمہارے جانے کی کوئی صورت نہیں، میں نے

مددِ درسی سے پہنچنے کے لئے عرض کیا کہ میں بھی قرض لے کر چلوں گا۔ مجھے خوب یاد ہے، حضرت کا چہرہ اس وقت خوشی سے کھل گیا، حضرت نے فرمایا، کہ تمہاری مدرسہ میں تنخواہ بھی کچھ جمع ہے اس کی شرح یہ ہے کہ ۳۵۰ میں جب میں ملازم ہوا تھا تو اس وقت میری تنخواہ ۵ روپے تھی، یہ میرے ساتھ خصوصیت برقی گئی تھی، مولانا منظور احمد صاحب کی ابتدائی تنخواہ چار روپے تھی، اس وقت بڑے حضرت رائے پوری قدس سرہ نے میرے لئے سفارش کی کہ یہ تنخواہ کم ہے کم از کم پچیس روپے ہونی چاہیے اور مجھ سے یہ فرمایا کہ جب اللہ توفیق دے تو تنخواہ چھوڑ دیجیو۔

حضرت اقدس رائے پوری کے ارشاد پر میرا جی چاہتا تھا کہ تنخواہ لینا چھوڑ دوں مگر میرے ذمہ قرض تھا اور میرے حضرت بھی تنخواہ لیتے تھے، میرے والد صاحب نے کسی نہیں لی، اس لئے اس کے چھوڑنے میں ایک طرح کی بے ادبی معلوم ہوتی تھی، اس لئے کسی ہینے میں لینا تھا اور کسی ہینے میں ترک کر دیتا تھا حضرت نے فرمایا، کہ تمہاری تنخواہ رُکی ہوئی ہے، میری تنخواہ کے نو سو پینتالیس روپے جمع تھے۔ اس زمانے میں حج کے اخراجات زیادہ سے زیادہ چھ سو روپے تھے، میں نے عرض کیا، کہ جس ہینے میں میں نے تنخواہ نہیں لی ہے، اس میں اسی نیت سے میں نے پڑھایا ہے، حضرت نے فرمایا تم اجیر تھے اور مدرسہ مستاجر، تمہیں بیکطرفہ نفع اہلہ کا کیا حق تھا، حضرت ناظم صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں ان کو سمجھاؤں گا، حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت سے مجھے بات کرتے میں تکلف تھا، مگر حضرت ناظم صاحب سے خوب مناظرہ ہوا، میں نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں دے دیجئے، آپ مدرسہ کے امین ہیں، حضرت اقدس تھا نوئی کے سرپرستوں میں سے تھے، اور مولانا ظفر احمد صاحب تھا تہ بھون کے مفتی، اعظم میری ان سے بے تکلفی تھی، میں نے ان سے کہا کہ جب حضرت کے یہاں مدرسہ کے کاغذات آئیں تو میری تنخواہ نامنظر کر کے دیکھیے، مگر حضرت تھا نوئی نے سمجھا کہ ان کو تنخواہ ضرور ملنی چاہیے، مولانا عاشق الہی صاحب بھی سرپرستوں میں سے تھے، انہوں نے بھی اس کی تائید کی،

حضرت نے مجھ سے فرمایا، کہ میں نے تمہاری جمع شدہ تنخواہ مدرسہ سے لے لی ہے۔ چنانچہ بدینہ مندرہ پہنچنے کے بعد حضرت رائے پوری کی نسبت کا اثر کچھ ایسا غالب آیا تھا، کہ میں نے سب سے پہلے

ہتم صاحب کو ایک خط لکھا جس میں تنخواہ کا تو کوئی ذکر نہیں تھا۔ البتہ یہ نکھا کہ میرا ارادہ ایک مہینے سے مدرسہ کے ان حقوق کے معاوضہ میں جو تجھ پر ہیں، مدرسہ میں ایک بڑی رقم پیش کرنے کا ہونا ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے اس رقم کا جمع ہونا ناممکن ہے اس طرح بالفصل میری طرف سے صرف ایک ہزار روپے کا وعدہ، اس طرح تحریر فرمائیں، کہ اس ماہ جمادی الاولیٰ سے مبلغ پانچ روپے ماہانہ میری واپسی تک میرے کارکن مولوی نصیر الدین سے لے کر لیدر واپسی کے خود مجھ سے وصول فرماتے رہیں، اگر اس کے پورا ہوجانے سے قبل میرا انتقال ہوجائے تو اس وقت جس قدر رقم باقی ہو وہ میری وصیت ہے جو لگے عترت کے سے وصول کی جائے، الخ غمرہ از مدرسہ منورہ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ اللہ کے فضل سے جب یہ رقم لدا ہوگئی تو مجھے رات پوری جذبہ سے یہ خیال ہوا کہ اس سے پہلے زمانہ میں جو تنخواہیں لی ہیں، وہ بھی واپس کر دی جائیں، اللہ نے وہ بھی واپس کر دیں، فلہذا الحمد والمہمۃ، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو آپ بی بی ۲۷۲

۱۳۵۷ھ سے پہلے مولوی یوسف مرحوم کے اصرار پر سفر فرج ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا ہانا ضروری ہے میں نے کہا کہ تم تو خود مستقل ہو، میری کیا ضرورت ہے مگر ان کے اصرار پر جانا ہوا۔ ۱۳۵۷ھ کا سفر فرج اس طرح ہوا تھا کہ میں نظام الدین مولوی انعام کو پہنچانے کے لئے آیا اور ان کی رواجی کی رات میں سفر طے ہوا۔ ٹکٹ مولوی سلیم نے رمضان ہی میں بھیج دیا تھا، میں نے انکار کیا، پاسپورٹ بھی کھو گیا۔ مگر اسی دن سب کچھ نظم ہو گیا، تقصیر یہ ہوا کہ بھائی سلیم نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ گیا اور جبل ابی القیس پر ٹھہر گیا، انہوں نے خود ہی یہ تعبیر نکالی کہ مولوی انعام و ہارون کہے ہیں، ان کا ٹکٹ تمہیں بھیجا گیا، اس لئے خفا ہو کر الگ ہیں فورا ٹکٹ بھیج دیا۔

میں یہ بیان کر رہا تھا، مقدرات پورے ہو کر رہیں گے جس کے متقدر میں مرغ کھانا ہے وہ مرغ کھانا ہے گا۔

۱۳۵۷ھ کے سفر فرج میں حضرت رائے پوریؒ اپنے خدام کے ساتھ تھے۔ اور میں اپنے قافلہ کے ساتھ ایک جگہ ٹراؤ ہوا، میں حاضر ہوا تو کچھ کھانے کا تذکرہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ ہمارے قافلہ میں کچھ میٹھی پکی تھی حضرت نے فرمایا، میں نے مرغ کھایا تھا، میں نے اس کا کھلہ کیا تو حضرت نے فرمایا، کہ ہم اس کا کفاروا ادا

کریں گے میں نے عرض کیا، حرم کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں کے مرغ کا کفارہ ایک مرغ سے نہیں ادا ہو سکتا۔ فرمایا اچھا، ہم ادا کریں گے۔ چنانچہ واپسی کے سفر میں ان خدام سے جو ملنے آتے رہے۔ مزاحاً فرلتے رہے، کہ شیخ کے ایک لاکھ کے مرغ میرے ذمے ہیں، مجھے کفارہ ادا کرنا ہے، چنانچہ ہر جگہ کثرت سے مرغ پک کر کھاتے تھے۔ یہاں سے میرے مرغ کھانے کی ابتدائی اور خوب کھایا، اب تو ہم کھانے کے قابل نہ رہے۔

اصافہ: گذشتہ سفر حجاز مقدس میں حضرت اقدس مدفونہ کی خصوصی مجلس عشاء بعد ہوتی تھی اس وقت حضرت اقدس کبھی کسی چیز کو تناول فرماتے یا بطور نفاکہ کے کوئی چیز چکھ لیتے تھے۔ بفضلہ تعالیٰ بیس پائیس قسم کی چیزیں اکٹھا ہو جاتیں جو لوگوں میں تقسیم کی جاتیں۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت اقدس مدفونہ کے شام کے وقت کھانا کھانے کا معمول نہیں ہے اس موقع پر ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے بزرگ دیکھے ہیں مگر یہ کہیں نہیں دیکھا کہ رزق چاروں طرف سے اٹتا ہوا آتا ہو، حضرت اقدس مدفونہ کی واپسی کے بعد کچھ مخلصین نے حضرت کی یاد میں اس مجلس کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دو چار روز تک لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانے کی چیزیں لانے اور ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے۔ پھر یہ دیکھا کہ اپنا اپنا کھانا لانا اور ساتھ بیٹھ کر کھانا اگر صرف یہ ہے تو اس سے بہتر اپنے گھروں پر ہی کھانا ہے مجلس ختم کر دی گئی۔

روزی انسان کو تلاش کرتی ہے ارشاد فرمایا: ہم نے خوب سنا ہے کہ دنیا سے جس قدر

کوئی بھاگے گا اسی قدر وہ آتی ہے اور جس قدر قریب جائے گا۔ اسی قدر وہ بھاگتی ہے، یہ میلہ اشکال ہے حضرت مفتی محمود صاحب نے عرض کیا حضرت دنیا کو دین بنا کر حاصل کیا جائے تو اس میں کیا حرج؟

اس کے بعد ایک قصہ سنایا کہ میرے والد صاحب کے پاس کئی خدام رہتے تھے، اب تو طلباء کرام فداؤں پختے ہو گئے، بھائی سعید صاحب گنگوی کے یہاں بھی کئی خدام رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میلاد یونیورسٹی ہوا، تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، میں نے کہا کہ خدام کہاں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں طلباء اس آئندہ کی خدمت کو کار ثواب سمجھتے تھے، تو دوڑے دوڑے پھرتے تھے تقسیم سے پہلے یہاں پشاندی

طالب علم کثرت سے آیا کرتے تھے اور قریب کی مسجد بہاولان میں ٹھہرا کر لے تھے میرے والد صاحب ایک دفعہ گرمی کے موسم میں کنوئیں کے قریب بیٹھے ہوئے غسل کر رہے تھے اور یہ طلباء کنوئیں سے پانی کے ڈول نکال نکال کر ڈال رہے تھے ایک وکیل صاحب اتفاقاً وہاں آگئے انہوں نے کہا کہ حضرت جی یہ اسراف نہیں ہے؛ والد صاحب نے فرمایا جی نہیں ہے ہم مولویوں کے لئے اسراف نہیں ہے اور تمہارے لئے ہے۔ مولوی دنیا کو دین بنا کر کام کرتا ہے، یہ غسل برائے تبرید تھا۔ اگر غسل مسنون ہوتا تو تین ہی مرتبہ پانی ڈالتے، اس فرق کو وکیل صاحب نہیں جانتے تھے۔

میں نے جو کچھ کہا کہ دنیا سے جو حین قدر بھاگے گا۔ اسی قدر وہ پیچھے آئے گی۔ اس پر طالب علمانہ اشکال و جواب تینیں آتا ہے میں نے مقدر والا قصہ سنایا تھا۔ آدمی کے مقدر میں جو کچھ ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ اور دلنے والے پر زہر لگی ہوتی ہے پھر ہم دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؛ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھیک مانگیں تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔

حضرت مولانا نانوتوی کا قصہ ہے حضرت دارالعلوم میں تشریف فرما تھے ایک صاحب میرٹھ سے آئے اور حضرت کی خدمت میں اس زمانے کے دو سو روپے پیش کرنے چاہیں حضرت نے انکار کر دیا وہ خوشامد کرتے رہے اور یہ عرض کیا کہ حضرت طلباء میں باٹ دیں حضرت نے فرمایا کہ تم خود کیوں نہیں باٹ دیتے، مجھے یہ کام نہیں آتا وہ خوشامد کرتے رہے جب مجلس سے اٹھے تو وہ روپے حضرت کے جوتوں میں پڑے ہوئے تھے حضرت نے اسے چھڑکار دیا۔ بھائی دنیا سے جو بھاگتا ہے، وہ جوتوں میں آکر گرتی ہے ہمارے اکابر اور مولوی یوسف میں یہ بات تھی۔

مولانا محمد یوسف صاحب کے چچا جان کے زمانے میں اور ان کے انتقال کے بعد میں نظام الدین میں ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتا تھا۔

اور پورے ہفتے کا اعتکاف کیا کرتا تھا۔ ایک رمضان میں غزنی جاتی میرا معتکف تھا۔ اور شرقی جانب مولوی یوسف صاحب کا حاجی وجہ الدین صاحب میرٹھ کے ایک بڑے تاجر تھے۔ دلی میں بھی ان کا ایک مکان تھا۔ ان سے ہم لوگوں کے خاندانی تعلقات تھے۔ وہ مسجد میں آئے اور مولوی یوسف کو کچھ پیش

کیا عزیز موصوف نے پھینک دیا اور کیا کہ مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، روپے نہیں چاہتیں، وہ خوشامد کر رہے تھے مگر عزیز موصوف نے قبول نہیں کیا، میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ ہا کر ڈانس دلوں، جلال وہ مولوی یوسف کے مستحکم سے باہر نکلے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آیا، اور حاجی صاحب کی خوشامد کی کہ وہ روپے آپ مجھے عنایت فرمادیں، آپ جس طرح چاہیں گے، میں خزانہ کر دوں گا، مگر وہ خفا ہو کر چلے گئے، میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ ہر شخص سے ایسا بننا ذرا نہ کیا کرو، یہ خواص میں سے ہیں، میرے حضرت ان کے لئے اپنے گھر سے کھانا لایا کرتے تھے، چچا جان بھی ان کا اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے اور مجھ سے بھی ان کے ایسے ہی تعلقات ہیں دوبارہ میں دئی گیا، چچا جان کے زمانے میں اور مولوی یوسف کے زمانے میں بھی جب میں دئی جاتا تو رشید الدین کو فن کر دیا جاتا، چنانچہ وہ اور مولوی یوسف بھی اسٹیشن پر آتے، میں نے کہا کہ آپ پہلے حاجی وحید اللہ دین صاحب کے مکان پر چلنا ہے۔ ہم لوگ وہاں گئے، میں نے کہا آج مولوی یوسف آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، ان کو ہمارے اور آپ کے تعلقات کا علم نہیں تھا، حاجی صاحب نے فرمایا: اس وقت تو واقعی رنج ہوا تھا، مگر اس کے بعد آپ کی معذرت کا مجھ پر اتنا اثر نہیں جتنا مولوی یوسف کے واپس کرنے کا ہے اس وقت سے آج تک کوئی تبلیغی اجتماع ایسا نہیں ہوا، کہ میں نے شکر کرتے ہی، ارشاد فرمایا بھائی، مگر یہ استغناء دل سے ہے،

کر نل اقبال صاحب کا قصہ بھوپال کے کر نل اقبال صاحب ایک وجیہہ و خوبصورت فوجی آدمی تھے، میرا صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کا آنا گوارا نہیں ہوا، سوائے حضرت مدنی، چچا جان، اور حضرت رائے پوری کے (اس سلسلہ میں میری ٹیچر کے وکیل صاحب کا قصہ سنایا، جو اس سے پہلے نقل ہو چکا تھا) فرقان بھاگاہوا اور پلایا، کہ ایک بہت بڑے آدمی آئے ہیں۔ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھاگاہوا سے سارے گیارہ بجے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہلایا کہ مجھے ابھی رائے پور جانا ہے، صرف ملاقات مقصود ہے، چنانچہ اوپر سے نیچے آنے کر دہان خانہ میں آیا، میں اپنے سادہ لباس میں تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات کرنی ہے، میں نے کہا کہ مجھی کو لوگ شیخ الحدیث کہتے ہیں، وہ جلدی سے اٹھے اور ملاقات کی، میں نے کہا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر رائے پور جاتیے گا، بہر حال وہ کھانا کھا کر رائے پور گئے، دوسرے دن واپس

آئے، اللہ کی شان اس دن دسترخوان پر کھانا خوب آیا تھا کہیں دلیر تھا، وہاں سے پلاؤ وغیرہ بھی آگیا تھا۔ میں نے کہا کھانا کھائیے، کھانا کھا چکے تو کہنے لگے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایک بات عرض کرنی ہے، کسی نے میری جیب کترلی، کراہی کے لئے تیس روپے کی منورت ہے، میں نے ان کو روپے دیدیتے۔ انہوں نے جا کر تیس روپے اور تین سو روپے مزید بدینہ بھیجے، میں نے جواب میں سکھا کہ آنا سو نہیں ہوتا، ہر حال اصرار کے بعد میں نے قبول کر لیا اس کے بعد مجھ سے تعلقات ہو گئے انہوں نے ایک وقف سوالا کھ لادیا بتو، مظاہر علوم تبلیغ اور جمعیت علماء کے لئے کیا تھا، مدرسہ والوں نے ان کا خوب شکریہ ادا کیا اور مولوی یوسف نے ٹھوکر مار دی اور کہا کہ ہمیں آپ کا وقت چاہیے انہوں نے میرے درلیعہ مولوی یوسف سے سفارش کرائی چاہی، میں نے کہا کہ میں حکم نہیں دے سکتا، مشورہ دے دوں گا کہ قبول کر لیں، چنانچہ جب میں مولوی صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ طبیعت نہیں چلتی، ویسے آپ کا حکم، میں نے کہا کہ تمہاری طبیعت کے خلاف میں حکم نہیں دے سکتا۔ ان کے واپس کرنے کے بعد تینوں اداروں نے کوشش کی کہ یہ رقم ہم کو مل جائے۔ انفاقا میا دتی جانا ہوا، وہاں ان سے ملاقات ہو گئی، وہ بہت خوش ہوئے، میں نے کہا کہ مجھے بھی خوشی ہوتی، ہمارے یہاں کی شوریٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک وفد آپ کی خدمت میں شکریہ کے لئے جائے۔ اس میں میں بھی شرکت کروں، مگر اچھا ہوا کہ آپ سے یہیں پر ملاقات ہو گئی۔

داد اور قابلیت شرط نیست

ارشاد فرمایا: کہ مالک جس کو نوازنا چاہیں راستہ چلتے تو آزار دیتے ہیں، فضائل صدقات میں ایک قصہ لکھ چکا ہوں۔

ڈاکوؤں کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی، راستہ میں دیکھا کہ دو درخت ہیں، ایک انگور کا سرسبز درخت ہے اور دوسرا کیکر لاشک، ایک بلبل بار بار انگور کے درخت سے اس کا دانہ چوہنچ میں لے کر درخت پر جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس پر بڑا تعجب ہوا، دیکھا تو کیکر کے درخت پر ایک اندھا سانپ منہ کھولے ہوئے ہے وہ بلبل دانہ لاکر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے! اس نے غور کیا، کہ ایک اندھا سانپ کی روزی کا اللہ چیل شانہ نے یہ انتظام فرما رکھا ہے۔ تو کیا وہ ہمارے لئے نہ کرے گا۔ یہ واقعہ اس کی ہدایت کا بہانہ بن گیا۔ اس سردار نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ اس کا سامان وغیرہ سب واپس کر دیتے۔ یا مالک کے نہ ملنے پر خیرات

کرتے، وہاں سے یہ عہد کیا کہ مکہ مکرمہ چل کر توبہ کریں گے، اور چل دیتے، راستہ میں ایک عورت ملی، وہ اس جماعت کو تلاش کر رہی تھی، جس میں ابراہیم ہی اس سوار کا نام ابراہیم ہی تھا اس بڑھیا نے کہا کہ میں ابراہیم ہی کو تلاش کر رہی ہوں، اس نے کہا کہ یہ نام تو میرے اس عورت نے کہا کہ دو روز سے میں تمہارے لئے کھانا پکا رہی ہوں اور آج بھی یہ عمدہ مرغن کھانا پکایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ برسوں رات میرے لٹکے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت صدمہ ہوا تھا میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ فرمایا ہے میں کہ بڑا صدمہ تمہیں ہوا ہے ایک میرا ابراہیم بھی آ رہا ہے اس لئے میں نے یہ کھانا تیار کیا ہے اور اپنے لٹکے کے کپڑے وغیرہ سب اس کے حوالہ کئے

ماثورہ دعاؤں کی تاثیر ۱۹ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ ارشاد فرمایا:۔ ہمارے دادا کے زمانے میں اتفاقاً نظام الدین کا گھنٹہ بند ہو گیا، شور ہوا، تو حضرت نے فرمایا، کسی چیز کی ضرورت نہیں بسم اللہ سمیت الحمد شریف، آیتہ انکروسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین نین بار پڑھ کر دم کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، وہ چلنے لگا، حضرت خالد بن ولید کا مشہور واقعہ ہے کہ یرموک کی جنگ میں ایک راہب کے شرط لگانے پر بسم اللہ الذی لا ینزع اسلحتہ شی الخ پڑھ کر زہری لیا، اور کوئی اثر نہ ہوا، اس راہب نے عیسائیوں سے کہا کہ اس قوم سے مقابلہ ممکن نہیں؛

آج کا قصہ یہ ہوا کہ پانی گرم کرنے کا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، حضرت نے متند آدمی دوٹائے، ایک صاحب نے پیشہ ظاہر کیا کہ کسی رنگالی نے کچھ کر دیا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ ادھر جا میں بسم اللہ سمیت الحمد شریف، آیتہ انکروسی، معوذتین تین مرتبہ دم کریں، چنانچہ اس کے بعد وہ چلنے لگا۔

ایک خصوصی سوال ارشاد فرمایا:۔ میرے مخاطب خاص طور سے علی میاں اور مولانا منظور صاحب ہیں یہ حضرات بھی مجلس میں حاضر تھے، میں نے ایک سوال خاص خاص لوگوں سے تحریر بھی کیا تھا، گذشتہ سال بھی خواص سے سوال تھا، اور اس سال بھی کہ جمع جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی کیفیت میں کمی محسوس ہوتی ہے،

ایک صاحب نے یہ جواب دیا کہ مجمع کی کثرت جتنی جگ میں ہوتی ہے۔ کیفیات میں کمی ہو جاتی ہے یہی رائے مولانا منظور صاحب کی بھی تھی حضرت نے فرمایا، ماحول کے اثرات ہیں ورنہ مجمع کی کثرت کیا اثر ڈالتی، جب میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ حاضر ہوا، تو ایک صاحب نے طواف کے لئے کہا، تو میں تھر تھر آگیا، میں نے کہا کہ میں حضرت کے ساتھ کروں گلہ چنانچہ حضرت کے ساتھ کیا اس وقت کیا کیفیات تھیں، بیان نہیں کر سکتا، میرے والد صاحب فرماتے تھے: کہ اپنے تدریس حدیث کے زمانے میں ہر رمضان کے بعد سوال میں جو جماعت دورہ حدیث میں آتی ہے۔ اس میں اور پہلی جماعت میں زمین و آسمان لافرق ہو جاتا ہے۔ پچاس سال سے میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔

سند سے زیادہ استعداد مطلوب ہے ارشاد فرمایا: ہمارے مدرسہ مظاہر علوم میں مولانا عنایت الہی کے دور اہتمام میں مدرسہ کی سند نہایت معمولی تھی۔ اس کے بعد اس میں ترقی ہوتی اور آج کل زرق برق تعزیر کی طرح ہو گئی ہے۔ اس پر دستخط کرنے چاہتے ہیں، پہلے یہ دستور تھا کہ بہت سے لوگ لیتے نہیں تھے چنانچہ مولانا ظفر احمد تھانوی رنگون ملازمت پر گئے۔ حالانکہ مشہور تھے۔ ان کا وہاں سے سند کے لئے خط آیا۔ اتفاقاً حضرت ناظم صاحب کے علاوہ سب ان کے شاگرد تھے۔ میں نے ناظم صاحب سے کہا کہ آپ بھی اپنی سند لیں، شاید آئندہ شاگردوں کو دستخط کرنے کی ضرورت پڑے، ہمارے نوجوانوں میں سے شاید کسی نے ہی ہم لوگوں نے بالکل نہیں لی تھی۔ اصل تو یہ ہے کہ

ع:، عنبر آنت کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید۔

ایک شب میں ختم قرآن ارشاد فرمایا: ہم نے سنا ہے، کہ رات نفلوں و تراویح میں حافظ زبیر نے چھتیس پارے پڑھے ہیں؟ میرے لئے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے چچا جان بہت تحیف و ضعیف تھے۔ سہارنپور سے کا ندھلہ تراویح سنانے جاتے، تو دورات میں ایک قرآن ختم کر دیتے۔ بعضی صاحب نے بتایا کہ ایک گھنٹہ میں آٹھ پارے پڑھ ڈالتے، حضرت امام اعظم و امام شافعی کا فقہ ہم نے سن رکھا ہے۔ رفقا نے دو قرآن ایک رات میں اور دوسرا دن میں ختم کر ڈالتے۔ ایک حافظ کے لئے ایک گھنٹہ میں چھ پارے پڑھنا آسان ہے۔ ایک رمضان میں میں نے اپنے بعض دوستوں کو احقرآن ختم کرنے کے لئے نکھا۔ میرے

دوستوں نے کوشش کی، مولوی العام نے ۶ قرآن سنائے، ایک نے ۵۶ اور بعض لوگوں نے ساٹھ ساٹھ ختم کئے۔ اب ہم قویٰ کزود ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ باقی جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔

بہری وادی جان کالغزاند اپنے وظائف کے ساتھ رمضان المبارک میں چالیس پارہ ختم کرنے کا معمولی تھا۔ تذکرۃ الخلیل میں ان کے حالات مذکور نہیں، حالانکہ ہمارے خاندان میں اس زمانے میں خادمہ کھانے پکانے کے لئے نہیں ہوتی تھی۔ اگر فکر لگ جاتے اور صوت کا استخراج ہو تو سب آسان ہے۔

حفظ قرآن دستور کے مطابق ماہ مبارک میں کئی آدمیوں نے حضرت کے سامنے

حفظ قرآن کی نیت سے قرآن مجید کا آغاز کیا، اور دعاری و درخواست کی، دعائے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا: یہ نہ صرف محنت سے ہوتا ہے، اور تہ کوشش سے، بلکہ دعا مانگنے سے یہ دولت ملتی ہے۔ فقہائل قرآن میں ایک تجرب عمل اس کا بتایا گیا ہے جس کو خصوصیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو بتایا تھا کہ اس پر عمل کرنے والوں کے کثرت سے خطوط آئے کہ اس کی برکت سے قرآن حفظ ہو گیا، مولانا امیر احمد صاحب نے اپنا قصہ خود سنایا کہ وہ یہاں شاخ میں مدرس تھے۔ آٹھ، دس روپے تنخواہ پاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تجربہ کرنے کے لئے میں نے اس پر عمل کیا۔ صبح کو آٹھ پون گھنٹہ مدرسہ جلتے ہوئے راستے میں یاد کرتے تھے۔ اور اسی طرح دو باہ گھر کے بعد تفریح میں یاد کرتے تھے۔ بقیہ اوقات میں گنجائش نہیں تھی، اسی طرح مدرسہ کرتے ہوئے سات چہینے میں پورا قرآن حفظ ہو گیا، ان کے چھوٹے بھائی دورہ حدیث میں تھے، میں نے ان کو غیرت دلائی، چنانچہ اس نے دورہ پڑھتے پڑھتے یاد کر لیا۔

ہمارے ہاں کا نذہلہ میں میرے بچپن میں مودن کے سوا سب حافظ تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے: اوتلا تو نے روک رکھا ہے اگر تو تیر ہوتا تو ساری مسجد کے لوگ حافظ ہوتے۔

اپنے مشائخ کیلئے ایصالِ ثواب ارشاد فرمایا: ابراہیم کے لئے ایصالِ ثواب منور کی خصوصی تاکید

ان کے فریضوں و برکات ملتے ہیں۔ حاجی عبدالرحمن صاحب نو مسلم میرے تایا آبا کے زمانے میں اسلام لائے تھے ان کی بہت سی خصوصیات ہیں جو سوانح محمد الیاس میں مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بات

عطا فرماتی تھی کہ ان کے ذریعہ بہت سے آدمی اسلام لائے۔ ایک مرتبہ دہلی میں ایک تانگہ والے کے پاس گئے اس نے کہا کہ میری گاڑی میں جگہ نہیں ہے، بہر حال بہت جھگڑے کے بعد تانگہ والے نے بٹھا لیا اللہ کی شان دہلی سے نظام الدین پہنچے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے میرے چچا جان کے انتقال پر لیک معمول یہ بنایا تھا کہ سورۃ یسین پڑھ کر اور دو رکعت نفل پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ چچا جان نے فرمایا کہ میرے اکابر کو چھوڑ دیتے ہو، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ بہر حال اکابر کے لئے ایصالِ ثواب کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان کے سامنے سرخروئی ہو سکے۔

ہمارے اکابر کے یہاں احقا ہے ارشاد فرمایا: پہلے بزرگوں میں امیر خان صاحب امیرالعوایات ہیں، وہ حج پر گئے، وہاں ایک نقشبندی بزرگ سے بہت متاثر ہوئے، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جب امیر خان واپس آئے تو گنگوہا حاضر ہوئے اور حضرت اقدس گنگوہی کا بدن دبا ہے تھے حضرت کو یہ قصہ سنایا مگر حضرت نے کوئی توجیہ نہیں کی، تو انہوں نے دوبارہ دریافت کیا، حضرت اقدس گنگوہی نے فرمایا کہ سنو، دس سال پہلے تک تو میں حضرت حاجی صاحب سے (جو مکہ معظمہ میں تھے) دریافت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہوں، یہ جو تم نے سنایا وہ اکابر نقشبندی کے دل پہلانے کے لئے ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا: شیخ سے محبت و تعلق کی برکت سے یہ سب ہو سکتا ہے ہمارے اکابر ذرا کھل کر کہنے سے احتیاط برتتے ہیں۔

اکابر کی دعا کے ساتھ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے منتہ سے کوئی بات نکل جاتی حرکت کی ضرورت ہے ہے وہ اکثر اثر کرتی ہے مگر ہر وقت نہیں۔ اس کے خاص

خاص مواقع ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے لئے وضو کا پانی رکھا اس پر کپڑے پوش تھے اور دعا دی اور فرمایا: اعنی علی ذلک بکثرة السجود حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس ایک شخص اولاد کے لئے تعویذ مانگنے آیا۔ تو حضرت نے فرمایا تعویذ تو ہے مگر کچھ کمزور لگاتے کی ضرورت ہے، نسی و دعا بغیر عمل کے کام نہیں کر سکتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون

کے لئے اور کون مانگنے والا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر فزاسی حرکت آدمی اللہ کے لئے کرے گا۔ تو ادھر سے بہت کچھ ملے گا۔

ارشاد فرمایا: آہ بھی کیا کرو، حضرت حاجی صاحب کا شعر ہے۔

ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے
ہے حصّے آہ تجھ بے دست و پا کے واسطے (فقائل رمضان)

ایک تاجر کا کا نامہ ارشاد فرمایا:۔ دنی میں ایک بزرگ حافظ محمد اسمعیل تھے وہ بڑے تاجر تھے، ان کی کئی دکانیں تھیں، کئی کارخانے تھے۔ اللہ کی دین جس کو چاہیں دیں۔ ان کا ہم پر بھی احسان ہے انہوں نے ایک میل سوا لاکھ روپے میں خریدا اور انہا شہادت و محبت ہمارے مدرسہ میں خط لکھا کہ یہ میل غربان کے لئے خریدا ہے، ان کے لئے تنویر کے واسطے رکھا ہے، تاکہ ان کی تنخواہ کی کمی پوری ہو جائے، چنانچہ ہمارے مدرسہ میں مدرسین نے دو تین، پانچ تک کے حصّے خریدے، ان تاجروں کا جس طرف رخ ہو جائے، طبیعت خوب چلتی ہے، اس میل میں بہت سے لوگوں نے حصّہ لیا۔ یہاں تک کہ ملاتے بھی حصّہ لیا، چھ مہینے کے بعد اس میل کو توڑ دیا، مگر جس کے تلو تھے اس کے دو تلو ہو گئے۔ ان کے چار تلو تھے انہوں نے آخر زندگی میں اپنی لکین ان چاروں میں تقسیم کر دی تھی، اور کچھ حصّہ اپنے پاس رکھا تھا انہوں نے اپنے مکان کے سامنے ایک مکتب قائم کیا تھا میرا بھی، چچا جان کے ساتھ اور تھا بھی ان کے یہاں کثرت سے جانا ہوا، مجھے خوب یاد ہے۔ چند برس میں اس مکتب سے تقریباً سو حفاظ نکلے، وہ خود بھی قرآن سنا کرتے تھے، اپنی لڑکیوں تک کو حافظ کر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ جس کو دینا چاہے دیتا ہے

اصل علاج رُوح کا ہے ارشاد فرمایا:۔ اس وقت ڈاکٹر غلام کریم صاحب علاج کے بہت شوقین ہیں۔ اس وقت میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہ میگزین دیکھنا اور نہ دوا دینا، آپ ڈاکٹروں کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، خفا تہ ہونا اگر کوئی روٹی نہ کھائے تو کہتے ہیں، کہ صنعت آگیا ہے ہم لوگوں کو فکرم ہوتی ہے۔ غمیرہ چاہیے۔ دوا چاہیے، اور ادو وظائف رُوح کی غفلت ہیں۔ مگر ان کے چھوٹے پراسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اصل رُوح ہے۔ رُوح کے ضعف کی فکرم نہیں ہوتی، اور جسم کی فکرم

ہوتی ہے، رُوحِ اصل ہے، اسی سے جسم کا قوام ہے۔ رُوح میں اگر قوت ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے چچا جان کو دلی کے مشہور ڈاکٹر نے دیکھا اور میت سے آلات لگا کر دیکھا۔ اور کہا کہ یہ زندہ کس طرح ہیں، جسم میں قوت نہیں ہے، صرف رُوح کی قوت سے زندہ ہیں، ہمارے شہر کے مشہور ڈاکٹر، ڈاکٹر برکت مرحوم حضرت مدنی کو دیکھتے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ میں بھی جاتا تھا۔ انہوں نے کسی دفعہ مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے آلات کے ذریعہ حضرت کا اچھی طرح معائنہ کیا، طبی اصول سے ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے معادہ اور جگر وغیرہ نے جواب دے دیا ہے۔ البتہ دل بہت قوی ہے اس میں ضعف نہیں ہے، اس لئے کہ رُوح کو غفلتی رستی ہے چنانچہ انتقال سوتے سوتے ہو گیا، حضرت کو دل کی بیماری بتائی گئی تھی۔ اس لئے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نمیم کریں، اور بیٹھ کر نماز پڑھیں، مگر ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، کبھی تیمم کر لیتے اور کبھی منو میرے چچا جان نے تو اخیر تک منو سے نماز پڑھی، میرے چچا جان نے انتقال کے وقت آخرات میں فرمایا تھا کہ میزاجی چاہتا ہے کہ خوب غسل کروں، اچھے کپڑے پہنوں اور خوشبو لگاؤں، یہ بھی فرمایا تھا کہ آج میری آخری رات ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح رہوں۔“

ارشاد فرمایا، ایک بزرگ تھے۔ ان کی قبر کی جماعت فوت ہو گئی۔ صبح سے رنج و غم میں وہ بزرگ بیٹھے رہے، فرمانے لگے کہ تپے حسی کی کوئی حد ہے، اگر میرے لٹکے کا انتقال ہو جاتا تو میت لوگ میرے یہاں تعزیت کے لئے آتے اور نمازی جماعت چھوٹ جانے پر کوئی تعزیت کے لئے نہیں آتا۔“

میرے دوستوں کو خوب کر لو، دنیا و آخرت دونوں جگہ کام آتے گا۔ رُوح میں اگر قوت آجاتے تو بیماری وغیرہ سب ٹھیک رہتی اور اگر اس میں ضعف ہے تو مشکل ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کی قات ہر عملو اور قول پیدا ہو جائے، یہ صرف زبان پر نہیں بلکہ دل میں آتا ہے۔ تو ڈاکٹر وغیرہ کی چنداں ضرورت نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر اپنا سالانہ اتنا شہ لے کر حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لائے۔ دونوں کا مال آپ نے قبول فرمایا، ایک اور صاحب سونے کا ایک ڈلا لے کر آئے۔ اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے رخ مبارک پھیر لیا، دوسری طرف آئے، پھر آپ نے رخ

مبارک پھیر لیا، پھر تیسری طرف آئے، لاوی بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے وہ ڈھیلہ کھینچ کر پھینک دیا، اگر لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔

حضرت یحییٰ بن یحییٰ کا مل توکل کے مقام پر تھے، اس لئے آپؐ نے قبول فرمایا۔ اور یہ صاحب اس درجہ پر نہیں تھے، اس لئے آپؐ نے واپس فرما دیا۔

دنیا مسافر خانہ ہے حضرت اقدس رفیقو منہم کی طبیعت ناساز تھی، ڈاکٹر غلام کریم صاحب بازار سے دو آخرید کر لیتے تھے فرمایا رکھ دو رمضان کے بعد دیکھیں گے ہمارے حضرت اقدس راجپور تھی فرمایا کرتے تھے، کہ مرفہ کے بدن پر ممکن مل دینے سے قوت نہیں آتی، اس کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر کسی وقت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے ٹھہر جائے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھجا۔ ارشاد فرمایا: ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، کسی غیر ملک میں باہر جانے والے کے لئے دشواری ہے وہ پیسے نہیں لے جاسکتا، یہی حال عالم آخرت کا ہے، البتہ عالم آخرت کے لئے پیشگی بھینچنا آسان ہے۔ وہاں جو عمل کر کے بھیجے گا، اس کے لاکھوں اور اس سے زائد ملیں گے۔

ارشاد فرمایا: میرے پیارو! بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، نہ بھائی، نہ بیوی، اور نہ کوئی اور، شاید یہی کوئی تمہارے لئے ایصالِ ثواب کرنے، اس لئے زندگی کو غنیمت سمجھو اور بھیجتے رہو۔

ایک غیبی مدد ۲۶ رمضان المبارک ۱۳۵۷ھ کو ڈاکٹر عبدالمنان صاحب مرحوم جن کو نین مرتبہ قلبی دورہ پڑ چکا تھا۔ انہیں ان کے وطن پٹنہ بھیجا تھا۔ اسٹیشن بھیجنے کے لئے کار کی ضرورت تھی حضرت نے مولوی نصیر صاحب سے کار کے لئے کہا تھا۔ انہوں نے شہر میں نین چارجنگ آدنی بھیجے تھے اتنے میں مراد آباد کے کچھ لوگ کار سے آگے حضرت نے مولوی نصیر سے کار کے لئے منع

فرمایا۔ اور مراد آباد والوں کی کار سے ڈاکٹر صاحب کو اسٹیشن بھیجا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت تھی، بڑودھ سے ڈوریلوے کے ملازم عید کرنے سہارنپور حاضر ہوئے ان دونوں کے پاس فنٹ کلاس کا پاس تھا۔ چنانچہ وہ دونوں پلٹے تک ڈاکٹر صاحب کو پہچانے گئے، اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے شمار احسانات ہیں۔ وہی مرتی حقیقی ہے، افسوس یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنے وطن پہنچ کر چند دنوں کے بعد قابل رشک حالت میں انتقال ہو گیا۔

ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

ارشاد فرمایا:۔ ڈاکٹر صاحب میرے لئے دوائیں تجویز کرتے ہیں۔ مگر رمضان تو میرے لئے دوا کا ہوتا نہیں۔

عادت کو عبادت کا درجہ نہ دیا جائے چائے کی عادت شام کو ساری زندگی رہی

اور رمضان میں نرا ویج کے بعد چائے پیتا تھا؛ مگر دو تین دن سے اس کی طرف بھی رغبت نہیں رہی ارشاد فرمایا: میرے چچا جان چائے کے مخالف تھے۔ اور مولانا یوسف وانعام چائے کے عادی تھے۔ دونوں پر خفا ہوتے تھے کہ تبلیغی آدمی کو ہر جگہ چائے کہاں لے گی، ایک دن میں تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ ان دونوں نے چائے چھوڑ دی، بہت خوش ہوئے، بعد میں بتایا گیا کہ چائے کی پٹریا جو سرائے میں ملتی تھی، اب لڑائے کی ہو گئی ہے۔ اس لئے چائے ان دونوں نے چھوڑ دی، فرمایا۔ لاجل ولاقوۃ اس لئے چھوڑ دی، جو مالک سرائے میں دیتا تھا، وہ لڑائے میں بھی دے گا۔ حضرت اقدس رائے پوری کا جس زمانے میں قیام بھٹ ہاؤس سہارنپور میں تھا۔ میں شام کو سبق پڑھا کر عصر کی نماز پڑھ کر سیدھے بھٹ ہاؤس جاتا تھا۔ وہاں حضرت کو معلوم ہوا کہ عصر کے بعد کی چائے میں نے چھوڑ دی ہے، حضرت نے قلام کو حکم دیا کہ شیخ کے لئے چائے بنائی جائے۔ بعد نے عرض کیا کہ تھوڑا سا وقت آپ کی خدمت میں حاضری کا ملتا ہے، عادت کو عبادت کا درجہ کیوں دیا جائے۔ اس پر حضرت کو بہت لطف آیا۔

نماز کے اوقات کے اسرار ارشاد فرمایا: اللہ جل جلالہ کی حکمتوں اور احکام

کے اسرار تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ہر کام میں حقیقی حکمتیں پنہاں ہیں وہاں تک ہمارے ذہن نہیں پہنچ سکتے، لیکن بعض احکام کی حکمتیں آشکارا ہوتی جا رہی ہیں، جن احکام کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتیں ان کو فقہانہ تعبیری کہتے ہیں۔

نماز کے اوقات میں ایک خلیان ہے، کہ صبح کی اور ظہر کی نماز میں ایک طویل فاصلہ ہے اس کے بعد مسلسل چار نمازوں کے اوقات ہیں، یہ عدم تناسب ظاہر کے اعتبار سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہمارے حضرت اقدس نقیؒ نے ایک رسالہ المصالح العقلیۃ فی المسائل^۱ لکھا ہے اس میں اس کی دو توجہیں سکھی ہیں، اس کی ایک توجہ مجھے پسند آئی، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو بھی بہت پسند تھی۔

حضرت نے فرمایا: اس میں انسانی زندگی کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ صبح کی نماز اس دنیا میں انسان کی پیدائش کا نمونہ ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ سو کر بیلار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَا بَعْدَ مَا اَمَاتَا وَالِیْهِ الْمُنْشُورُ اور اس کے بعد کازمانہ بچپن و عفتوان شباب کا زمانہ ہے، زوال کے بعد ظہر کی نماز رکھی گئی ہے۔ گویا اس میں انسان کی کہولت کی طرف اشارہ ہے، آدمی کو اٹلا دی جاتی ہے کہ عمر سنم ہو رہی ہے اور عصر کی نماز گویا اس کا الارم ہے کہ پوڑھا پایا گیا، قبر کی فکر کو غروب آفتاب موت کی خبر دے رہا ہے موت کو یاد کرنے کے لئے مغرب کی نماز فرض کی گئی، اور عشاء کی نماز غروب شفق کے بعد پڑھی جائے گی۔ گویا مرنے کے بعد کچھ ذکر و تذکرہ انسان کا باقی رہتا ہے۔ اس میں مشابہت ہے شفق سے، پھر دنیا اس کو بھلا دیتی ہے کہ کون تھا۔ اس کو یاد دلانے کے لئے عشاء کی نماز فرض کی گئی، کہ نام و نشان مٹ جائے گا۔

اصناف سے

مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمیں گئی آسماں کیسے کیسے

حضرت مدنیؒ نے ایک توجہ یہ اور کی ہے، اس پر میں نے حواشی لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ وہا خلقت، بمن والانس الا لیعبد ورت
اس آیت کریمہ میں حصر ہے کہ انسان کی پیدائش کا بس ایک ہی مقصد عبادت ہے۔ حق تعالیٰ نے
انسان پر بے شمار احسانات و انعامات کئے ہیں اور مسلسل ان کی بارش ہو رہی ہے! عفتاء السانی یہ ایسے
انعامات ہیں کہ ان کا احصاء نہیں ہو سکتا، غور کرو اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوں تو تم بت کی مانند نظر
آنے، اگر کان کی سماعت رائل ہو جائے تو دنیا کی آوازوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اگر منہ
کی انگلیاں کٹ جائیں، تو تم ایک لوٹا تک نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لئے قرآن نے کہا ہے "وان تعدوا نعمة الله
حضرت سہارنپوری قدس سرہ قد فرمایا، نعمت کو واحد استعمال کیا گیا ہے۔ جیب ایک نعمت کا
احصاء ممکن نہیں تو خدا کے انعامات بے شمار ہیں، ان کا احصاء کیونکر ممکن ہو گا؟ آدمی جیب کسی کو ڈوکر
رکھتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری ہر وقت فرمائش براری کرے، پس اللہ تعالیٰ کے احسانات
کا تقاضا تھا کہ تم ہر وقت عبادت میں مشغول رہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر صرف چند
اوقات کی نمازیں فرض کی ہیں گویا ہمارے اوقات کو تقسیم کر رکھا ہے، آدھا اپنے لئے اور آدھا ہمارے لئے
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رات عبادت کے لئے مقرر کی جاتی اور دن کام کے لئے، مگر اس میں ہمارے لئے دشواری
تھی کیونکہ بہت سی ضروریات ہماری رات سے وابستہ ہیں، اسی طرح اس کے برعکس کرتے میں بھی ہمارے
لئے دشواری تھی، اللہ جل شانہ نے دن میں آدھا اپنے لئے رکھا۔ صبح سے ظہر تک کام کے لئے اور ظہر سے
مسلح چار اوقات کی نمازیں ہیں، صاحب نورا انوار نے لکھا ہے کہ عزیمت یہ ہے کہ پورا وقت نماز
میں صرف کیا جائے مگر مالک نے کم فرمایا، صرف چند رکعتوں کو پورا شمار کر لیا اس کے بعد قرآن میں
حضور نے تخفیف کو مستحسن قرار دیا، رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لئے بنایا اور دن کو مشغولیت کے
لئے رات میں سونا ضروری ہے خواہ تھوڑا ہی ہو، وہ کفایت کرتا ہے۔ بر خلاف دن کے سونے کے اسی
لئے عشاء کا وقت مستحب لطف لیل تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کیونکہ آرام کا وقت ہے۔ اس کے
بعد ایک ضابطہ تیار کیا کہ جس کے صحیفہ میں جس کو روزانہ صبح و شام فرشتہ خدا کی بارگاہ میں پیش
کرتا ہے۔ عبادت ہو، مالک کے کرم سے امید ہے کہ اس کو معاف فرمادیں گے۔ اسی لئے مغرب

کے مقابلہ میں فجر کی نماز رکھی گئی اور صبح و شام تسبیحات کا پڑھنا مسنون ہے، سوتے وقت کی دعا بتائی گئی کہ پڑھ کر چپکے سے سو جاؤ تاکہ صحیفہ کے دونوں حصے میں عبادت آجائے! اسی سبب سے ظہر میں تعمیل اگر گری ماوسم ہونو بلو افضل ہے۔ اور عصر میں تاخیر افضل ہے کہ صحیفہ کے دونوں طرف عبادت میں آجائے اور حیران کے حصہ کو مالک اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں

بہر حال نماز کے اوقات میں اللہ کے احسانات کے مناسب یہی تھا کہ پورے وقت میں نماز ادا کی جاتی مگر ہماری ہولت کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا کہ چند رکعتیں خواہ مختصر سی اگر پڑھ لی جائیں تو مالک قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ نوافل کو رکھا گیا، اگر کوئی عزمیت پر عمل کرنا چاہے، تو پڑھ لیا کرے، تہجد و اوابین چاشت و اشراق کی نماز میں اسی قبیل سے ہیں، میرے ذہن میں اوقات کی تقسیم یہ ہے: ۸ گھنٹے تو سونے اور کھانے وغیرہ کے لئے اور آٹھ گھنٹے عبادت کے لئے اور آٹھ گھنٹے ملازمت و دیگر ضروریات کے لئے۔

عقد صاحب کے ایک مرید کا واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب و غلط فرمایا ہے تھے۔ وہ سادے آدمی تھے مگر نماز کی حلاوت سے آشنا تھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب! تیرا تو صحیح جنت میں بھی نماز ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں! تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسی جنت کو لے کر میں کیا کروں گا، ایک بزرگ کی خواہش تھی کہ قبر میں مجھے تلاوت کا موقع ملے، چنانچہ ان کی قبر سے تلاوت کی آواز سنی گئی۔

فکر آخرت ارشاد فرمایا: "عد و اللہنکم فی الموقی" اپنے نفسوں کو مروی میں شمار کرو، یہ تصور قائم ہو جائے تو ہر عمل آسان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ مال بانٹ دیا، لوگوں نے کہا کہ اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا، تو فرمایا، اگر میری اولاد صالح ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "واللہ و فی المؤمنین اللہ تعالیٰ مؤمنین کا کارساز ہے اور اگر غیر صالح ہے تو ان پر اپنے پیسے کو صائل نہیں کرنا چاہتا۔

ارشاد فرمایا۔ اور اودو تلاف کے لئے ہمیں وقت کیوں نہیں ملتا، جب کہ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں سب کو معلوم ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ جیسے خواب کہ اس میں بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس آٹھ کھلتی ہے، تو کچھ نظر نہیں آتا، اگر اس زندگی میں اچھے اعمال نہیں کئے گئے، تو یہ دیال جان بن جائیگا

ارشاد فرمایا: مدرسہ کا کوئی طالب علم حیب انتقال کرتا تھا تو اپنی جوانی میں خود اس کو نہلاتا تھا اور مفتی سید صاحب مرحوم میرے رفیق ہوتے تھے، موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ آفتوں کو توڑنے والی ہے، جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے اگر کوئی ہنستا ہے، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، مولانا شبیر علی صاحب تھانوی کی اہلیہ کے انتقال کی خبر پر ایصالِ ثواب کی طرف توجہ دلائی، مجھے سبلی کے بندھن نے پر موت یاد آتی ہے۔

حضرت ولی اللہ صاحب ارشاد فرمایا: جنسور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اکابر کا کے والد صاحب کا واقعہ فائدہ اختیاری تھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لے لیں

صنہ میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے اپنے انتہائی دور میں دائمی طور پر رونہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ پھر انہیں اس مسئلہ میں علماء کے اختلاف کی وجہ سے تردد ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے آپ کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے ایک روٹی عنایت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الحمد للہ! مشترکہ میں نے ان کے سامنے اس کو پیش کیا، انہوں نے بھی اس میں سے ایک ٹکڑا توڑ لیا۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا: اے اہل بیت! مشترکہ میں نے عرض کیا، اگر اس طرح میں تقسیم کرتا رہا، تو اس فقر کے لئے کیا باقی رہے گی! انہوں نے انکار فرمایا، اتنا اضافہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر سے سلسلہ سلوک ملتا تھا، اور حضرت عمر سے سلسلہ نسب، اس لئے میں مرعوب ہو گیا، اور حضرت عثمان سے ان دو میں سے کوئی بات نہیں تھی، اس لئے میں نے عرض کیا۔

آداب کی رعایت ارشاد فرمایا: میرے دوستوں آداب و مستحبات کی رعایت ضروری ہے مشہور حدیث ہے: "من ترک الصلوٰۃ فقد کفر" جس نے قصداً نماز کو ترک کر دیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، معصوم کی درستگی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے: "لا تختلفوا تختلف قلوبکم" تم (معصوموں میں) اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اختلاف کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہے: جو آداب میں تہاؤں کرتا ہے، کسی ایک ادب کو بیاری یا مشغولی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ایک تہاؤں کی بنا پر چھوڑتا ہے۔ سالیکن کے لئے آداب کی رعایت عمل کے اعتبار سے وجوب کے درجے میں ہے۔ بہر حال حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہے، کہ جب آدمی تہاؤں کی وجہ سے آداب کو چھوڑتا ہے، اس

پرخدا کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہو جاتا ہے اور سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں۔ تم دیکھ سکتے ہو، کہ آدمی جب کسی برائی کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ عادتیں اس کو اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں، بہر حال اس پر سنت کے چھوٹنے کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ شروع میں ایک دو دفعہ چھوٹنے پر ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے مگر جہاں دو چار دفعہ چھوٹیں تو پھر یہ کیفیت بھی جاتی رہتی ہے اس کے بعد اس پر قائلض کے چھوٹنے کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اور جب قائلض چھوٹنے کا عذاب مسلط ہو جائے تو اس پر معرفت کا حرمان مسلط ہوتا ہے اور سوہ خاتمہ کا عیاقا باللہ نالیشہ ہوتا ہے، فقہ کفر کا یہی مصداق ہے، ہر خبر خیر کو کھینچتا ہے اور ہر شر شر کو کھینچتا ہے۔ جب آدمی اپنے کسی علم پر عمل متروک کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کو دیگر علوم کی طرف کھینچتا ہے۔ آج تمام مدرسین سے ہزاروں فضلا نکلتے ہیں، مگر ڈھونڈنے پر کوئی مدرس نہیں ملتا، کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں آداب کو پیش نظر رکھ کر پڑھتے والے بہت کم ہیں، پڑھنے کے زمانے میں اگر آداب کی رعایت رکھ کر پڑھتے تو اس کی برکتیں حاصل ہوتیں۔ پہلے زمانے میں اتنی استعلا ہوتی تھی کہ بے پڑھا ہوا پڑھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آج معاملہ برعکس ہے

طالب کیلئے بیعت مفید ارشاد فرمایا: ہمارے بڑے حضرت رائے پوریؒ فرمایا کرتے تھے

ور نہ غیبر مفید، کہ حال لگا رکھا ہے اس امید پر کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ

پھنس جائے۔ یہ جب ہوگا جب طلبِ صادق ہو، بغیر طلبِ صادق کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میل بھی بھریہ ہے جو اپنی رغبت و خواہش سے بیعت ہوا، اس کو تو قائمہ ہوا، اور جس نے کسی سفارش پر بیعت کی، اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وکیل عبداللہ مرحوم کو حضرت سہارنپوریؒ سے خصوصی تعلق تھا، میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت جیبا نہیں ایسا تعلق ہے، کچھ ذکر و مشغل انہیں بتادیں تو حضرت نے فرمایا کہ بلا طلب نہیں بتا سکتا، میں نے عرض کیا کہ میں کھ دوں، حضرت نے فرمایا، اپنی طرف سے

حضرت سہارنپوریؒ کے صاحبزادے گنگوہ بیعت کے لئے حاضر ہوئے، تو حضرت نے فرمایا مولوی خلیل احمد نے ترغیب دی ہوگی، حضرت سہارنپوریؒ نے عرض کیا، اس سے میں نے نہیں کہا ہے، البتہ مولانا کیلی وغیرہ ترغیب دیتے تھے میرے حضرت تو آفتاب ہیں، یہاں ترغیب کی کیا ضرورت،

علماء مدرسین سے خصوصی خطاب ارشاد فرمایا، کسی کی آبروریزی بڑی سخت چیز ہے

اگر کوئی کسی کو گولناچا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جواب نہ دے، علماء و مدرسین میں یہ فرض زیادہ ہوتا ہے، وقار کا مسئلہ مولویوں کی جماعت میں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمیں اپنے وقار کو بڑھانے اور دوسروں کو گولنے کی فکر نہ کرنی چاہیے۔ آج کل مدرسین عام طور پر دوسروں کے وقار کو گولنے میں اس قدر لگ گئے ہیں کہ دوسرے تو گرتے نہیں خود گرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "من تواضع لغتہ رفعہ" جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، آج کل ہمارے آپس کے فسادات بڑھتے جا رہے ہیں، میں نے اسلامی سیاست میں اس مضمون کی بہت سی حدیثوں کو جمع کر دیا ہے۔ علماء کرام کو خاص طور سے بار بار پڑھنا چاہیے۔ جس طرح حضرت تھانوی نے سکھا ہے کہ میرے اس مضمون کو تین دفعہ پڑھو، اسی طرح میں بھی تاکید کرتا ہوں کہ اعتدال کو بار بار پڑھو، حدیث میں آیا ہے: "من عادی لی ولما افتقدتہ بالخرت جو میرے کسی دلی سے دشمنی کرے، اس کے ساتھ میں نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ اس کی پردہ دری کرتا ہے، بھائی صمت و حیات کا ٹھکانہ نہیں، اس لئے تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ اگر کسی کو صحت دے تو اس کو ذلیل کرنے کی فکر نہ کرنا چاہیے۔ اضافہ از مرتب

چون خلا خواہد کہ پردہ کس درو
میلش امد طاعتہ پاکان زند

حد حرام ہے اور رشک جائز ہے، تم خود بڑھو اور امتیاز پر بارگاہ میری ابتدائی مدرسہ میں میرے اور مولانا عبدالرحمن صاحب کیمبل پوری کے درمیان طلبہ کا یہ دستنورین گیا تھا: میری تقریریں کران کے سبق میں جا کر اعتراض کرتے اور وہاں کی یہاں نقل کرتے، ہم دونوں نے بار بار کہا کہ کسی استاد کا نام لے کر اعتراض نہ کیا جائے، بلکہ مولانا نے یہ فرمایا کہ جب شیخ نے یہ مطلب بیان فرمایا، تو یہ متر کیا جو اس سے اختلاف کرے انہیں باتوں سے مدرسین میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس اور دینی جگہوں پر یہ مرض عام ہے، لا احتمال حضرت مدنی کے یکس میں رہتی تھی حضرت تھانوی کی مجلس میں اس کا ذکر آیا، تو فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے بھائی سعید حضرت نگینوی کے پوتے تھے مزاج میں تیزی تھی میری ان سے زندگی بھر لڑائی رہی میرے بہت اصرار پر آخر میں حضرت مدنی سے بیعت ہو گئے تھے ایک مرتبہ میری وساطت سے ان کی ابتدائی

مدنی میں دس روپے آئے، میں نے کہا کہ کیا کرو گے، انہوں نے کہا کہ حلوہ کھاؤں گا۔ دفاع میں فوج آئے گی، پھر مولانا انور شاہ صاحب بن جاؤں گا۔ مدرس نئے، کہتے تھے کہ کتب خانہ میں جانا ہوں، تو ناظر کتب خانہ کہتا ہے کہ جاؤ جہنم سے بکھا کر لاف، اور مولانا انور شاہ صاحب جب کتب خانہ میں آتے ہیں، اس سے کتب خانہ والے ڈرتے ہیں، جب مولانا انور صاحب جیسا بنوں گا تو لوگ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے۔ بہر حال بھائی سعید ایک روز آئے اور کہا کہ الامتدلال آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، میں اس کے دس نسخے خرید کر اپنے انگریزی دان دوستوں کو تقسیم کروں گا۔ مگر میں نے ان کو ہدینہ حوے دیتے۔

ہمارے حضرت گنگوہیؒ کا مقولہ ہے کہ مادح و ذام کو ریل پر سمجھنا ہوں، معمولات کی پابندی کرو، ہر چیز میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھو دوسری چیزوں کی طرف التفات نہ کرو، لوگوں کے مدح و ذم کی پرواہ نہ کرو، محفلات سے بچتے رہو، بزرگوں کا مقولہ ہے، اربا صرف اس کا نام نہیں، کہ لوگ بڑا سمجھیں، یہ تو شرک ہے، لوگوں کے دیکھنے کے سبب سے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریل ہے۔

۱۳۹۱ھ کا رمضان المبارک یہ ناکارہ اس سال ۵ شعبان بروز ثنبہ حضرت اقدس مافیوضمہ کی نمازت بابرکت میں حاضر ہو گیا تھا، حضرت اقدس مافیوضمہ کی طبیعت رمضان المبارک سے قبل سخت خراب ہو گئی تھی۔ شدید بخار تھا، اعٹکاف بظاہر مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ مگر ایک دن کی نیت سے اعٹکاف کیا۔ اس کے بعد مستقل نیت کرنی، اور سجد اللہ چہ روز کے بعد بخار جاتا ہے۔

۲۹ چاند نظر نہیں آیا، اور یوم جمعہ سے رمضان کا آغاز ہوا، نیز اس سال حضرت اقدس نے اپنے بیت سے خاص کو تحریر فرمادیا تھا کہ اپنے اپنے مقامات پر یہاں کا ماحول قائم کریں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ مختلف مقامات پر یہاں کا ماحول قائم کیا گیا، یا مقصود جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے ہتھ مولانا سید بزرگ صاحب کا مسلسل تقاضا تھا کہ مفتی اسمعیل صاحب جامعہ کی مسجد میں اعٹکاف کریں۔ سجد اللہ اخیر عشرہ میں وہاں متکفین کی تعداد تنو کے قریب ہو گئی تھی، جس پر حضرت اقدس نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، اسی طرح مولانا ستیا صاحب اور مولانا عبدالرحیم صاحب بھیب آبادی اور مولانا عبدالرحیم صاحب تالا کاڑمبیا سے اور مولوی یوسف صاحب سلمہ کاندن سے اسی مضمون کا خط آیا، کہ ہر جگہ کچھ لوگوں نے اعٹکاف کیا، اور یہاں کا ماحول قائم

کیا، اس لئے اس سال رمضان المبارک کی ابتداء میں گذشتہ سال کے مقابل میں جمع کم رہا، البتہ اخیر عشرہ میں یہ تعداد تقریباً پانچ سو پہنچ گئی تھی۔

ہر سال کی طرح اس سال کے رمضان المبارک کے وہی معمولات تھے؛ البتہ مغرب کی نماز کے بعد کی مجلس میں حضرت اقدس کے ضعف و لقاہت کے سبب ملفوظات کا سلسلہ بہت کم رہا، ابتداء میں سہکت کی مجلس ہی اس کے بعد کبھی کبھ موقع کی مناسبت سے ارشاد فرمایا پھر اس مجلس میں بھی کتاب ستانے کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ عید کے چاند میں ٹری گز ٹر رہی، صبح کو اس کا شوٹ شرعی معلوم ہو سکا، عید شبہ نہ کو ہوئی۔

قابل رشک موت ارشاد فرمایا، اپنے زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت پہنچانی چاہئے۔ مولانا احمد سعید صاحب دہلوی کے وعظ کے دو شعر بہت مشہور تھے بتیاد رہی کوئی وعظ ایسا ہوتا ہو جس میں وہ ان کو نہ پڑھتے ہوں، پھر حضرت اقدس نے ان اشعار کو بہت دروسے متعارف دیا پڑھا۔

زلگالے نہ چند یا گنت دھالے نہ سیس تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن
تہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی کھڑی متہ تنکے گی اری دن کے دن

فرمایا، بھائی! معلوم نہیں کب وقت آجائے، بھائی اکرام والد زیر گوار حضرت مولانا العالم اہم صاحب، کی موت بے شک قابل رشک ہے، حالت سجدہ میں ان کی روح پرواز کر گئی، یہی حال والدہ ہارون کا ہوا تھا، کہ دوسرے سجدہ میں اس کی روح پرواز کر گئی۔

تبلیغی جماعت کی ضرورت ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کی عادتِ شریفہ یہ ہے کہ جب مرض کہیں اترتا ہے، تو حق تعالیٰ اس مرض کے موافق کوئی دوا آما کر کرتے ہیں، اب سے تلورس پہلے جب یہاں انگریزوں کا اقتدار ہوا، تو انہوں نے ہمارے مذہب کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور ہمارے عقائد و اعمال کو تبدیل کرنے کے لئے درپے ہو گئے، انگریز بڑے مدبر و ہوشیار تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس وقت ہمارے اکابر کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس انگریزی اور مغربی تہذیب کے فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لئے مدارس قائم کرو، چنانچہ ان حضرات نے مدارس قائم کئے اور ان کے مساعی سے مدارس کا یہ سلسلہ قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر علوم بہار، تپور شاہی، مراد آباد وغیرہ مدارس اسی زمانے میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے قائم کئے

اللہ جل شانہ نے بڑی مدد فرمائی مگر تیرا پتے منھو لے میں ناکام رہے۔ اور ان کی اسکیم پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی اور ان مدارس کی برکت سے بہت سے لوگوں نے دین کو اپنایا اور اس پر استقامت دکھائی، حالانکہ ان اکابر کے پاس نہ مال تھا نہ حکومت تھی، البتہ ان تصویریں میں انگریزوں نے ہمارے نوجوان طبقہ کو دین سے ضرور پریشان کیا اور آہستہ آہستہ ان کی تہذیب و ثقافت نے نوجوان و عوام الناس کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کر لیا اور اس قدر متاثر کیا کہ حالت بدل گئی، اسی فتنہ و مرض کے علاج کے لئے اللہ تعالیٰ نے تبلیغی کام کو جاری فرمایا اب اس کی قدر و ثقی یہ ہے کہ ہمیں پوری توجہ اس کی طرف کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ جب کسی بیماری کا کوئی علاج تجویز ہو جائے۔ اگر کوئی اس پر استقامت دکھائے گا۔ تو کامیاب ہو گا۔ ورنہ اپنا ہی نقصان ہو گا۔

آج سے سو برس پہلے عام طور پر قلوب میں دین اور علم دین کی عظمت و قدر تھی، ہر گھر میں مدرسہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ مدارس قائم ہوئے تو ان کا نام سنتے ہی لوگ ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے، مگر آج ایک صدی گزرنے کے بعد انگریزی اثر نے ہمارے مدارس و خانقاہوں اور مکاتب سے عام لے تو جہی پیدا کر دی ہے، اس کی بنا پر اس کی ضرورت ہوئی کہ لوگوں کے گھروں پر جا جا کر انہیں متوجہ کیا جائے۔ کیونکہ پہلے جب لوگ کسی شیخ کا نام سن لیتے تھے، تو خود بخود اس کی طرف آتے تھے۔ اور فیض یاب مہنتے تھے۔ یہی حال مجالس و مدرسوں و مکاتب کا تھا مگر آج حالات بدل گئے اس لئے تبلیغ کی ضرورت پڑی مشرق و مغرب میں ہر جگہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ تبلیغ کی برکت سے لوگ دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔

مدارس و خانقاہیں اس وقت مقبہ رہوں گی جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کے لئے تبلیغ ہے، بغیر لوگوں کی توجہ کے کوئی نفع اٹھانے کے لئے نہیں آئے گا۔ مجلس میں ترکی کی جماعت تھی اب ہر مشورہ ہے کہ یہاں سے طوفانات مولانا محمد الیاس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ترکی میں ترجمہ کرا کے اس کو سمجھو اس میں سب تفصیل آگئی ہے۔

موجودہ دور میں جس طرح دین کمزور رہا ہے۔ اسی طرح مطالع کی کثرت کی بنا پر تہذیبی مطبوعات طبع ہو رہی ہیں، حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے حیدرآباد سے سنن ہبیبی کا ایک نسخہ نقل

کہا ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے حضرت نے گنگوہے ان کی نقل کر کے مدرسہ مظاہر علوم کے کتب خانہ میں داخل کر دیا۔ اس کو مولانا ثابت علی صاحب مہتمم مدرسہ ٹری مشکل سے کسی کو دیکھنے کے لئے دیتے تھے۔ حضرت اقدس سہارنپوری کو العبدیہ، النہایہ، کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ بنگلاس زمانے میں حسرت ہی رہی مصنف عبدالرزاق اور بہت سی وہ کتابیں جن کا مولانا علی لٹری صاحب نے الفاظ النہیۃ میں ذکر فرمایا ہے۔ طبع ہو کر آرہی ہیں، مولانا ثابت علی صاحب جہنم فرماتے تھے کہ مولانا زکریا، جون جوں استعداؤں گرفتی جا رہی ہیں ستریں اتنی ہی لمبی ہو رہی ہیں ہیرے پاس بعض اکابر کی ستاروں موجود ہیں، میرا چاہتا ہے کہ ان کا فوٹو چھاپ دوں، بہر حال میں بیان کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں دینداری تھی ۱۸۵۵ء کے عہد میں انگریزوں نے مسلمانوں کے کاٹوس کے باسے میں کہا کہ اس میں سونے کی چربی رہتی ہے۔ اور ہندوؤں سے کہا کہ اس میں گائے کی چربی رہتی ہے یہ انگریزوں کی سیاست تھی۔

اسی زمانے میں کا ایک قصہ ہے کہ لٹے پور کی نہر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ اس میں ایک سونے کا ڈالا ملا، نافونہ کے قریب ڈپٹی کلکٹر کا خیمہ پڑا تھا۔ چنانچہ مزدور ایک ستارے کے سر پر رکھ کر ڈپٹی کے پاس لے گئے اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بہت ہی گھورتا رہا۔ اور تعجب کرتا رہا۔ اس کے بیٹیں برس کے لگا رہے وہ ڈپٹی مظفر نگر میں کلکٹر ہو کر گیا، تو اس کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، کہ ایک سقے نے ایک لڑکی کے کان سے سونے کی بانی نکال لی ہے اور اس کو کتوتیں میں ڈال دیا ہے، جب کلکٹر نے اس کے باسے میں دریافت کیا تو اس ستارے نے کہا کہ میں نے سنا سمجھ کر نکالا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پتیل کی ہے اس لئے کتوتیں میں ڈال دیا، وہ کلکٹر بہت دیر تک بیٹھ کر غور کرتا رہا اور اس ستارے کو پہچان لیا، اور کہا کہ تم ہی تو نافونہ میں میرے پاس سونے کا ڈالا لائے تھے؟ اس نے قرا کر کیا، اس نے کہا کہ یہ فرق کیوں ہو گیا ہے۔ ستارے کہا کہ اس زمانے میں دوسرے کی چیز اپنے پاس رکھتی مشکل تھی، مگر اب وہ بات جاتی رہی، اس انگریز کلکٹر نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اپنی قوم انگریز کو مجرم سمجھتا ہوں۔

گنگوہے میں ایک مولانا احمد علی صاحب تھے۔ ان کی ایک کتاب مناجات پر ہے۔ وہ پورے اور معتدبر تھے، ان کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ مولانا احمد علی صاحب نے یہ قصہ بتایا

کہ گنگوہیہ مال مسجد کے پاس سے ایک فوجی گذرا اور اس نے مسجد کو سلام کیا۔ میں نے لڑکوں کے ذریعہ اس کو اپنے پاس بلا کر مٹھایا۔ اور اس سے پوچھا کہ ہم نے سب کچھ سنا مگر یہ نہیں سنا کہ کسی نے مسجد کو سلام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، جب میں نے اصرار کیا تو اس نے تیار کیا کوئی دس برس ہوتے ہیں اپنے گھر سے والد صاحب سے لڑکر بھاگ گیا تھا، تو مندا آدمی تھا۔ سہارنپور جا کر فرج میں بھرتی کر لیا۔ چونکہ فوجی لوگ کسی چیز کا مالک نہیں کرتے، اس لئے لوٹ جھپٹ کر سوا شرفیاں میں نے جمع کی تھیں، چنانچہ عرصے کے بعد حیب میں واپس ہوا تو اس مسجد کے پاس آکر یہاں جب اپنے وطن بکھوٹی پہنچا، تو معلوم ہوا کہ مسجد میں بمبائی چھوٹ گئی، میں پریشان واپس آیا اور تلاش کیا، مگر نہیں ملی اس لئے حیب اس مسجد کے پاس سے گذرتا ہوں، تو اس کو سلام کرتا ہوں، مولانا نے فرمایا کہ وہ دیکھو چھپرے، آٹھ دس برس سے کوئی چیز اس میں لٹک رہی ہے، اس قاتے میں دیانت بہت تھی، اس کو جا کر کھولا تو پوری سوا شرفیاں تھیں، وہ بہت خوش ہوا اور اس میں سے دس ترقی مولانا کو دیا چاہا، مگر مولانا نے انکار فرمادیا۔

ارتداد فرمایا، یہ تبلیغی کام دینا لاری پیدا کرنے کے لئے ہے۔

بیعت کا طریقہ

حضرت اقدس رضویہ مہم عام دونوں معرب کے بعد اور جمعہ کے دن ساڑھے گیارہ بجے مجلس میں بیعت فرماتے ہیں! اور رمضان المبارک میں عشا کی افان سے پہلے بیعت فرماتے ہیں، بیعت ہونے والوں کی کثرت کی بنا پر رمضان المبارک میں اور جمعہ کے دن کوئی خاص خادم عام طور پر مولوی احمد ولایت مکیہ کی طرح توبہ کے الفاظ دہراتے ہیں اور بیعت کرتے والے ان کو ادا کرتے ہیں اس وقت عجیب منظر ہوتا ہے۔


خطبہ ماثورہ کے بعد آیت "ان الذین یالیعونک سے اجراء عظیماً" تک تلاوت فرماتے ہیں اور ان الفاظ سے توبہ کرتے ہیں، کہو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، ایمان لاتے ہم اللہ پر اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر بھلا سمیلا میرا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی، ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، زنا کرنے سے، لواطت کرنے سے، جھوٹ پورنے سے،

پر ایسا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہونا یا بڑا اور عہد کیا ہم نے انشاء اللہ کوئی نہیں کریں گے اور جو ہو جائے گا۔ تو توبہ کریں گے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی، اپنے پاک رسول کی تابعداری کی، بیعت کی ہم نے مولانا خلیل احمد صاحب سے ذکر یا کے ہاتھ پر اس کے بعد فرماتے کہ دعا کرو بھائی، اللہ تمہیں بھی توفیق دے اور مجھے بھی اور دعا کے بعد فرماتے کہ معمولات کا پرچار دگر جاتی اور انگریزی میں طبع ہو چکا ہے اس کو اپنے ساتھ لے لیں۔

ختم خواجگان حضرت کے یہاں ماہ مبارک میں اس کا اہتمام رہتا ہے اور اس کے بعد کوئی صاحب دعا کراتے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ امت کے لئے دعا مانگی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام شہر کا ختم دس دس مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد مجموعی طور پر تین سو ساٹھ مرتبہ کا ملجا، ولا منجا، من اللہ الا الیہ " پھر تین سو ساٹھ بار مع بسم اللہ سورۃ الم نشرح، پھر تین سو ساٹھ مرتبہ کا ملجا، ولا منجا، من اللہ الا الیہ " پھر دس دس مرتبہ سب لوگ درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔

طالب صادق کی کامیابی یقینی ہے ارشاد نہرایا۔ اصل چیز اخلاص ہے جس کی وجہ سے پیر کا نااہل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو مضر نہیں ہوتا، چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک قصہ سنا تھا کہ ایک ڈاکو تھا جب تک شباب و قوت رہی خوب ڈاکے مارے لیکن جب ضعیف و پیری لاحق ہوئی اور اعضا نے جواب دے دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشہ اختیار کیا جائے۔ ساتھیوں نے بتلایا کہ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں بے محنت، مشقت خوب مزے اڑتے ہیں، قصہ تو طویل ہے اس مصنوعی پیری لغویات کے ساتھ ایک سچا طالب حق اس کے پاس پہنچا۔ یہ اپنی لغویات میں مشغول تھا، مگر اس کی طلب اور صدق نیت نے پیری خرافات کی طرف توجہ بھی نہ ہونے دی اس نے جاگ ریت ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ سے اللہ کا راستہ سیکھنے آیا ہوں وہ چونکہ غلطی سے ہوا وقت و جگہ

پہنچ گیا تھا اس لئے وہ اس کے بعد بے وقت آنے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یوں نہیں آتا یہ کہ اس کو ایک پھاوٹا دیا اور کہا کہ فلاں باغ میں اس کی گولوں کو صاف کر دو اس کی، ڈولیں بناؤ اور نالیاں درست کرو، وہ اسی وقت پھاوٹا لے کر تحقیق کرتا ہوا اس باغ میں پہنچا اور اس کی مرمت شروع کر دی، باغ والے مزاحم ہوئے کہ تو ہمارے باغ میں کیوں دخل دیتا ہے اس نے بہت منت خوشامد کر کے کہا کہ مجھے تمہارے باغ سے کچھ لینا نہیں مجھے میرے پیر نے اس باغ کو صاف کرنے کو اور مرمت کرنے کو کہا ہے۔ اول اول تو وہ لوگ بہت ڈرتے تھے اس کو مارا پیٹا بھی مگر یہ دیکھ کر یہ نہ کھانے کو مانگتا ہے نہ اور کچھ، جو کچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے کھا لیتا ہے۔ تین مہینے اسی حال میں گزر گئے۔ مشہور یہ ہے کہ ابدال میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غوثِ وقت کی مجلس میں اس کا بدل منتخب ہوتا ہے، چنانچہ کسی ابدال کا انتقال ہوا، اور غوث کی مجلس میں انتخاب کے لئے ابدال حضرات نے اپنی اپنی رائے سے لوگوں کے نام بتلائے، حضرت غوث نے سب کے نام سن کر یہ کہا کہ ایک نام ہمارے زہن میں بھی ہے اگر تم پسند کر دو، سب نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں حضرت نے فرمایا کہ فلاں باغ کا فلاں مالی بڑا مخلص ہے۔ سچی طلب رکھتا ہے، بہت اخلاص سے بخاہدہ میں مشغول ہے، سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا پھر سب نے مع حضرت غوث اس پر توجہ ڈالی جس کی وجہ سے اسی وقت اس پر انکشافات ہوئے اور فی الارض کرتا ہوا اور پھاوٹا باغ والوں کو یہ کہہ کر حوالہ کر دیا کہ یہ فلاں پیر صاحب کا ہے جو فلاں گاؤں میں رہتے ہیں، اور میں جا رہا ہوں، ہر چند ان لوگوں نے خوشامد منت سماجت کی کہ ذرا اپنا حال تو بتلا دے مگر اس نے کچھ نہیں بتلایا اور کہا سنا معاف کر اگر وہیں سے غائب ہو گیا۔ یہی مطلب ہے اس مشہور مقولہ کا کہ پیر من خس است اعتماد من بس است، اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔



خاتمہ

حضرت اقدس مدنیو ضمیمہ کے ارشادات و ملفوظات کو اسی پر ختم کر رہا ہوں، اگرچہ ان کی ترتیب وغیرہ کا کام میں نے گذشتہ سال ہی مکمل کر لیا تھا مگر کتابت و طباعت کی تئواروں کی بنا پر کافی تاخیر ہو گئی میرے بہت سے بزرگوں و دوستوں نے ان کے مطالعہ و زیارت کے اشتیاق کا اپنے خطوط کے ذریعے اور زبانی اظہار فرمایا اور ان کی اشاعت کے لئے دعا گو ہے ، بالخصوص محترم المقام مولانا سید آفتاب احمد مدنی صاحبزادہ گرامی فخر المحدثین حضرت مولانا میرٹھی نور اللہ مرقدہ جنہیں حضرت اقدس سے والہانہ تعلق و محبت ہے اسی طرح مولانا غلام محمد نوزگت صاحب (ترکیسر) اور مولانا یوسف ٹوٹلا ساؤتھ انسٹریٹ اور سہادہ مولانا محمد طہنی مدیر المبعث الاسلامی، لکھنؤ نے ان کی ترتیب و اشاعت کے لئے ہر طرح کی حوصلہ شکنائی فرمائی یہ ناکارہ ان سب حضرات کا دل سے ممنون ہے حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناکارہ کی ، خطاؤں و لغزشوں کو دگر فرما کر ان ملفوظات اور صاحب ملفوظات کی برکات سے سرفراز فرمائے، واللہ ولی التوفیق

فقط

والسلام

تقی الدین مظاہری

مقیم استمانہ خلیلیہ

مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

۲۶ ذی الحجہ ۱۳۹۱ھ

